

10 Days Crash Course
For best and powerful start
Taught Since 2002 Biiznillaah
2nd Edition

ABM

Book #30

قرآنی عربی گرامر

Quranic Arabic Grammar

COURSE 1

المقرر الدراسي
والتدريبات

لمبادي النحو والصرف لفهم لغة القرآن والسنة

Text Book + Exercises

COURSE 2

المحادثات العربية مع خزانة الكلمات العربية

Arabic Conversation + Vocabulary

Successfully implemented in India , USA, Canada , Europe , Gulf & far East and
taught to 5000 Students Alhamdulillah

Author :
Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Pursuing Ph.D. from Switzerland

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Arshad Basheer Madani Notes

جملة الحقوق محفوظة لدى مؤسسة الطبع

© All Rights Reserved with Publisher

AskIslamPedia.com - Academic Wing

Text Book with Exercises

المقرر الدراسى والتدريبات

Edition 2020

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Author

شيخ ارشد بشير عمرى مدنى سلمه الله

Shaikh Arshad Basheer Umeri Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Pursuing Ph.D. from Switzerland

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

askmadani@gmail.com | 0091- 9290621633

www.askmadani.com

Publisher and Printer

Arshad Basheer Madani Notes

ABM Print Time

abm.printtime@gmail.com | 0091- 93909 93901

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

COURSE 1

المقرر الدراسي والتدريبات

لمبادي النحو والصرف لفهم لغة القرآن والسنة

Text Book + Exercises

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Table of Content

فہرست

Pg.No.	Chapters	اسباق	Sl.No.
	Preface	تمہید	
1	Alphabet, Vowels, word and its types, Noun, Verb, Particles and their types	حروف تہجی ، حرکات ، کلمہ اور اس کی قسمیں اسم اور اس کی قسمیں ، فعل اور اس کی قسمیں حرف اور اس کی قسمیں	الدرس الاول 1
26	Part-1 Noun & Nominal Sentence	الباب الاول - الاسم والجملة الاسمية	
27	Definite and Indefinite Noun, Types of Definite Noun, Sun letters and Moon letters	معرفہ نکرہ، معرفہ کے اقسام، حروف شمسی و حروف قمری	الدرس الثاني 2
44	Masculine & Feminine	مذکر و مؤنث	الدرس الثالث 3
53	Singular, Dual and Plural, Declinable and Indeclinable Nouns	واحد، ثنئیہ اور جمع (جمع مذکر سالم ، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر) ، منصرف اور غیر منصرف، مثنیٰ و معرب	الدرس الرابع 4
71	Compound and its types	ایک نظر - مرکب اور اس کی اقسام	
75	Adjective	موصوف صفت	الدرس الخامس 5
86	Possessive Phrase	مضاف ، مضاف الیہ	الدرس السادس 6
95	Subject and Predicate, and their modified forms	مبتدا و خبر اور ان کی تبدیل شدہ حالتیں	الدرس السابع 7

130	Part-2 : Verb & Verbal Sentence	الباب الثاني – الفعل والجملة الفعلية	
	I-Types of Verbs.	I-فعل کی قسمیں	
131	Past Tense	ماضی	الدرس الثامن 8
146	Present and Future Tense	مضارع	الدرس التاسع 9
203	The Imperative verb	امر	الدرس العاشر 10
209	Trilateral derived verb, Four Lettered Verbs	ابواب ثلاثی مجرد و مزید فیہ ، ابواب رباعی مجرد	الدرس الحادي عشر 11
226	Verbal Sentence , Formation of Verbal Sentence	جملہ فعلیہ ، جملہ فعلیہ کی بناوٹ	الدرس الثاني عشر 12
239	General Knowledge	عام معلومات	
260	Ae'raab	اعراب	
263	Teacher's Guide	معلم گائیڈ	

مقدمہ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد:
عربی زبان کو دیگر تمام زبانوں پر فوقیت حاصل ہے، اس کا سیکھنا اپنی مادری زبان سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں رب کا کلام قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے جس سے اس زبان کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا اور آسان طریقے سے سمجھ آئے گا۔

راقم الحروف 25 سال کی عمر سے یہ کورس پڑھا رہا ہے۔ ابتدا میں صرف ایک چارٹ اور بورڈ سے پڑھایا جاتا تھا۔ اپنے ذہن سے مثالیں دے کر سمجھاتا تھا، طلبہ کو فائدہ ہونے لگا، مختلف قسم کے طلبہ شریک ہونے لگے جس سے کورس کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملی۔

مختلف دورات، محاضرات اور آسک اسلام پیڈیا کی مصروفیات کے باوجود اس کورس پر اصرار ہوتا رہا، آخر کار ایسی کتاب ترتیب دینے کا ارادہ ہوا۔ جس میں محدود اسباق و تطبیقات ہوں، عصری اسلوب میں جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کو اپنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ اس طریقہ سے یہ اسباق و تطبیقات پر مشتمل کتاب بن گئی نحو و صرف کے ساتھ۔
الحمد للہ اب تک پانچ ہزار طلبہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔

ہندوستان میں قابل ذکر مقامات جہاں یہ کورس پڑھایا گیا: حیدرآباد، ممبئی اور بنگلور ہیں۔
بیرون میں قابل ذکر مقامات: خلیج کے ممالک، برطانیہ، فرانس، امریکہ، کینیڈا، سنگاپور اور ملیشیا ہیں۔

اس کتاب کی کچھ خصوصیات، فوائد و نتائج:

- صرف و نحو کا امتزاج
- موجودہ کتابوں کی نسبت قرآنی آیات کی کثرت (ان شاء اللہ)
- اس کتاب کا حصہ اول پڑھنے سے اس قابل ہونگے کہ ان شاء اللہ قرآن مجید کی 50٪ پچاس فیصد گرامر جان لینے اور اپنے سے الفاظ بنا پائینگے۔ (ان شاء اللہ)
- عربی پڑھانے کے الگ الگ طریقے پائے جاتے ہیں: عربی بذریعہ الفاظ و معانی، عربی برائے نظریات اور عربی برائے تطبیقات۔ کسی بھی طریقہ کو اپنا کر ہمارے اس کورس کو پڑھایا جاسکتا ہے۔ (ان شاء اللہ)
- یہ کتاب چار زبانوں میں ہے۔ (ان شاء اللہ)
- مختصر ہے مگر اہم بھی۔ (ان شاء اللہ)
- اس کے بعد بڑے بڑے کورس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ (ان شاء اللہ)
- مخالف نہیں بلکہ مساعد ہے دنیا کے دیگر کورس کے لیے۔ (ان شاء اللہ)
- Competition نہیں بلکہ Compliment ہے اور کورس کے لیے۔ (ان شاء اللہ)

- یہ کورس اپنے آپ میں یونیک اور نادر ہے۔ (ان شاء اللہ)
- اس کورس کے بعد بہت سے لوگوں کو عربی کا شوق ہوا اور وہ مدینہ اور IOU پہنچ چکے ہیں الحمد للہ (ان شاء اللہ)
- یہ کورس تشویق کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ (ان شاء اللہ)
- عربی گرامر شروع کرنے کے لیے ایک قوی اور اہم شروعات ہے۔ (ان شاء اللہ)
- ہزار سے زیادہ Vocabulary ہے اور 400 سے زیادہ Prepared Phrases Conversation کے لئے

یہ کتاب کس کے لیے؟

- ہند و بیرون ہند مساجد میں اور دعوہ سنٹرس کے لیے مختصر و موثر کورس
- عربک گرامر کے حلقے قائم کرنے کے لیے
- فہم قرآن کے حلقے کے لیے
- اسلامک اسکولس کے لیے
- آن لائن کورس کے لیے

ہدیہ تشکر:

میں اس موقع پر اپنے مادر علمی جامعہ دارالسلام، عمرآباد، ٹامل ناڈو، انڈیا کو کیسے بھول سکتا ہوں جس کے سایہ عاطفت میں رہ کر تعلیم و تربیت پانے کا حسین موقع ملا۔ اسی طرح جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، سعودی عرب کو بھی نہیں بھلا سکتا، جس کے نامور اساتذہ کی تربیت میں ذہن کی ایک ایک کھڑکی کھلتی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان سب کے میزان حسنات کو ثقیل فرمادے۔ آمین اور اس نصاب کی تیاری میں جن بھائیوں نے مکمل ساتھ دیا جیسے شیخ عبداللہ عمری، شیخ عبدالرحمن عمری مدنی، شیخ نورالدین عمری، شیخ معین الدین عمری، شیخ عبدالواسع عمری، جناب منصور بھائی، محترمہ نسرین زوجہ ارشد بشیر مدنی، جناب کاشف بھائی، جناب فہیم بھائی، جناب ذکی بھائی، جناب اشفاق بھائی وغیرہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں جن کا بھرپور ساتھ رہا۔

میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، جدید نسل عربی زبان کو سیکھ پائے، فہم قرآن و حدیث کی استعداد پیدا ہو اور اسلام کے سچے داعی بن جائیں۔ آمین

والسلام

ارشد بشیر عمری مدنی سلمہ اللہ

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA) MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

10 BENEFITS OF THE 7 DAYS RESIDENTIAL QUR'ANIC ARABIC COURSE

Do you dream of a basic understanding of the Qur'an directly from its Arabic language? Do you dream of giving a speech in Arabic with correct sentences? Do you wish to do this in seven days? Here is the opportunity for all of you

1. In-sha-Allah this course will make you grasp the basic of Arabic grammar so quickly that you will be able to understand the Tilawath of the Qur'an when it is read by Imam during salah. Thus increasing your Khushoo and concentration in salah.
2. After this course In-shaa-Allah you will notice that you will not reach for the translation for every little Arabic word, in fact the basic Arabic words of the sacred Qur'an or the authentic duas will automatically start making sense to you.
3. This course is not about all the boring lectures rather about a smart technique developed by Shaikh Arshad Basheer Madani which will jump start your ability to understand basic Arabic.
4. In-sha-Allah you will learn to start framing basic Arabic sentences. This course will also be the foundation for higher level courses in future.
5. Some Grammatical rules are being repeated in the Qur'an around 50%. In-sha-Allah you will catch the logic of this grammar and you will achieve this in just 7 days.
6. This Arabic course will help you in giving more sense than any normal translations. No amount of translation can give the deep meanings contained in Arabic words. You will notice that this course enables one to understand the actual sense and meaning of Arabic words.
7. Some words are being repeated around 50% in the Qur'an, In-sha-Allah you will learn through this course.
8. With the help of Allah, through this course one can differentiate between what is commanded by Allah, the seriousness of obligation and stress laid on some rules which can't be understood by mere translations.
9. This course is being conducted by Shaikh Arshad Basheer Madani since 2002 and Alhumdulillah! College going students and professionals without Arabic background after attending this course they became so confident and inspired that few of them are now pursuing Alim course also.
10. By Allah's Taufeeq, this course can be successful only when you sincerely do all the homework within the stipulated time given by the Shaikh. And also you need to have the zeal and interest with commitment to learn the language of the Qur'an.

Note: This Arabic grammar course will only give you a little understanding of the theme or general meaning of many Aayaath of the Qur'an because tafseer of the Qur'an can only be understood as explained by Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and as understood by the companions of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم as mentioned in Qur'an 2:137, 4:115, 9:100 etc.

Ibn Abbas (رضي الله عنه) viewed that Tafseer of Ayaath can be divided into four categories:

- Those Aayaath which Arabs knew because of its Arabic language
- Those Aayaath for which ignorant will not be excused.
- Those Aayaath which the scholars know very well.
- Those Aayaath which no one knows except Allaah, Tafseer Tabari Vol 1: pg 75 (Maktaba Shamila)

- کیا آپ کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں بھی آتا ہے؟
- کیا یہ آپ کی دلی تمنا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے؟
- مشنر قرآن کی آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہوئے باطل پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ عربی کی باریکیاں سمجھتے ہوئے ان کا جواب دینا پسند کریں گے؟
- کیا آپ اپنے ہاتھ سے کچھ عربک کے جملے بنانے کی دلی تمنا رکھتے ہیں؟
- کیا آپ قرآن مجید میں 50% Repeat ہونے والی گرامر کی Logic سات دن کے عرصہ میں آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں؟
- کیا آپ قرآن مجید میں 50% Repeat ہونے والی Vocabulary سات دن میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
- کیا عربی زبان میں گفتگو کی بنیادی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
- اس بنیادی کورس کے ذریعہ سے کیا آپ مستقبل میں بڑے بڑے عربی کورس میں مہارت کیلئے بہترین شروعات کا ارادہ رکھتے ہیں؟

تو پھر یہ سنہرا موقع ہے آپ کے لیے، آپ اس کورس میں ضرور حصہ لیں۔ ان شاء اللہ، بإذن اللہ

- یہ عربی گرامر کورس آپ کو قرآن کی تعبیر اور اس کی کافی آیات سمجھنے میں ایک حد تک مدد کرتا ہے، جبکہ قرآن کی تفسیر محمد ﷺ نے جس طرح سمجھائی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس طرح سمجھا اسی طرح سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں، (9:100, 4:115)

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

- وہ آیتیں جو عرب کے لوگ (یا عربی جاننے والے) سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی مادری زبان ہے۔
- وہ آیتیں جو جاہل بھی سمجھ پاتے ہیں، ان کی جہالت مانع نہیں ہوتی۔
- وہ آیتیں جو عالم ہی بہتر سمجھ پاتے ہیں۔
- وہ آیتیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

DIFFERENT PLANS

to Conduct Arabic Grammar Course

عربک گرامر کورس پڑھانے کے
مختلف Plans ایک نظر میں

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Lesson Plan for Ten days course

محادثة	الفاظ ومعانی	اسباق	دن
التعارف	اسماء (قرآن مجید) 1-100	حروف تہجی مع الامثلة، حرکات، کلمہ اور اس کی قسمیں، اسم اور اس کی قسمیں، فعل اور اس کی قسمیں، حرف اور اس کی قسمیں	1
المحادثة عن الصلاة بين الزائرين	افعال (قرآن مجید) 1-100	معرفة نكرة معرفة کی اقسام حروف شمسی و حروف قمری	2
الاسرة عيادة المريض	ألوان - الاعداد - أعضاء الجسم - المواد الغذائية	مذکر و مؤنث	3
الذهاب الي الطبيب	الحيوانات - البيت - الأشياء - الكون	واحد، ثثنیہ اور جمع منصرف اور غیر منصرف	4
الذهاب الي المدرسة	الموسم - المدرسة	موصوف صفت مضاف، مضاف اليه	5
التاكسي المقابلة للوظيفة	في المكتب - وظائف	مبتدأ و خبر اور ان کی تبدیل شدہ حالتیں	6
لقاء تجاري	داخل المطار - في المدينة - القطار	فعل کی قسمیں (ماضی، مضارع)	7
جواز السفر	تعابير مفيدة (ص: 57-65)	فعل کی قسمیں (امر و نہی)	8
تغيير العملة النكاح	الاحاديث للأطفال (1-41) التحيات	ابواب ثلاثی مجرد و مزید فیہ، ابواب رباعی مجرد	9
الحج والعمرة	تعابير الوداع، الامنات، كيف تقوم بتعريف نفسك، حل سوء تفاهم، السؤال عن الاتجاهات و طلب ، المساعدة	جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کی بناوٹ	10

- روزانہ کلاس ورک اور ہوم ورک بھی دیتے رہیں۔
- فعل اگرچہ کہ ساتویں دن آرہا ہے لیکن پہلے ہی دن سے فعل اور اس کے متعلقات کی یاد دہانی کرائی جائے گی خاص طور سے 40

frames اور مجرد و مزید فیہ کے تطبیقات۔

Lesson Plan for 1 year

ساتویں تا دسویں جماعت کے طلبہ کو ایک سال میں جمع کر کے سال بھر پڑھانے اور 12 سبق ختم کروانے کا plan، ان شاء اللہ۔

ماہ	ہفتہ	اسباق	الفاظ و معانی	محادثة
1	1	حروف تہجی مع الامثلة، حرکات، کلمہ اور اس کی قسمیں	اسماء (قرآن مجید) 1-25	التعارف
	2	اسم اور اس کی قسمیں	اسماء (قرآن مجید) 26-50	
	3	فعل اور اس کی قسمیں	اسماء (قرآن مجید) 51-75	
	4	حرف اور اس کی قسمیں	اسماء (قرآن مجید) 76-100	
2	1	معرفة اور نکرہ کی تعریف، معرفة کی قسمیں	افعال (قرآن مجید) 1-25	المحادثة عن الصلاة بين الزائرين
	2	علم، ضمائر	افعال (قرآن مجید) 26-50	
	3	أسماء اشارة، أسماء موصولة	افعال (قرآن مجید) 51-75	
	4	معرفة باللام، اضافت، منادی، حروف شمسی و قمری	افعال (قرآن مجید) 76-100	
3	1	مذکر اور مؤنث	ألوان – vocabulary	الاسرة
	2	مؤنث کی اقسام	الاعداد – vocabulary	
	3	مشق	أعضاء الجسم – vocabulary	عيادة المريض
	4	اعادہ	المواد الغذائية – vocabulary	
4	1	واحد، تثنية اور جمع (سالم اور مکسر)	الحيوانات – vocabulary	الذهاب الي الطبيب
	2	گردان – تثنية و جمع مع مذکر و مؤنث	البيت – vocabulary	
	3	اسم فاعل اور اسم مفعول، منصرف اور غير منصرف	الأشياء – vocabulary	
	4	اعادہ	الكون – vocabulary	
5	1	موصوف صفت	الموسم – vocabulary	الذهاب الي المدرسة
	2	موصوف صفت میں مطابقت	المدرسة –	
	3	مضاف، مضاف اليه مع الامثلة	vocabulary	
	4	اعادہ		
6	1	مبتدا خبر، گردان مبتدا خبر	في المكتب – vocabulary	التاكسي
	2	مبتدا خبر کی بعض صورتیں		
	3	مبتدا خبر کی تبدیل شدہ حالتیں	وظائف – vocabulary	المقابلة للوظيفة
4	اعادہ			

لقاء تجاري	داخل المطار- vocabulary	فعل کی قسمیں۔ فعل ماضی	1	7
	في المدينة- vocabulary	فعل کی قسمیں۔ فعل مضارع	2	
	القطار- vocabulary	مشق	3	
		اعادہ	4	
جواز السفر	تعابير مفيدة (ص:57- (65	فعل کی قسمیں۔ امر و نہی	1	8
		اعادہ	2	
		آبواب ثلاثی مجرد	3	
		ابواب ثلاثی مزید فیہ	4	
تغيير العملة	الاحاديث للأطفال (1- (20	جملہ فعلیہ اور اس کی بناوٹ	1	9
		اعادہ	2	
النكاح	الاحاديث للأطفال (2- (41	عدد محدود (1-100) مع الامثلة	3	
		التحيات	عدد و صفي مع الامثلة، عدد كسرى مع الامثلة	
الحج والعمرة	تعابير الوداع، الامنات	مفيد معلومات	1	10
	كيف تقوم بتعريف نفسك	اعراب	2	
	حل سوء تفاهم	اعادہ	3	
	السؤال عن الاتجاهات وطلب المساعدة	تقارير	4	

• روزانہ کلاس ورک اور ہوم ورک بھی دیتے رہیں۔

Lesson Plan for one month

- سنٹرس میں ایک ماہ کی مدت میں پڑھائے جانے والے سبق کی منصوبہ بندی



ایام	سبق
.1	سبق 1 - حروف تہجی مع الامثلة، حرکات، کلمہ اور اس کی قسمیں، اسم اور اس کی قسمیں، فعل اور اس کی قسمیں، حرف اور اس کی قسمیں
.2	ہوم ورک + اسماء (قرآن مجید) 1-50
.3	سبق 2 - معرفہ اور نکرہ کی تعریف، معرفہ کی قسمیں: علم، ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام، اضافت اور منادی، حروف شمسی و قمری
.4	ہوم ورک + اسماء (قرآن مجید) 51-100
.5	سبق 3 - مذکر اور مؤنث، مؤنث کی اقسام
.6	ہوم ورک + افعال (قرآن مجید) 1-50
.7	سبق 4 - واحد، تثنیہ اور جمع (سالم اور کسر)، تثنیہ و جمع مع مذکر و مؤنث گردان
.8	ہوم ورک + افعال (قرآن مجید) 51-100
.9	سبق 4 - اسم فاعل اور اسم مفعول، ماضی اور غیر ماضی
.10	ہوم ورک + ألوان
.11	سبق 5 - موصوف صفت، موصوف صفت میں مطابقت
.12	ہوم ورک + الاعداد
.13	سبق 6 - مضاف، مضاف الیہ مع الامثلة
.14	ہوم ورک + أعضاء الجسم
.15	سبق 7 - مبتدأ خبر، گردان مبتدأ خبر
.16	ہوم ورک + المواد الغذائية
.17	سبق 7 - مبتدأ خبر کی بعض صورتیں، مبتدأ خبر کی تبدیل شدہ حالتیں
.18	ہوم ورک + الحيوانات، البيت
.19	سبق 7 - مرفوعات، منصوبات، مجزورات، مجزومات
.20	ہوم ورک + اعادہ
.21	سبق 8 - فعل کی قسمیں - فعل ماضی (عین کلمہ زبر، زیر، پیش)
.22	ہوم ورک + الأشياء، الكون
.23	سبق 9 - فعل کی قسمیں - فعل مضارع (عین کلمہ زبر، زیر، پیش)
.24	ہوم ورک + الموسم، المدرسة
.25	سبق 10 - فعل کی قسمیں - امر حاضر و نہی
.26	ہوم ورک + في المكتب، وظائف
.27	سبق 11 - أبواب ثلاثی مزید فیہ
.28	ہوم ورک + داخل المطار، في المدينة، القطار
.29	سبق 12 - جملہ فعلیہ اور اس کی بناوٹ
.30	تقاریر

Arshad Basheer Madani Notes

- ایک دن کلاس رہے گی دوسرے دن چھٹی جس میں ہوم ورک کے ساتھ ساتھ الفاظ معانی یاد کر کے آنا ہے۔

gender	form	case	indeclinable	declinable
feminine	masculine	masculine	مبتدأ	نائب
	feminine	feminine	مبتدأ	نائب
masculine	masculine	masculine	مبتدأ	نائب
	feminine	feminine	مبتدأ	نائب
Nominative case		مبتدأ	نائب	مبتدأ
Genitive case		مبتدأ	نائب	مبتدأ
Accusative case		مبتدأ	نائب	مبتدأ
Dual		مبتدأ	نائب	مبتدأ
Plural		مبتدأ	نائب	مبتدأ

word	part	case
غالب	Subject	Indefinite
مقرون	Object	Indefinite
بونا	Adjective	Feminine
عظيم	Superlative	Feminine
قائل	Comparative	Dual
أقرب	Instrument	Plural
منه	Place	Plural



Types of Ism

Gender: Masculine, Feminine
Number: Singular, Dual, Plural
Cases: Nominative, Accusative, Genitive

Formation of Nominal Sentence

Examples:

- مَنْ يَسْأَلْ عِنْدَ الْمَلِكِ يَأْتِ بِسَبْطٍ (Subject + Adjective)
- بِئْسَ مَا يَأْتِيكَ مِنْ رَبِّكَ (Possessive + Possessed)
- بِئْسَ مَا يَأْتِيكَ مِنْ رَبِّكَ (Possessor + Possessed)

Types of Verbs

Trilateral and Three derived verbs.

Negative command tense

Command tense	Present & future tense	Past tense
لا تَسْأَلْ	تَسْأَلُ	سَأَلْتَ
لا تَسْأَلِي	تَسْأَلِينَ	سَأَلْتِ
لا تَسْأَلُوا	تَسْأَلُونَ	سَأَلْتُمْ
لا تَسْأَلِيَنَّ	تَسْأَلِيَنَّ	سَأَلِيَنَّ
لا تَسْأَلِيَنَّكُمْ	تَسْأَلِيَنَّكُمْ	سَأَلِيَنَّكُمْ
لا تَسْأَلُوا	تَسْأَلُونَ	سَأَلْتُمْ
لا تَسْأَلُوا	تَسْأَلُونَ	سَأَلْتُمْ
لا تَسْأَلُوا	تَسْأَلُونَ	سَأَلْتُمْ





few types of possessed possessor

examples	types
وَلَمْ يَجْرَبْهَا فَكَفَى (المائدة: 85)	definite possessor + Possessed
لَا يَنْبَغِيكَ تِلْكَ رِيثًا (ص: 22)	(indefinite possessor) + Possessed
أَفَضَلْتُ إِحْسَانًا لِي مِنْ حَبِيبَةٍ لِابْنِ أَبِي ذَرٍّ (آل عمران: 103)	(name possessor) + Possessed
أَكْمَرُ بِعَنْزَلِيٍّ دُوبِيٍّ (الكرورة: 6)	(nominal possessor) + Possessed
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِي (سجدة: 14)	adjective + possessor + Possessed
رَبِّكَ أَشَدُّ حَسَدًا (الحاقة: 2)	adjective + possessor + Possessed subject
رَبِّكَ أَشَدُّ حَسَدًا (الحاقة: 2)	possessor + Possessed + Possessed

Concept of: Arshad Basheer Madani (founder & Director - AskIslamPedia)

Designed by: Nasreen binte Hassaan (wife of Arshad Basheer Madani)

مرد	انث	مرد و انث	
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم
يوم	يوم	يوم	يوم



اسماء صفت

اسم صفت	اسم صفت مؤنث	اسم صفت مؤنث جمع
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات
علم	علمان	علمات

www.askislami.com

www.askislami.com

www.askislami.com

www.askislami.com

Arshad Basheer Madani

Nasreen binte Hassaan


Arshad Basheer Madani

Nasreen binte Hassaan

Arshad Basheer Madani

Nasreen binte Hassaan

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




Scientific Research Papers
for


LEARNING LANGUAGE

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes


اپنی ترجیحات میں Learning Cycle کا خیال ضرور رکھیں



قوت گویائی کے لیے سننے کی کتنی اہمیت ہے
 مندرجہ ذیل سائنٹفک ریسرچ رپورٹس اور
 تصاویر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے




Different Areas of Brain Indicating their Respective Functions



These areas are involved in Storing Memory Of Different Formats, like

1. Pictographic memory (Memory in the Form PICTURES & SYMBOLS)
2. Auditory memory (Memory Acquired thru Listening)
3. Visual memory (Memory Acquired Thru Seeing)
4. Writing Memory (Memory Acquired Thru Writing)

The Brain Map



These Memories can be trained (Sharpened) by Using Each of them Regularly. All these types Of memories should be Combined Together To Make Learning INTERESTING & EASY.



Benefits of Learning Multiple Languages:


Physiological studies have found that speaking two or more languages is a great asset to the cognitive process. The brains of bilingual people operate differently than single language speakers, and these differences offer several mental benefits. -The Telegraph 19 June 2013

<http://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/10126883/Why-learn-a-foreign-language-Benefits-of-bilingualism.html>


Different Areas of Brain Working in Hand to Hand to Store the DATA



Human Brain with Parts Labelled Regarding their Function



Different Areas of Brain involved in COMMUNICATION & LEARNING



AREAS OF BRAIN & THEIR RESPECTIVE FUNCTIONS



Facts about Human Brain

1. What is the memory capacity of the human brain? Is there a physical limit to the amount of information it can store? Paul Reber, professor of psychology at Northwestern University, replies: Neurons combine so that each one helps with many memories at a time, exponentially increasing the brain's memory storage capacity to something closer to around 2.5 petabytes (or a million gigabytes). For comparison, if your brain worked like a digital video recorder in a television, 2.5 petabytes would be enough to hold three million hours of TV shows. You would have to leave the TV running continuously for more than 300 years to use up all that storage.
2. The human brain cell can hold 5 times as much information as the Encyclopedia Britannica. Or any other encyclopedia for that matter. Scientists have yet to settle on a definitive amount, but the storage capacity of the brain in electronic terms is thought to be between 3 or even 1,000 terabytes. The National Archives of Britain, containing over 900 years of history, only takes up 70 terabytes, making your brain's memory power pretty dam impressive.


Ref: <http://mobile.dudamobile.com/site/Unbelievable-facts?url=http%3A%2F%2Fwww.unbelievable-facts.com%2F2012%2F07%2F10-unbelievable-facts-about-human-brain.html%3Fm%3D1#2567>

3. Alcohol interferes with brain processes by weakening connections between neurons. Ref: <http://www.tastyhuman.com/30-interesting-facts-about-human-brain/>

Different Areas of Brain Indicating their Respective Functions

AskIslamPedia

Arshad Bashir Madani Notes




Benefits of Learning

Multiple Languages:

Physiological studies have found that speaking two or more languages is a great asset to the cognitive process. The brains of bilingual people operate differently than single language speakers, and these differences offer several mental benefits. –The Telegraph 19 June 2013

<http://www.telegraph.co.uk/education/educationopin-10126883/Why-learn-a-foreign-language-Benefits-of-bilingualism.html>

The Brain Map




AskIslamPedia

Arshad Bashir Madani Notes


These Memories can be trained(Sharpened) by Using Each of them Regularly. All these types Of memories

AREAS OF BRAIN & THEIR RESPECTIVE FUNCTIONS





AskIslamPedia

Arshad Bashir Madani Notes



AUDITORY PATHWAY



Types of Memory

- Pictographic
- Auditory
- Visual
- Writing

Definition: Recalling past events at Conscious or Sub-conscious level is called Memory

Types of Memory

Reflexive or Implicit Memory
Non-Declarative

Explicit Memory
Declarative

Its consolidation of recent memory into permanent memory. It takes few hours

Long Term

Recalling Learned Events within few Minutes or Days

Short Term


Recalling of events learnt or seen immediately within a few minutes to few hours

Instantaneous

Recalling learned events after few days to few weeks

Recent Memory

Memory Formation: A Physio-Chemical Process



Disorders of Memory





Retrograde Amnesia: Loss of ability to remember the events that occurred before the impairment of brain function as in brain injury or brain bleed

Anterograde Amnesia: Fails to learn new things as consolidation is affected

Hysterical Amnesia: both short and long term memory lost due to mental illness

Korsakoff's Amnesia: Due to chronic alcohol use and vitamin b1 (thiamine) deficiency


Alzheimer Disease: Short term memory loss due to shrinkage of brain




DEVELOPMENT OF SPEECH

4 Weeks	• Watches Mother Intently when speaks to him
6 Weeks	• Social Smile • Follow Moving Persons
8 Weeks	• Fixes & Focuses Gaze
12 Weeks	• Recognises Mother
6 Months	• Mono-Syllable (Ba, Ma...)
9 Months	• Bi-Syllables (Mama, Baba...)
12 Months	• One to Two Words with Meanings
18 Months	• 8 to 10 Words Vocabulary
2 Years	• 2-3 word Sentences, Uses Pronouns (I, Me, You...)
3 Years	• Ask Questions, Knows Full Name & Gender
4 Years	• Says Poems/ Songs, Tells Stories
5 Years	• Ask Meaning of Words






Arshad Basheer Madani Notes



Thalamus (LGN) serves strategic role in gating of information flow to cortex



Hubel, 1995

Arshad Basheer Madani Notes



Preface - التمهید

جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بنیاد سمجھنے کے لیے پہلا سبق: اسم، فعل اور حرف

To understand jumle ismiyyah (nominal sentence) and jumle fe'liyyah (verbal sentence) first we have to understand ISM, FEI & Harf (Noun, Verb, Preposition)

الدرس الاول

سبق

LESSON-1

الاسم واقسامه

04

Al-Ism wa Aqsamuhu
Noun and its types

حروف الهجاء

01

Huroof-ul-Hijaa
Alphabet

الفعل واقسامه

05

Al-Fel wa Aqsamuhu
Verb and its types

الحركات

02

Al-Harakaat
Vowel signs

الحرف واقسامها

06

Al-Harf wa Aqsamuhu
Particles and its types

الكلمة واقسامها

03

Al-Kalimah wa Aqsamuha
Word and its types


Alphabet with
examples

Hurooful Hijaa
m'al amsilah

حروف الهجاء مع الامثلة

طِفْلٌ	طا	Taa	ط
ظُلْمٌ	ظا	Zaa	ظ
عَبْدٌ	عين	Ayn	ع
غَيْثٌ	غين	Ghaen	غ
فَيْلٌ	فا	Faa	ف
قَمَرٌ	قاف	Qaaf	ق
كِتَابٌ	كاف	Kaaf	ك
لَيْلٌ	لام	Laam	ل
مَسْجِدٌ	ميم	Meem	م
نَجْمٌ	نون	Noon	ن
هَالٌ	ها	Haa	ه
وَجْهٌ	واو	Waa	و
أَرْضٌ	همزه	Hamzah	ء
يَوْمٌ	يا	Yaa	ي

الله	الف	Alif	ا
بَقْرَةٌ	با	Baa	ب
تَوْبَةٌ	تا	Taa	ت
ثَوَابٌ	ثا	Saa	ث
جَنَّةٌ	جيم	Jeem	ج
حَجٌّ	حا	Haa	ح
خَشِيَّةٌ	خا	Khaa	خ
دُعَاءٌ	دال	Daal	د
ذِكْرٌ	ذال	Zaal	ذ
رَجُلٌ	را	Raa	ر
زَيْتُونٌ	زا	Zaa	ز
سُنَّةٌ	سين	Seen	س
شَجَرَةٌ	شين	Sheen	ش
صَبْرٌ	صاد	Saad	ص
ضَوْءٌ	ضاد	Zaad	ض



کلمہ کی تعریف: بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔


Kalima ki tareef: Baa-maana mufrad lafz ko kalima kehte hain

A meaningful individual word is called Kalimah

There are three types of word - Kalime ki teen qisme hain - کلمہ کی تین قسمیں ہیں -

3 حرف Harf Particle	2 فعل Fel Verb	1 اسم Ism Noun
---------------------------	----------------------	----------------------

Useful for teachers



الاسم

AL-ISM - NOUN

1

اسم کی بعض مثالیں | Some Examples of Noun

الاشیاء (چیز)			المكان (جگہ)		الحيوانات (جانور)			الانسان		
Things			Place		Animals			Person		
iv			iii		ii			i		
Pen	قلم	Qalam	قَلَمٌ	Makkah	مَكَّةُ	Camel	اونٹ	اَلْجَمَلُ	Muhammad	مُحَمَّدٌ
Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ	Madinah	مَدِينَةٌ	Horse	گھوڑا	اَلْفَرَسُ	Abdullah	عَبْدُ اللَّهِ
Paper	ورق	Waraq	وَرَقٌ	Hyderabad	حَيْدَرَابَادُ	Donkey	گدھا	اَلْحِمَارُ	Abdur Rahman	عَبْدُ الرَّحْمَنِ
Sock	جراب	Jaurab	جَوْرَبٌ	Egypt	مِصْرٌ	Whale	مچھلی (ویل)	اَلْحَوْتُ	Umar	عُمَرُ
Star	تارہ	Kaukab	كَوْكَبٌ	Baghdaad	بَغْدَادُ	Elephant	ہاتھی	اَلْفِيلُ	Usmaan	عُثْمَانُ
Cap	ٹوپی	Qalanswah	قَلَنْسَوَةٌ	Pakistan	بَاكِسْتَانُ	Snake	سانپ	اَلْحَيَّةُ	Khadeejah	خَدِيجَةُ
Meat	گوشت	Lahm	لَحْمٌ	India	اَلْهِنْدُ	Pig	سور	اَلْخِنْزِيرُ	Aaeshah	عَائِشَةُ
Bed	پینگ	Sareer	سَرِيرٌ	Arab	اَلْعَرَبُ	Monkey	بندر	اَلْقِرْدَةُ	Faatimah	فَاتِمَةُ
Knife	چاقو	Sikkeen	سِكِّينٌ	Taaef	اَلطَّائِفُ	Goat	بکرا	اَلْمَعزُ	Aasiyah	آسِيَّةُ
Toothpick	مسواک	Miswaak	مِسْوَاكٌ	Syria	اَلشَّامُ	Cow	گائے	اَلْبَقَرَةُ	Maryam	مَرْيَمُ

مزید اسماء کے لیے Vocabulary Book ملاحظہ فرمائیں۔

Mazeed Asma ke liye Vocabulary book Mulahaza farmaein

For more nouns refer the vocabulary book

تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، جانور، جگہ یا چیز کا نام بتائے اور اس میں تینوں زمانے (ماضی، حال اور مستقبل) نہ پائے جائیں۔
Tareef: ism wo kalimah hai jo kisi insaan, janwar, jagah ya cheez ka naam batae aur us me teeno zamane (maazi, haal aur mustaqbil) na paae jaein

Definition: A Noun is the name of a person, animal, place or thing without any tense (Past, present and future) and any word with a sensible meaning without tense.

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (الإخلاص:1)	He	وہ	Huwa	هُوَ	
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. (التوبة:40)	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرة:4)	They (all)	وہ سب	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. (التوبة:40)	She	وہ	Hiya	هِيَ	
هُمَا سَيِّدَتَانِ	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ. (البقرة:187)	They (all)	وہ سب	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (البقرة:32)	You	آپ	Anta	أَنْتَ	
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ. (القصص:35)	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمْ	
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة:91)	You (all)	آپ سب	Antum	أَنْتُمْ	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِّلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. (البيخاري:4850)	You	آپ	Anti	أَنْتِ	
أَنْتُمْ طَالِبَاتِنِ	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمْ	
أَنْتُنَّ طَالِبَاتُ	You (all)	آپ سب	Antunna	أَنْتُنَّ	
		1st Person Male/Female		متكلم مذکر و مؤنث	
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الانعام:79)	I	میں	Ana	أَنَا	
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. (الصف:14)	We	ہم	Nahnu	نَحْنُ	

Arshad Basheer Madani Notes

Example	3rd Person Male		غائب مذکر 		
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. (التغابن: 1)	His	اس کا	Hu	هُ 	
هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا. (القصص: 19)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا 	
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (البقرة: 7)	Their (all)	ان سب کا	Hum	هُم 	
		3rd Person Female		غائب مؤنث 	
لَهَا مَا كَسَبَتْ. (البقرة: 134)	Her	اس کا	Haa	هَا 	
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ. (النساء: 176)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا 	
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. (البقرة: 29)	Their (all)	ان سب کا	Hunna	هُنَّ 	
		2nd Person Male		حاضر مذکر 	
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. (آل عمران: 35)	Yours	آپ کا	Ka	كَ 	
وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا. (القصص: 35)	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُهَا 	
أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. (المائدة: 4)	Yours (all)	آپ سب کا	Kum	كُهم 	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث 	
اقْتَنِي لِرَبِّكِ. (آل عمران: 43)	Yours	آپ کا	Ki	كِ 	
أَبُوكُمَا مُهْنِدِش	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُهَا 	
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. (النساء: 11)	Yours (all)	آپ سب کا	Kunna	كُنَّ 	
		1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث 	
وَإِنِّي فَاتَّقُونِ. (البقرة: 41)	My	میرا	Yi	ي	
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. (البقرة: 127)	Our	ہمارا	Naa	نَا	

Arshad Basheer Madani Notes

Near Distance/ أسماء الإشارة للقريب

vii

English	اردو	Roman	مثالیں	عربی	Sl.No.
This	یہ	Haaza	هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ. (ال عمران: 138)	هَذَا	1
These (both)	یہ دونوں	Haazaani	هَذَيْنِ خَضْبَيْنِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِمْ. (الحج: 19)	هَذَانِ	2
These (all)	یہ سب	Haa'ulaae	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا فَمَا تَفْضَحُونَ. (الحجر: 68)	هَؤُلَاءِ	3
This	یہ	Haazihi	هَذِهِ تَأْتِيَةُ اللَّهِ. (هود: 64)	هَذِهِ	4
These (both)	یہ دونوں	Haataani	هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ. (ابن ماجه: 2216) إِخْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ (القصص: 27)	هَاتَانِ	5
These (all)	یہ سب	Haaulae	قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ (هود: 78)	هَؤُلَاءِ	6


Far Distance/ أسماء الإشارة للبعيد

That	وہ	Zaalika	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (البقرة: 2)	ذَلِكَ	1
Those (both)	وہ دونوں	Zaanika	فَذَانِكَ بُرْهَاتَانِ مِن رَّبِّكَ. (القصص: 32)	ذَانِكَ	2
Those (all)	وہ سب	Aulaeaka	وَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ. (البقرة: 5)	أُولَئِكَ	3
That	وہ	Tilka	تِلْكَ أُمَّةٌ. (البقرة: 134)	تِلْكَ	4
Those (both)	وہ دونوں	Taanika		تَانِكَ	5
Those (all)	وہ سب	Aulaeaka	أُولَئِكَ النِّسَاءُ	أُولَئِكَ	6

Relative Pronouns/ أسماء الموصولة

viii

Who, That, Which	وہ شخص جو	Allazi	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. (الكهف: 1)	الَّذِي	1
Who, That, Which	وہ دو شخص جو	Allazaani	وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ. (النساء: 16)	الَّذَانِ	2
Who, That, Which	وہ سب لوگ جو	Allazeena	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. (المعارج: 23)	الَّذِينَ	3
Who, That, Which	وہ عورت جو	Allati	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (ال عمران: 131)	الَّتِي	4
Who, That, Which	وہ دو عورتیں جو	Allataani	الْإِمْرَأَتَانِ اللَّتَانِ تَنْظِفَانِ الْبَيْتَ.	اللَّتَانِ	5
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaati Allaee	وَأَمْهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ. (النساء: 23) وَالَّتِي يَبْسُخْنَ مِنَ الْحَيْضِ. (الطلاق: 4)	الَّتِي الَّتِي	6
Who, that, which	وہ جو	Man	وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّأُ مِنْ قَبْلِ. (غافر: 67)	مَنْ	7
What, that, which	وہ جو	Maa	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. (البقرة: 32)	مَا	8



Doer of action and
Receiver of action

Ismul Faa'il
wal Maf'ool

اسم الفاعل و المفعول

Doer of action | Ismul Faa'il اسم الفاعل

ix

English	اردو	Roman	عربی
Masculine		مذکر	
Helper	مدد کرنے والا	Naasirun	نَاصِرٌ
Helpers (both)	مدد کرنے والے (دونوں)	Naasiraani	نَاصِرَانِ
Helpers (all)	مدد کرنے والے (سب)	Naasiroona	نَاصِرُونَ
Feminine		مؤنث	
Helper	مدد کرنے والی	Naasiratun	نَاصِرَةٌ
Helpers (both)	مدد کرنے والیاں (دونوں)	Naasirataani	نَاصِرَتَانِ
Helpers (all)	مدد کرنے والیاں (سب)	Naasiraatun	نَاصِرَاتٌ

Reciever of action | Ismul Maf'ool اسم المفعول

x

English	اردو	Roman	عربی
Masculine		مذکر	
One who was helped	جس کی مدد کی گئی	Mansoorun	مَنْصُورٌ
Both who were helped	جن دونوں کی مدد کی گئی	Mansooraaani	مَنْصُورَانِ
All who were helped	جن سب کی مدد کی گئی	Mansooroona	مَنْصُورُونَ
Feminine		مؤنث	
One who was helped	جس کی مدد کی گئی	Mansooratun	مَنْصُورَةٌ
Both who were helped	جن دونوں کی مدد کی گئی	Mansoorataani	مَنْصُورَتَانِ
All who were helped	جن سب کی مدد کی گئی	Mansooraatun	مَنْصُورَاتٌ

الفعل

AL-FEL - VERB

مثال:

English	اردو	Roman	صرفِ صغیر	فعل	Sl.No.
Understood	سمجھا	Aqala	عَقَلَ، يَعْقِلُ، عَقَلًا، عَاقِلٌ، إِعْقِلْ، لَا تَعْقِلْ	عَقَلَ	1
Sent	بھیجا	B'asa	بَعَثَ، يَبْعَثُ، بَعَثًا، بَاعِثْ، إِبْعَثْ، لَا تَبْعَثْ	بَعَثَ	2
Moved	دور کیا	B'auda	بَعَدَ، يَبْعُدُ، بَعْدًا، بَاعِدْ، لَا تَبْعُدْ	بَعَدَ	3
Remembered	ذکر کیا	Zakara	ذَكَرَ، يَذْكُرُ، ذِكْرًا، ذَاكِرٌ، أَذْكَرُ، لَا تَذْكَرْ	ذَكَرَ	4
went	گیا	Zahaba	ذَهَبَ، يَذْهَبُ، ذَهَابًا، ذَاهِبٌ، إِذْهَبْ، لَا تَذْهَبْ	ذَهَبَ	5
Rebelled or transgressed	نافرمانی کیا	Fasaqa	فَسَقَ، يَفْسُقُ، فَسُوقًا، فَاسِقٌ، أَفْسُقُ، لَا تَفْسُقْ	فَسَقَ	6
Forgiven	معاف کیا	Ghafara	غَفَرَ، يَغْفِرُ، غَفْرًا، غَافِرٌ، إِغْفِرْ، لَا تَغْفِرْ	غَفَرَ	7
Over powered	غالب ہوا	Ghalaba	غَلَبَ، يَغْلِبُ، غَلْبًا، غَالِبٌ، إِغْلِبْ، لَا تَغْلِبْ	غَلَبَ	8

تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔

TAREEF : fel wo kalimah hai jo kisi kaam ke hone ya karne ko batae aur isme teno zamaano me se koi ek zamana paya jaae.

DEFINITION : A word that represents an action or a state of being in any tenses (past, present and future)

تصريف فعل المضارع			
3rd Person Male		غائب مذکر	
He is doing / He will do	وہ کرتا ہے یا کرے گا	Yaf-a-lu	يَفْعَلُ
They (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-laa-ni	يَفْعَلَانِ
They (all) are doing / They will do	وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-loona	يَفْعَلُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is doing/ She will do	وہ کرتی ہے یا کرے گی	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
They (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتیں ہیں یا کریں گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
They (all) are doing / They will do	وہ سب کرتیں ہیں یا کریں گی	Yaf-al-na	يَفْعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are doing / You will do	تم کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
You (both) are doing / You will do	تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
You (all) are doing / You will do	تم سب کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-loona	تَفْعَلُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are doing / You will do	تم کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-leena	تَفْعَلِينَ
You (both) are doing / You will do	تم دونوں کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
You (all) are doing / You will do	تم سب کرتی ہو یا کرو گی	Taf-al-na	تَفْعَلْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am doing / I will do	میں کرتا ہوں یا کروں گا	Af-a-lu	أَفْعَلُ
We are doing / We will do	ہم کرتے ہیں یا کریں گے	Naf-a-lu	نَفْعَلُ

تصريف فعل الماضي			
3rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-lat	فَعَلَتْ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلَتَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-al-na	فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tu-maa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tum	فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
you did	تم نے کیا	Fa-al-ti	فَعَلْتِ
you (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tumaa	فَعَلْتُمَا
you (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tunna	فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-al-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم نے کیا	Fa-al-naa	فَعَلْنَا

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل الامر

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You do	تم کرو	If-al	اَفْعَلْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	اَفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-a-loo	اَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You do	تم کرو	If-a-lee	اَفْعَلِيْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	اَفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-al-na	اَفْعَلْنَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل النهي

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-al	لَا تَفْعَلْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-aloo	لَا تَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-alee	لَا تَفْعَلِيْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-alna	لَا تَفْعَلْنَ

Arshad Basheer Madani Notes

الحرف

AL-HARF PARTICLE

مثال: إلی (تک)، مِنْ (سے)۔

تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے۔

Misaal: Ila (Tak), Min(se)

Tareef : Harf wo kalima hai jo Ism ya Fel ke saath milkar apna maana batae.

Introduction : A particle is a word which gives meaning when it combines with any noun or verb.

اسم، فعل اور حرف کی آسان مثال "أَمَنْتُ بِاللَّهِ" میں اللہ پر ایمان لے آیا۔
(أَمَنْتُ: فعل، بَاء: حرف اور اللہ: اسم ہے)

نوٹ : حروف عربی زبان میں کئی طرح کے ہیں، ان میں دو اہم قسمیں یہ ہیں: حروف جر، حروف عطف

NOTE: Huruf arabi zaban me kayee hain, Unme do Aham qisme ye hain: Huruf-e-jarr, Huruf-e-Atf.

NOTE: There are many particles in Arabic language, two types of particles are: Harf Jar and Harf Atf (Preposition & Conjunction).

حروف جر: باء و تاء و کاف و لام و واو و منذ و مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی

حروف عطف: أما إما ثم او حتی ام اذا و فا اذا و فا اذا و فا

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No.
In/with	کے ساتھ	Baa	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - (سورة النمل : ۳۰)	بِ	۱
Swear	قسم	Taa	تَاللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ - (سورة الانبياء : ۵۷)	تَ	۲
Like/as	کی طرح، کے جیسا	Kaaf	مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ - (سورة النور : ۳۵)	كَ	۳
For/to	کے لیے	Laam	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - (سورة الفاتحه : ۱)	لِ	۴
Swear	قسم	Waaau	وَالْعَصْرِ - (سورة العصر : ۱)	وَ	۵
Since	جب سے	Munzu	مَا رَاَيْتَهُ مِنْذُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ	مِنْذُ	۶
Since	جب سے	Muz	مَا رَاَيْتَهُ مِنْذُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ	مِنْذُ	۷
Except	سوائے	Khalaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٌ	خَلَا	۸
Sometimes	کبھی کبھی	Rubba	رَبِّ مَبْلَغٍ اَوْ عَمٰی مِنْ سَامِعٍ - (صحیح البخاری : ۱۷۴۱)	رَبِّ	۹
Except	سوائے	Haashaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٌ	حَاشَا	۱۰
From/than	سے	Min	وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون۔ (سورة البقرة: ۴)	مِنْ	۱۱
Except	علاوہ	Adaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ عَدَا زَيْدٌ	عَدَا	۱۲
In	میں	Fee	وَفِی السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ - (سورة الذاریات : ۲۲)	فِی	۱۳
From/about	سے	An	وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْرِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا - (سورة البقرة : ۴۸)	عَنْ	۱۴
On/upon	پر، اوپر	Alaa	وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اَسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا - (سورة ال عمران : ۹۷)	عَلٰی	۱۵
Until	تک	Hattaa	سلام ہی حتی مطلع الفجر - (سورة القدر : ۵)	حَتّٰی	۱۶
To/Towards	تک ، کی طرف	Ilaa	اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِیْ هِیْ اَحْسَنُ - (سورة النحل : ۱۲۵)	اِلٰی	۱۷

تعریف : حروف جر یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسماء کو جر دینے والے۔

TAREEF: Huruf-e-jarr yani apne baad aane waale huruf ko jarr dene wale.

DEFINITION: Words which gives kasra to the Nouns / words following it.

عربی گرامر عربی گرامر

باء و تاء و کاف و لام و واو و منذ و مذ خلا

رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی

شعر

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No.
Some	کچھ	Ammaa	قُلْ لِلذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْاُنثِيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنثِيَيْنِ - (انعام: ۱۴۳)	اَمَّا	۱
Either	یا تو	Immaa	قَالُوا يَمُوسَى اِمَّا اَنْ تَلْقَى وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ نَحْنُ الْمُتَلَقِيْنَ. (اعراف: ۱۱۵)	اِمَّا	۲
So, then	پھر	Summa	كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - (بقرہ: ۲۸)	ثُمَّ	۳
Or	یا	Aw	اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظَلْمٌ وَّرَعْدٌ وَّوَبْقٌ - (بقرہ: ۱۹)	اَوْ	۴
Until	یہاں تک کہ	Hattaa	وَ اِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً. (بقرہ: ۵۵)	حَتّٰى	۵
Or	یا	Am	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنِيًّا - (النازعات: ۲۷)	اَمْ	۶
Then	جب	Izan	اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ - (البقرہ: ۱۴۵)	اِذَا	۷
And	اور	Waaau	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. (الفاتحہ: ۵)	وَ	۸
Then	پس	Faa	اَمَّا تَهُ فَاقْبَرِهٖ - (عبس: ۲۱)	فَ	۹

تعریف: حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔

TAREEF: Huruf-e-atf: wo huruf je doo jumloon ky darmiyan talluq awr jud paida karne k liye aate hain.

DEFINITION: A Conjunction is one which combines two sentences and relate them to each other.

اذا و فا اذا و فا اذا و فا

اما إما ثم او حتی ام

شعر

Arshad Basheer Madani Notes

English	اردو	Roman	قرآنی مثالیں	الاداة	S.no
Is / did	کیا	A	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ الانشراح أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ﴿٢١﴾ النجم	الهمزة	1
Is/ did	کیا	Hal	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴿١﴾ العاشية	هَلْ	2
What	کیا	Maazaa	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ البقرة	مَاذَا	3
what	کیا	Maa	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ القدر	مَا	4
Who is	کون ہے	Mann zaa	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ الحديد	مَنْ ذَا	5
Who ever	کون	Mann	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ فصلت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴿١١٤﴾ البقرة	مَنْ	6
How much /many	کتنے	Kam	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ المؤمنون	كَمْ	7
where	کہاں	Ayina	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ الانعام	آيِنَ	8
From where	کہاں سے	Annaa	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّنِي لِكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ آل عمران	أَنَّنِي	9
when	کب	ayyaana	أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ النحل	أَيَّانَ	10
how	کیسے	Kaifa	وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنَادُونَ عَلَيْنَا آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴿١٠١﴾ آل عمران	كَيْفَ	11
when	کب	Mataa	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ يونس	مَتَى	12
O!	اے	Ayyu	فَأَيُّ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴿الانعام: ٨١﴾	أَيُّ	13
why	کیوں	Limaaza	مَنْ اعْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَرُ, وَسَأَخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسْلُ؟ (صحيح ابن خزيمة: ١٧٥٥)	لِمَاذَا	14

أدوات الاستفهام : وہ حروف جو کسی نامعلوم چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے -

Adwat-e-istifhaam: wo huroof jo kisi naamalum cheez ki ma'rifat haasil karne ke liye astemaal hote hain aur jin ke zariye suwaal kiya jata hai.

Interrogative particle: It is used to ask a question and to know the unknown things.

أهل من ذا من ماذا
كيف متى أي لماذا

أهل ماذا ما ماذا
كم اين أني أيان

شعر

Exercise : 2

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 1

حروف تہجی کو ترتیب سے جوڑیں

Hurf-e-Tahji ko tarteeb se jodein

Join the Letters appropriately

	ط
	ك
	م
	ن
	ث
	ا
	س
	ب
	ی
	ی
	س
	ظ
	ز
	و
	ر
	ء
	د
	ح
	ح
	ج
	ع
	ع
	ق
	ق
	ث
	ہی

Read and Write

| Padhein aur Likhein |

پڑھیں اور لکھیں

					ا
					ب
					ث
					ج
					ح
					د
					ذ
					ر
					ز
					س
					ش
					ص
					ض
					ط
					ظ
					ع
					ف
					ق
					ک
					س
					م
					ن
					ہ
					و
					ء
					ی

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes
Read and Write | Padhiye aur Likhiye | پڑھیے اور لکھیے

Exercise : 3

								أعوذ
								بالله
								الشیطان
								الرجیم
								بِسْمِ
								اللَّهِ
								الرَّحْمَنِ
								الرَّحِيمِ
								الحمد
								لله
								رب
								العالمین
								مالك
								یوم
								الدین
								ایاک
								نعبد
								نستعین
								الصراط
								المستقیم
								الذین
								علیهم
								غیر
								المغضوب
								ولا
								الضالین

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 7

اسم، فعل اور حرف کی پانچ پانچ مثالیں "سورة الاعلیٰ" کی روشنی میں لکھیے۔
Ism, fel aur harf ki panch panch misaalen suratul Aalaa ki raushni me likhye
Give 5 Examples of Ism, Fel and Harf from Surah Aala

Hurf/Letters حرف	Fel/Verb فعل	Ism/Noun اسم

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 8

حروف عطف اور حرف جر کی پانچ پانچ مثالیں "سورة الغاشية" کی روشنی میں لکھیے۔
Huruf-e-atf aur huruf-e-jarr ki panch panch misaalen suratul ghashiya ki raushini me likhiye
Give 5 Examples of Ism, Fel and Harf from Surah Ghashiya.

حروف عطف کی مثالیں Huruf-e-atf ki misaalen/examples of conjunctions	حروف جر کی مثالیں Huruf-e-jarr ki misaalen/ examples of prepositons

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
اسم اور جملہ اسمیہ کی بحث

Noun & Nominal Sentence

الاسم والجملۃ الاسمیة

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

الدرس الثاني

سبق

LESSON-2

المعرفة والنكرة

01

Ma'rifa, Nakirah - Definite Noun and Indefinite Noun

المعرفة واقسامها

02

Ma'rifa ke Aqsaam - Types of Definite Noun

الحروف الشمسية والحروف القمرية

03

Huroof e Shamsi aur Huroof e Qamari - Sun letters and Moon letters

Useful for teachers

المَعْرِفَةُ وَالنَّكْرَةُ

مَعْرَبَةٌ

مَبْنِيَةٌ

العلمُ: زيدٌ
المعرفُ بأل: المسلمِينِ
المُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ: عِيدُ الْمُسْلِمِينَ

الضمير: هو
اسمُ الأشارَةِ: هذه
الاسمُ الموصولِ: الذي
النكرةُ المقصودةُ بالنداءِ: يَا بَطْلُ

نكرة

Nakirah - Indefinite Noun

معرفة

Ma'rifa / Definite Noun or Name

مثال: رَجُلٌ (كوتى آدمى)

Misaal: (Koi Aadmi)

Ex: Common man

تعريف: نكرة وہ اسم ہے جو عام معنی بتائے۔

TA'REEF: Woh Ism hai jo aam ma'ne bataye.

DEFINITION: A Noun which defines particular thing.

مثال: الرَّجُلُ (خاص آدمى)

Misaal: (Khaas Aadmi)

Ex: Specific/ particular man

تعريف: معرفہ وہ اسم ہے جو ایک خاص چیز کو بتائے۔

TA'REEF: Woh ism hai jo ek khas cheez ko bataye

DEFINITION: A Noun which defines particular thing.

Adding 'AL' to make it specific Noun	Muarraf bil Alif wal Laam	(1) معرف بالالف واللام
Name	Alam	(2) العلم
Pronoun (Plural: Pronouns)	Zameer (Jama' : Zamaaer)	(3) الضمير
Demonstrative Pronouns	Ism-ul- Isharah	(4) اسم الاشارة
Relative Pronouns	Ism-ul-Mausool	(5) اسم الموصول
Possessive phrase	Izaafat	(6) الاضافة
Vocative	Munaada	(7) المنادى

شعر : أَلْ عِلْمٌ وَالضَّمِيرُ وَالْإِشَارَةُ الْمَوْصُولَةُ الْإِضَافَةُ الْمُنَادَى

(1) Adding 'AL' to
make it specific Noun

(1) Muarraf bil Alif
wal Laam

(1) معرف بالالف واللام

Arshad Basheer Madani Notes

معرفہ کی مثال Marifah ki Misaal Example of a specific noun	تکرہ کی مثال Nakirah ki Misaal Example of non specific noun
(ال + مدینة) = المَدِينَةُ	مَدِينَةٌ
(ال + كِتَابٌ) = الْكِتَابُ	كِتَابٌ
(ال + رَجُلٌ) = الرَّجُلُ	رَجُلٌ

الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْحَمْدُ، الصِّرَاطُ، الْمُسْتَقِيمُ، الْكِتَابُ، الصَّلَاةُ، النَّاسُ، السُّفَهَاءُ، الضَّلَالَةُ، الْهُدَى -

تعریف: وہ اسم جس کے شروع میں "الف لام" آئے۔

Ta'reef: Woh ism jis ke shuru me "Alif Laam" aaye.

Definition: Those names which starts with Alif Laam

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



(2) Name

(2) Alam

(2) العلم

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

<p>ابراہیم ، إسماعیل ، یعقوب ، یوسف ، عثمان - Ibraheem, Ismaeel, Ya'qoob, Yusuf, Osman</p>	<p>خاص شخص: Khaas shaks / Particular Person</p>
<p>مکة ، مدینة ، ہند ، مصر ، عراق - Makkah, Madinah, India, Egypt, Iraq</p>	<p>خاص شہر: Khaas Shaher / Particular city</p>
<p>الکتاب ، القلم ، المكتب ، السکین - Al-Kitaab, Al-Qalam, Al-Maktab, Al-Sikkeen The book, the pen, the school, the knife</p>	<p>خاص چیز: Khaas Cheez / Particular thing</p>
<p>تعریف : علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا شہر یا چیز کا نام ہو - Ta'reef : Alam woh ism hai jo kisi khaas shaks ya shaher ya cheez ka naam ho. Definition: It is a noun which is the name of a particular person, place or thing.</p>	

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



Arshad Basheer Madani Notes

تعریف: ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔

Ta'reef : Aise alfaaz jo kisi naam ki jagah par istemaal kiye jaaye inko Zameer(Pronoun) kaha jata hai.

Definition: A Pronoun is a word used as a substitute for a Noun.

Detached Pronouns

Azzameer Al-munfasil

الضمير المنفصل

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (الإخلاص:1)	He	وہ	Huwa	هُوَ	
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. (التوبة:40)	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرة:4)	They (all)	وہ سب	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. (التوبة:40)	She	وہ	Hiya	هِيَ	
هُمَا سَيِّدَاتَانِ	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ. (البقرة:187)	They (all)	وہ سب	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (البقرة:32)	You	آپ	Anta	أَنْتَ	
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعْتُمْ الْعَالِيُونَ. (القصص:35)	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمْ	
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة:91)	You (all)	آپ سب	Antum	أَنْتُمْ	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِّلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. (البخاري:4850)	You	آپ	Anti	أَنْتِ	
أَنْتُمْ طَالِبَاتَانِ	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمْ	
أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ	You (all)	آپ سب	Antunna	أَنْتُنَّ	
		1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الانعام:79)	I	میں	Ana	أَنَا	
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. (الصف:14)	We	ہم	Nahnu	نَحْنُ	

Attached Pronouns

Azzameer Al-muttasil

الضمير المتصل

Example	3rd Person Male		غائب مذکر	
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. (التغابن: 1)	His	اس کا	Hu	هُ
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. (القصص: 19)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (البقرة: 7)	Their (all)	ان سب کا	Hum	هُم
	3rd Person Female		غائب مؤنث	
لَهَا مَا كَسَبَتْ. (البقرة: 134)	Her	اس کا	Haa	هَا
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. (النساء: 176)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. (البقرة: 29)	Their (all)	ان سب کا	Hunna	هُنَّ
	2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. (آل عمران: 35)	Yours	آپ کا	Ka	كَ
وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا. (القصص: 35)	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُمَا
أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ. (المائدة: 4)	Yours (all)	آپ سب کا	Kum	كُم
	2nd Person Female		حاضر مؤنث	
أَقْنِئِي لِرَبِّكِ. (آل عمران: 43)	Yours	آپ کا	Ki	كِ
أَبُو كَمَا مُهَنْدِسٌ	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُمَا
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. (النساء: 11)	Yours (all)	آپ سب کا	Kunna	كُنَّ
	1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
وَإِيَّايِ فَاتَّقُونِ. (البقرة: 41)	My	میرا	Yi	ي
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. (البقرة: 127)	Our	ہمارا	Naa	نَا

Arshad Basheer Madani Notes

Near Distance/الإشارة للقريب					
English	اردو	Roman	مثالیں	عربی	Sl.No.
This	یہ	Haaza	هَذَا يَبَيِّنُ لِلنَّاسِ. (ال عمران: 138)	هَذَا	1
These (both)	یہ دونوں	Haazaani	هَذَيْنِ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمُوا فِي رَجَبِهِمْ. (الحج: 19)	هَذَانِ	2
These (all)	یہ سب	Haa'ulaae	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيِّقٌ فَلَا تَفْضَحُونِ. (الحجر: 68)	هَؤُلَاءِ	3
This	یہ	Haazihi	هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. (هود: 64)	هَذِهِ	4
These (both)	یہ دونوں	Haataani	هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ. (ابن ماجہ: 2216)	هَاتَانِ	5
These (all)	یہ سب	Haaulaae	قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ (هود: 78)	هَؤُلَاءِ	6
Far Distance/الإشارة للبعيد					
That	وہ	Zaalika	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (البقرة: 2)	ذَلِكَ	1
Those (both)	وہ دونوں	Zaanika	ذَانِكَ يَوْمَانِ تَعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. (النساء: 2357)	ذَانِكَ	2
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (البقرة: 5)	أُولَئِكَ	3
That	وہ	Tilka	تِلْكَ أُمَّةٌ. (البقرة: 134)	تِلْكَ	4
Those (both)	وہ دونوں	Taanika	تَانِكَ الْمَرْتَانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّيْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ. (المعجم الكبير، مصنف عبد الرزاق)	تَانِكَ	5
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	أُولَئِكَ النِّسَاءُ	أُولَئِكَ	6

تعریف: کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Kisi cheez ya shaks ki taraf Isharah karne ke liye istemaal hone wale alfaaz ko asmaa e Isharah kehte hai

Definition: Those words that are used to point at something are known as Demonstrative Pronouns.

Arshad Basheer Madani Notes

Relative Pronouns/أسماء الموصولة					
Who, That, Which	وہ شخص جو	Allazi	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. (الكهف:1)	الَّذِي	1
Who, That, Which	وہ دو شخص جو	Allazaani	وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ. (النساء:16)	الَّذَانِ	2
Who, That, Which	وہ سب لوگ جو	Allazeena	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْمُونَ. (المعارج:23)	الَّذِينَ	3
Who, That, Which	وہ عورت جو	Allati	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (ال عمران:131)	الَّتِي	4
Who, That, Which	وہ دو عورتیں جو	Allataani	الْإِمْرَأَتَانِ اللَّتَانِ تَنْظِفَانِ الْبَيْتَ.	الَّتَانِ	5
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaati Allaee	وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ. (النساء:23) وَالَّتِي يَبْسُغْنَ مِنَ الْحَيْضِ. (الطلاق:4)	الَّتِي الَّتِي	6
Who, that, which	وہ جو	Man	وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ. (غافر:67)	مَنْ	7
What, that, which	وہ جو	Maa	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. (البقرة:32)	مَا	8

تعریف: جو الفاظ جملہ پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصود کو واضح کر دیتے ہیں ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Jo alfaaz jumle par dakhil hokar kisi cheez ke maqsood ko wazeh kardete hai inko asmaa e Mausula kehte hai.

Definition: A relative pronoun used to connect a phrase or clause to a noun or pronoun which highlights the details and gives complete sense. If it is used individually then it will not give complete sense.

Arshad Basheer Madani Notes

اضافت کی مثال

Izafat ki Misaal : Example of possessive Noun

قَلَمُ الرَّجُلِ

قَلَمٌ ← الرَّجُلِ
(مضاف) (مضاف الیه)

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

تعریف: ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنے کو اضافت کہتے ہیں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Ek Ism ki nisbat dusre Ism ki taraf karne ko Izafat kehte hain, pahle Ism ko Muzaaf aur dusre Ism ko Muzaaf Ilaih kehte hain

Definition: The possessive Noun is a combination of two nouns in which the first noun is owned by or in possession of the second noun. First noun is called possessed, and second noun is called possessor.

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

مثال: يَا زَيْدُ ("زَيْدُ" اسم منادی اور "يَا" حرف نداء ہے)

Misaal : Yaa zaid ("Zaid" Ism Munada aur "Yaa" harf nidaa hai)

Example: Yaa Zaid (O Zaid)

<p>منادی کی قرآنی مثالیں Munaada ki Qur'ani Misaalen Examples / Quranic examples of Vocative</p>	<p>شمار S.No.</p>
<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (البقرة: ۲۱)</p>	<p>۱</p>
<p>قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ (البقرة: ۳۳)</p>	<p>۲</p>
<p>يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا (البقرة: ۴۰)</p>	<p>۳</p>
<p>قَالَ يَا مَرْيَمُ (ال عمران: ۳۷)</p>	<p>۴</p>
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (البقرة: ۱۰۴)</p>	<p>۵</p>

تعریف: منادی وہ اسم ہے جو حرف نداء کے بعد آتا ہے اور جس میں متکلم مخاطب کی توجہ کا طالب ہوتا ہے۔

Ta'reef : Woh ism jis ke zariye bulaya jaaye.

Definition: Vocative noun is a noun which comes after a vocative particle and in which the speaker seeks the attention of the second person.

Sun Letters	Huroof-e-Shamsi	حروف شمسی
<p>مثال: الطامة، الثواب، الصادقين، الراكعين، التوابين، الضالين، الذاكرين، الناصحين، الدين، السائحون، الظالمين، الزجاجة، الشاكرين، اللهب۔</p>		
<p>تعريف: وہ لام جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا اور اسکے بعد والا حرف مشدد ہوتا ہے۔</p> <p>Ta'reef : Woh laam jo likha jaata hai laikin padha nahi jaata aur iske baad wala Harf mu-shaddad hota hai.</p> <p>Definition: Those Letters in which the letter Laam is written but not read and the letter after that is Mushaddad.</p>		
<p>ان کی تعداد ۱۴ ہے۔ جن کا مجموعہ یہ شعر ہے:</p> <p>طب ثم صل رحما تفض ضيف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفاً للكرم</p> <p>1- ط. 2- ث. 3- ص. 4- ر. 5- ت. 6- ض. 7- ذ. 8- ن. 9- د. 10- س. 11- ظ. 12- ز. 13- ش. 14- ل.</p>		
Moon Letters	Huroof-e-Qamri	حروف قمری
<p>مثال: الأول، البر، الغني، الحكيم، الجنة، الكبير، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القيوم، اليقين، الملك، الهادي.</p>		
<p>تعريف: وہ لام جو لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا اور اسکے بعد والا حرف مشدد نہیں ہوتا ہے۔</p> <p>Ta'reef : Woh laam jo likha jaata hai aur padha jaata aur iske baad wala Harf mushaddad nahi hota hai.</p> <p>Definition: Those Letters in which the letter Laam is written and read. The letter after that is not Mushaddad.</p>		
<p>ان کی تعداد ۱۴ ہے جن کا مجموعہ ہے:</p> <p>(ابح حجك وخف عقيمه)</p>		

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise: 1

Identify the below underlined words whether they are Active or Indefinite

Niche diye gaye khat kasheeda alfaz maarifa hain ya nakira pahchaniye

نیچے دیے گئے خط کشیدہ الفاظ معرفہ ہیں یا نکرہ پہچانے

معرفیہ او نکرہ Marifa aur nakira Definite and Indefinite	الاسم ism The Noun	معرفیہ او نکرہ Marifa aur nakira Definite and Indefinite	الاسم ism The Noun
	الارض فراشا	معرفہ	ذلك الكتاب
	انزل من السماء ماء		ذلك الكتاب
	انزل من السماء ماء		هدى للمتقين
	رزق لكم		الحمد لله
	فأتوا بسورة من مثله		الصرار المستقيم
	فاتقوا النار		محمد رسول الله
	ان لهم جنات		سواء عليهم
	رزقوا منها من ثمرة		لهم عذاب عظيم
	لهم فيها ازواج مطهرة		غشاوة
	ان يضرب مثلاً		في قلوبهم مرض
	انه الحق		في الارض
	هم فيها خالدون		هم المفسدون
	الذي جعل لكم		اشتروا الضلالة
	انتم تعلمون		فيه ظلمات وورعد
	هذا الذي رزقنا		يكاد البرق

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise: 3

Read and Write, Identify Solar Letters and Lunar Letters	Padhiye aur likhiye aur huroof-e-shamsi aur huroof-e-qamari ko pahchaniye	پڑھیے اور لکھیے اور حروف شمسی اور قمری کو پہچانیے۔
--	---	--

حروف قمری	حروف شمسی	لکھیے	پڑھیے
	---	البرق	البرق
			الازواج
			الارض
			السماء
			الصراط
			الكتاب
			الفرش
			السورة
			الثمرة
			المفسدون
			المتقين
			العزیز
			السلام

Exercise: 2

معرفہ کو نکرہ اور نکرہ کو معرفہ بنائیے marifa ko nakira aur nakira ko marifa banaaeye. Interchange Definite with Indefinite and Vice Versa
--

کتاب	الكتاب
	هدی
	عذاب
	عظیم
	المفسدون
	البرق
	مثلا
	الرزق
	الصراط
	الغشاوة
	سماء
	النار
	الارض
	الأزواج

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 4

سورة البلد کی روشنی میں معرفتہ نکرہ پہچانیے اور لکھیے

AskIslamPedia

Exercise : 5

Read and Write, Identify Solar Letters and Lunar Letters	Padhiye aur likhiye aur huroof-e-shamsi aur huroof-e-qamari ko pahchaniye	پڑھیے اور لکھیے اور حروف شمسی اور قمری کو پہچانیے۔
--	---	--

حروف قمری	حروف شمسی	لکھیے	پڑھیے
	---	البرق	البرق
			الازواج
			الارض
			السماء
			الصراط
			الكتاب
			الفراس
			السورة
			الثمرة
			المفسدون
			المتقين
			العزیز
			السلام

حروف شمسی اور حروف قمری پہچانیے اور Underline کر کے ش اور ق لکھیے

Huroof e Shamsi aur Huroof e Qamari pechane aur underline karke Sheen aur Qaaf likhiye:

Identify the Sun letters and Moon letters, and underline and write Sheen and Qaaf

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ - (ال عمران: ١٤٤)	وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ - (الانعام: ١٨)
الْمُصْبِحِ فِي زُجَاجَةٍ - (النور: ٣٥)	وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ - (سبا: ٢٦)
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - (الفاتحة: ٣)	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ - (الرعد: ٩)
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (التوبة: ١١٢)	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ - (البقرة: ٣٥)
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ . (الاحزاب: ٣٥)	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ - (المائدة: ١١٩)
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - (البقرة: ٣٧)	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - (البقرة: ١٧٧)
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ - (البقرة: ٤٣)	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (الحديد: ٣)
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - (الحجر: ٩٩)	وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ - (البقرة: ٣٥)
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ - (ال عمران: ١٩٥)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ - (التوبة: ١١٢)
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى - (النازعات: ٣٤)	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - (الفاتحة: ٧)
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ - (الانعام: ١٣٣)	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - (البقرة: ٣٢)
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - (البروج: ١٤)	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - (البقرة: ٢٥٥)



اء		ى		ة	
مؤنث	مذكر	مؤنث	مذكر	مؤنث	مذكر
صَفْرَاءُ	أَصْفَرُ	كُبْرَى	أَكْبَرُ	صَادِقَةٌ	صَادِقٌ
خَضْرَاءُ	أَخْضَرُ	صَغْرَى	أَصْغَرُ	قَرِيبَةٌ	قَرِيبٌ
زَرْقَاءُ	أَزْرَقُ	بَشْرَى	بَشِيرٌ	أَتِيَةٌ	أَتٍ
بَيْضَاءُ	أَبْيَضُ	حَسْنَى	أَحْسَنُ	حَسَنَةٌ	حَسَنٌ
سَوْدَاءُ	أَسْوَدُ			سَيِّئَةٌ	سَيِّئٌ
حَوْرَاءُ	أَحْوَرُ			صَابِرَةٌ	صَابِرٌ
عَمِيَاءُ	أَعْمِي			قَانِتَةٌ	قَانِتٌ
بَكَاءُ	أَبْكُرُ			مَسَلَةٌ	مَسَلٌ
عَوْرَاءُ	أَعْوَرُ			سَاجِدَةٌ	سَاجِدٌ

نوٹ: اکثر و بیشتر زبانوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔

جب مخاطب مذکر و مؤنث دونوں ہی کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں۔

NOTE: Aksar wa baishitar zabaano mein muzakkar aur muannas dono ke liye mukhtalif alfaaz paaye jate hai. Arabic mein bhi aisa hi hai. Jab Mukhatib muzakkar wa muannas dono hi ko ek lafz me bayan karna chahe toh phir iska ke liye muzakkar ke alfaaz istemaal kiye jaate hai jis me khawateen khud ba khud shamil hoti hai.

NOTE: :In most of the languages different words are used to refer male and female, the case is similar for Arabic. However, when we want to refer both males and females together, then we use the masculine words and the females are automatically included in it.

<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تاء (ة) ہو، مؤنث سمجھے جاتے ہیں اگرچہ حقیقتاً وہ مؤنث نہ بھی ہوں۔ صَلْوَةٌ (نماز)، جَنَّةٌ (باغ)، حَسَنَةٌ (نیکی) وغیرہ۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir mein gol taa(ة) ho, Muannas samjhe jate hai agarche haqeeqatan woh muannas na bhi ho. Masalan: Salatun, Jannatun, Hasanatun wagairah.</p> <p>Those words which ends with a round ‘(ة)’ are considered as feminine, however they are not female nouns. Example: Salah, garden, deeds etc.</p>	<p>۱</p>
<p>نوٹ: مذکر کے آخر میں بھی گول تاء لگا کر اسے مؤنث بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے: عالم سے عالمۃ، ساجد سے ساجدۃ۔ اس قاعدے سے متعدد الفاظ مستثنیٰ ہیں۔ جیسے: خلیفۃ (خلیفہ)، علامۃ (بڑا عالم) وغیرہ۔</p> <p>Muzakkar ke akhir mein bhi gol taa lagakar ise muannas banaya jaa sakta hai. Jaise : Aalim se aalimatun, sajid se sajidatun. Is qaide se mutadid alfaaz mutashni hai. Jaise (khaleefa), (Bada Aalim) wagaira.</p> <p>Example: Aalim to Aalima-tun, Sajid to Sajida-tun. Masculine words can be changed to feminine by adding round ‘ta’ at the end. However there are few exceptions like words: Khaleefa, Alaama etc</p>	<p>۲</p>
<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں "اء" ہو، انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ سَوْدَاءُ (سیاہ خاتون)، بَيْضَاءُ (سفید خاتون) وغیرہ۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir me "alif hamza" ho, inhe bhi muannas samjha jata hai. Masalan : (Saudaau), (Baizaau) wagairah.</p> <p>Those words which ends with ‘alif and hamza’ are considered as feminine Nouns. Example Sauda, Bayda, etc,</p>	<p>۳</p>
<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں "ی" ہو، انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ صغریٰ (چھوٹی)، کبریٰ (بڑی)، عظمیٰ (عظیم خاتون) وغیرہ۔ اس "ی" کو "الف" پڑھا جاتا ہے۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir me "ya" ho, inhe bhi muannas samjha jata hai. Masalan :(Choti), (Badi),(Azeem Khatoon) wagairah. Is "ya" ko "alif" padha jata hai.</p> <p>Those words which ends with ‘Arabic YA’ are considered as feminine nouns. However Ya is pronounce as Alif. Example Sughra, Kubra, etc.</p> <p>مؤنث حقیقی: یہ وہ اسم ہے جو کسی حقیقی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً: جَارِيَةٌ (لڑکی)، اُمُّ (ماں)، اُخْتُ (بہن)، بِنْتُ (بیٹی) وغیرہ۔</p> <p>Muannas Haqeeqi : yeh woh ism hai jo kisi haqeeqi muannas ke liye istemaal hota hai. Masalan : ladki, Maa, Behen, beti wagairah.</p> <p>Original Feminine Nouns: Nouns which are by itself feminine in nature are considered as feminine nouns. Example Jaariyah, Ummun, Ukhtun, Bintun, etc.</p>	<p>۴</p>

مؤنث غیر حقیقی: ہر زبان میں بے جان اشیاء کے نام بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث۔ اہل زبان انہیں مذکر یا مؤنث فرض کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری میں مؤنث۔ جیسے اردو میں درخت مذکر ہے جبکہ عربی میں شجرۃ مؤنث ہے۔ اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث ہوتی ہے مگر عربی میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زبان سمجھتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زبان کے لوگ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر چند اصول یاد کر لیجئے:

Muannas ghair Haqeeqi : Har zubaan me bejaan ashiya ke naam bhi hote hai jo haqeeqat me na toh muzakkar hote hain aur na hi muannas. Ahle zabaan ne inhe muzakkar ya muannas farz karlete hai. Mumkin hai k eek lafz zubaan me muzakkar ho aur dosre me muannas. Jaise urdu me darakht muzakkar hai jabke arabi me shajrah muannas hai. Isi tarah urdu mein kitaab muannas hoti hai magar arabi me ise muzakkar samjha jata hai. Is mauqe par chand usool yaad karli jiye.

None living things are considered as Masculine or Feminine according to Arab culture. There is no "it" in Arabic language. Example Trees are feminine in Arabic.

مندرجہ ذیل الفاظ ہر حال میں مؤنث ہی سمجھے جائیں گے: اَرْضُ (زمین)، حَرَبٌ (جنگ)، سَمَاءٌ (آسمان)، رِنْحٌ (ہوا)، نَفْسٌ (جان)، شَخْصِيَّةٌ، نَارٌ (آگ)، شَمْسٌ (سورج)، مَلَكُوتٌ کے ناموں کو بھی مؤنث ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے انسانی اعضاء جو دو دو ہیں، کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے جیسے: يَدٌ (ہاتھ)، رِجْلٌ (پاؤں)، اُذُنٌ (کان) وغیرہ۔

Mundarijah zail Alfaaz har hal me muannas hi samjhein jayege : (zameen), (jung), (Aasmaan), (Hawa), (Jaan, shaksiyat) Mulko ke naamo ko bhi muannas hi samjha jayega . Jaise : Egypt, Syria, Pakistan wagairah Aise Insaani aa'zaa jo (do do) hai, is ko bhi muannas samjha jata hai jaise: (Hath), (Paoon), (Kaan) wagairah.

There are some words in Arabic language which are by itself feminine and they have evolved with time. Like names of countries, dual body parts, Earth etc. are all feminine.

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 1

Identify and Indicate the Masculine and Feminine words

muzakkar aur mu'annas ko pahchaniye aur in ki nashaandahi kijiye

مذکر اور مؤنث کو پہچانے اور ان کی نشاندہی کیجیے۔

مذکر یا مؤنث Muzakkar ya mu'annas Masculine or Feminine word	Mana معنی Meaning	Lafz لفظ Word
مذکر	پیلا	أَصْفَرُ
	پیلی	صَفْرَاءُ
	سبز	أَخْضَرُ
	سبز	خَضْرَاءُ
	سرخ	أَحْمَرُ
	سرخ	حَمْرَاءُ
	نیلا	أَزْرَقُ
	نیلی	زَرْقَاءُ
	خوبصورت ترین	أَحْسَنُ
	خوبصورت ترین	حُسْنَى
	سچا	صَادِقٌ
	سچی	صَادِقَةٌ
	گواہ، دیکھنے والا	شَاهِدٌ
	گواہ، دیکھنے والی	شَاهِدَةٌ
	جھوٹا	كَادِبٌ
	جھوٹی	كَادِبَةٌ

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 2

Indicate the masculine and feminine forms

Muzakkar aur mu'annas ki nashaandahi kijiye

مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔

1. رسول (مذکر _____ مؤنث _____)
2. رسالة (مذکر _____ مؤنث _____)
3. كتاب (مذکر _____ مؤنث _____)
4. مريم (مذکر _____ مؤنث _____)
5. كلمة (مذکر _____ مؤنث _____)
6. مصر (مذکر _____ مؤنث _____)
7. حسنى (مذکر _____ مؤنث _____)
8. دجاجة (مذکر _____ مؤنث _____)
9. امرأة (مذکر _____ مؤنث _____)
10. ام (مذکر _____ مؤنث _____)

Exercise : 3

Interchange Masculine to Feminine

Muzakkar se mu'annas banaeye

مذکر سے مؤنث بنائیے۔

مؤنث Mu'annas Feminine	مذکر Muzakkar Masculine	مؤنث Mu'annas Feminine	مذکر Muzakkar Masculine
	أَسْوَدُ (سیاہ)	نَصِيْرَة	نَصِيْرٌ (مددگار)
	أَخْضَرُ (سبز)		وَالِدٌ (باپ)
	أَبْيَضُ (سفید)		أَصْفَرُ (بیلا)
	أَخٌ (بھائی)		قَبِيْحٌ (بد صورت)
	أَزْرَقُ (نیلا)		شَاهِدٌ (گواہ)

أَحْمَرٌ (سرخ)	خَالٌ (ماموں)
حَسَنٌ (اچھا)	كَبِيرٌ (بڑا)
صَغِيرٌ (چھوٹا)	أَبٌ (باپ)
أَحْسَنُ (خوبصورت ترین)	هَذَا (یہ)
عَمٌّ (چچا)	شَدِيدٌ (سخت)
صَادِقٌ (سچا)	زَاهِدٌ (پرہیزگار)
كَاذِبٌ (جھوٹا)	فَاسِقٌ (بدکردار)
عَرِيْسٌ (دولہا)	رَجِيْمٌ (مہربان)
عَابِدٌ (عبادت گزار)	زَعِيْمٌ (لیڈر)

Identify and Mention Feminine nouns from Sooratul Takveer and Sooratul Shams

Suratut takaweer aur sirtush shams ki raushni me mu'annas ko pahchaniye aur likhiye

"سورة التکویر" اور "سورة الشمس" کی روشنی میں مؤنث کو پہچانے اور لکھیے۔

سورة الشمس	سورة التکویر

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 5

Fill in the blanks with Appropriate words

Munaasib alfaz k zariye khana puri kijiye

مناسب الفاظ کے ذریعہ خانہ پری کیجیے

- | | | | |
|-----------|-------|---------|----|
| (قریب) | | الساعة | 1. |
| (قریبہ) | | عائشة | 2. |
| (عالم) | | صغری | 3. |
| (عالمہ) | | الذجاجة | 4. |
| (صائم) | | القلم | 5. |
| (صائمہ) | | | |
| (حمراء) | | | |
| (احمر) | | | |
| (سوداء) | | | |
| (اسود) | | | |

Exercise : 6

Change the below lines in to Feminine Form

in jumloon ko mu'annas me badaliye

ان جملوں کو مؤنث میں بدلیے

ذلك كتاب	نجاح المسلم
الكلب احمر	فاز التلميذ
القلم اسود	صلى المؤمن
هذا جوال	جاء خالد
	هذا زيد

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 7

i. نیچے دیے گئے الفاظ سے مؤنث کا انتخاب کرتے ہوئے اقسام کے لحاظ سے ترتیب دیں:

Diye gaye alfaaz se muannas ka intekhaab karte howe aqsaam ke lihaaz se tarteeb den

Choose the feminine words from the given words and differentiate between them.

آمَنَةٌ - إِخْلَاصٌ - إِرْمٌ - إِسْرَاءٌ - أَسْمَاءُ - أَمَانَةٌ - آيَةٌ - بَرَاءَةٌ - بُشْرَى - بِنْتٌ - بَهْجَةٌ - تَحِيَّةٌ - تَسْنِيمٌ
 - تَقْوَى - تَقِيٌّ - جِهَادٌ - جَنَّةٌ - حَسَنَةٌ - حَيَاةٌ - حُورٌ - دَانِيَةٌ - دُعَاءٌ - دُنْيَا - ذِكْرَى - رَحْمَةٌ
 - رَوْضَةٌ - زَكِيَّةٌ - زَهْرَةٌ - زِينَةٌ - سَلْوَى - شَرَعَةٌ - شَفَاعَةٌ - شِفَاءٌ - صِدِّيقَةٌ - صَفَا - ضُحَى
 - ضِيَاءٌ - طَيِّبَةٌ - عَالِيَةٌ - عِزَّةٌ - فِدَاءٌ - فَضَّةٌ - قِسْمَةٌ - قَرْمَلِقَاءٌ - مَائِدَةٌ - مَأْوَى - مَرْوَةٌ -
 مَرِيْمٌ - مُنْتَهَى - مُودَةٌ - نَبَأٌ - نَجْوَى - نِدَاءٌ - نُوْرٌ - وَرْدَةٌ - وَسِيْلَةٌ - وَلايَةٌ - يَمْنَى - يُسْرَى
 - يَأْقُوْتُ

Arshad Basheer Madani Notes

مؤنث غیر حقیقی	اء	ی	ة

الدرس الرابع

سبق

LESSON-4

الواحد والتثنية والجمع

01

Wahid, Thathniya aur Jama - Singular, Dual & Plural

جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر

Jama muzakkar saalim, Jama mu'annas saalim, aur Jama mukassar

Sound masculine plural, Sound Feminine plural and Broken plural

الممنوع من الصرف

02

Munsarif aur Ghair Munsarif - Declinable and Indeclinable Nouns

آيات

وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. (يوسف: 13)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (أحزاب: 35)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. (الحجرات: 10)

كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. (الكهف: 33)

الْمَالِ وَالْبُنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (الكهف: 46)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. (زخرف: 74)

وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ. (زخرف: 77)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (المؤمنون: 1)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. (الملك: 4)

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. (المؤمنون: 6)

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. (الحجر: 90-91)

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. (المعارج: 36-37)

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ. (المؤمنون: 112-113)

وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. (الشعراء: 18)

إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. (البقرة: 133)

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة: 23)

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. (المائدة: 64)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيْنَا لَفُتِنَا لَعَلَّ لَنَا قُرْآنٌ كَبِيرٌ. (زخرف: 31)

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. (الرحمن: 31)

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ. (اعراف: 108)

تثنیه اور جمع مذکر سالم کی تصریف

Tasniya Aur Jama' Muzakkar Saalim Ki tasreef

Conjugation of Dual and sound Masculine plural

جمع Jama - Plural		تثنیه Tathniya - Dual		واحد Wahid Singular
حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمُونَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ
مُؤْمِنِينَ	مُؤْمِنُونَ	مُؤْمِنَيْنِ	مُؤْمِنَانِ	مُؤْمِنٌ
عَابِدِينَ	عَابِدُونَ	عَابِدَيْنِ	عَابِدَانِ	عَابِدٌ
مُنَافِقِينَ	مُنَافِقُونَ	مُنَافِقَيْنِ	مُنَافِقَانِ	مُنَافِقٌ

تثنیه اور جمع مؤنث سالم کی تصریف

Tasniya aur jama' muannas saalim ki tasreef

Conjugation of Dual and sound Feminine plural

جمع Jama - Plural		تثنیه Tathniya - Dual		واحد Wahid Singular
حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَاتُ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَةٌ
مُؤْمِنَاتٍ	مُؤْمِنَاتُ	مُؤْمِنَتَيْنِ	مُؤْمِنَتَانِ	مُؤْمِنَةٌ
عَابِدَاتٍ	عَابِدَاتُ	عَابِدَتَيْنِ	عَابِدَتَانِ	عَابِدَةٌ
مُنَافِقَاتٍ	مُنَافِقَاتُ	مُنَافِقَتَيْنِ	مُنَافِقَتَانِ	مُنَافِقَةٌ

Arshad Basheer Madani Notes


Isme Faayel | Doer Noun | اسم الفاعل

English	Roman	اردو	عربی		
			حالتِ جر Genitive case	حالتِ نصب Accusative case	حالتِ رفع Nominative case
Masculine مذکر					
Helper (Sigular)	Naasirun	مدد کرنے والا	نَاصِرٍ	نَاصِرًا	نَاصِرٌ
Helpers (Dual)	Naasiraani	مدد کرنے والے (دونوں)	نَاصِرَيْنِ	نَاصِرَيْنِ	نَاصِرَانِ
Helpers (Plural)	Naasiroona	مدد کرنے والے (سب)	نَاصِرِيْنَ	نَاصِرِيْنَ	نَاصِرُوْنَ
Feminine مونث					
Helper (Sigular)	Naasiratun	مدد کرنے والی	نَاصِرَةٍ	نَاصِرَةً	نَاصِرَةٌ
Helpers (Dual)	Naasirataani	مدد کرنے والیاں (دونوں)	نَاصِرَتَيْنِ	نَاصِرَتَيْنِ	نَاصِرَاتَانِ
Helpers (Plural)	Naasiraatun	مدد کرنے والیاں (سب)	نَاصِرَاتِ	نَاصِرَاتِ	نَاصِرَاتٌ

Isme Mafool | Object Noun | اسم المفعول

English	Roman	اردو	عربی		
			حالتِ جر Genitive case	حالتِ نصب Accusative case	حالتِ رفع Nominative case
Masculine مذکر					
One who was helped	Mansoorun	جس کی مدد کی گئی	مَنْصُورٍ	مَنْصُورًا	مَنْصُورٌ
Both who were helped	Mansooraaani	جن دونوں کی مدد کی گئی	مَنْصُورَيْنِ	مَنْصُورَيْنِ	مَنْصُورَانِ
All who were helped	Mansooroona	جن سب کی مدد کی گئی	مَنْصُورِيْنَ	مَنْصُورِيْنَ	مَنْصُورُوْنَ
Feminine مونث					
One who was helped	Mansooratun	جس کی مدد کی گئی	مَنْصُورَةٍ	مَنْصُورَةً	مَنْصُورَةٌ
Both who were helped	Mansoorataani	جن دونوں کی مدد کی گئی	مَنْصُورَتَيْنِ	مَنْصُورَتَيْنِ	مَنْصُورَاتَانِ
All who were helped	Mansooraatun	جن سب کی مدد کی گئی	مَنْصُورَاتِ	مَنْصُورَاتِ	مَنْصُورَاتٌ

Arshad Basheer Madani Notes
Useful for teachers



عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں:

Adad Ke Aet-e-baar Se Ism Ki Teen Qismein Hai:

There are 3 types of Nouns in Arabic from the point of view of Numbers, Singular, Dual and Plural

Singular	Wahed	واحد
<p>تعریف: وہ اسم جو ایک عدد پر دلالت کرے</p> <p>Ta'reef : Wo Ism jo ek adad par dalalat kare</p> <p>Intro: Referring One</p>	<p>مثال: رَجُلٌ ، اِمْرَأَةٌ-</p> <p>Misaal : Rajulun, Imra'atun</p> <p>Single: Example: Man, Woman.</p>	

Dual	Tasniya	تثنیه
<p>تعریف: وہ اسم جو دو عدد پر دلالت کرے۔ Ta'reef: Jo Do Cheezo Ko Bataaye Definition: It refers to two.</p>	<p>مثال: رَجُلَانِ - رَجُلَيْنِ - إِمْرَأَتَانِ - إِمْرَأَتَيْنِ Misaal :Rajulaani, Rajulaini Imra'ataani Imra'ataini. Example: 2Men, 2Women.</p>	
Grammar Rule	Qaida	قاعدہ
<p>تثنیہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ واحد کے آخری حرف کو (زبر) فتح دے دیا جاتا ہے۔ حالت رفع میں الف اور نون مکسورہ (زیر والانون) بڑھایا جاتا ہے۔ حالت نصب اور جر میں یاء (ی) اور نون مکسورہ (زیر والانون) بڑھایا جاتا ہے۔</p> <p>Tareef: Tasniya is tarha banaya jata hai ke wahid (mufrad) ke Akhri harf ko zabar (fatha) de diya jata hai. Halat-e-rafa me alif aur noon-e-maksoorah (zer wala noon) badhaaya jata hai. Halat-e-nasab aur halat-e-jar me alif aur noon-e-maksoorah (zer wala noon) badhaaya jata hai.</p> <p>Dual Noun for a nominative case is made by adding Alif and Noon at the end while Dual noun accusative case and genitive case is made by adding Ya and Noon.</p>		

Plural	Jama	جمع
<p>تعریف: جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ Ta'reef : Jo Do Se Zyada Par Dalalat Kare. Definition : It refers to more than two</p>	<p>مثال: رِجَالٌ - رِجَالًا - رِجَالٍ مُسْلِمُونَ - مُسْلِمِينَ - مُؤْمِنَاتٌ - مُؤْمِنَاتٍ</p>	

There are two Types of Plural	Jama' Ki Do Qismein	جمع کی دو قسمیں
<p>جمع مکسر Jama' Mukassar Broken Plural</p>	<p>جمع سالم Jama' Saalem Sound Plural</p>	

Sound Plural	Jama' Saalem	جمع سالم
جمع مؤنث سالم		جمع مذکر سالم
Jama' munnas Saalem - Female Sound Plural		Jama' muzakkar Saalem - Male Sound Plural
<p>تعریف: وہ جمع جس کے واحد کی شکل نہیں بدلتی اور جس کے آخر میں واو نون یا ی نون زیادہ کر کے جمع بنائی جاتی ہے اور مؤنث میں الف تاء بڑھایا جاتا ہے۔</p> <p>Tareef: Wo jama jis ke wahid ki shakal nahi badalti aur jis ke aakhir me waw noon ya yaa noon ziyada karke jama banaee jaati hai awr mu'annas me alif taa badhaaya jata hai.</p> <p>Sound plural can be made for those nouns whose singular form doesn't change, their plural can be made by adding Waaw and Noon for nominative case and Ya and Noon for accusative and genitive case. For feminine form Alif and Ta is added to make it plural, EX: Muslimoona, Muslimeena, Muslimaaton</p>		
مُؤْمِنَاتٌ - مُمِنَاتٌ - مَرِيْمٌ - مَرِيْمَاتٌ		مُسْلِمٌ - مُسْلِمِينَ - مُسْلِمُونَ
Grammar Rule	Qaida	قاعدہ
Feminine		Masculine
<p>واحد (مفرد) کو تبدیل نہ کر کے اس کے آخر میں حالت رفع میں الف (ا) اور تاء مضمومہ (پیش والی) بڑھائی جائے</p> <p>حالت نصب اور جر میں الف (ا) اور تاء مکسورہ (زیر والی) بڑھائی جائے</p> <p>Wahid (mufrad) ko tabdeel na kar ke is ke aakhir me:</p> <p>mazmooma (pesh) comes in last</p> <p>Halat-e-rafa me alif aur taa-e-mazmooma (pesh waali) badhaee jaye</p> <p>Halat-e-nasab aur jarr me alif aur taa -e-maksoora (zer waali) badhaee jaye</p> <p>Plural is made by not changing the singular noun & adding the following:</p> <p>(۱) In nominative case Alif and Taa is suffixed</p> <p>(۲) In genitive and accusative case Alif and Taa maksoorah is suffixed.</p>		<p>واحد (مفرد) کو تبدیل نہ کر کے اس کے آخر میں حالت رفع میں واو (و) اور نون مفتوحہ (زیر والا) بڑھایا جائے</p> <p>حالت نصب اور جر میں یاء (ی) اور نون مفتوحہ (زیر والا) بڑھایا جائے۔</p> <p>Wahid (mufrad) ko tabdeel na kar ke is ke aakhir me:</p> <p>Halat-e-rafa me waw aur noon maftooha (zabar wala) badhaya jaye</p> <p>Halat-e-nasab aur jarr me yaa aur noon maftooha (zabar wala) badhaya jaye</p> <p>Plural is made by not changing the singular noun & adding the following:</p> <p>(۱) In nominative case waw and noon maftooha (zabar) is suffixed.</p> <p>(۲) In genitive and accusative case yaa and noon maftooha is suffixed.</p>
<p>نوٹ بعض کی جمع میں "ت" نہیں آتا جیسے: شَاةٌ: شِيَاهٌ، اَمَةٌ: اِمَاءٌ، مَلَةٌ: مَلَلٌ</p>		

Broken Plural	Jama' Mukassar	جمع مکسر
<p>تعریف: جس میں واحد کا اصلی وزن باقی نہ رہے بلکہ الگ ہو جائے۔</p> <p>Ta'reef : Jisme Wahed Ka Asli Wazan Baaqi Na Rahe Balke Alag Hojaye</p> <p>Definition: In a broken plural a singular form doesn't remain same and gets changed.</p>	<p>کُتُبٌ ، رِجَالٌ۔</p> <p>Kutbun, Rijaalun</p> <p>Plural Of Kitaabun Is Kutbun, Plural Of Rajulun Is Rijaalun</p>	
Grammar Rule	Qaida	قاعدہ
<p>سَهْمٌ + سَهْمٌ</p>	<p>اسکے اصلی حروف میں کوئی حرف زیادہ کر کے</p> <p>Iske asli huroof me koi harf ziyada kar ke By adding few letters in the original form</p>	
<p>رَسُولٌ + رَسُولٌ</p>	<p>کوئی حرف کم کر کے</p> <p>Koi harf kam karke By removing a letter</p>	
<p>أَسَدٌ + أَسَدٌ</p>	<p>حرکات کو بدل کے</p> <p>Harkaat ko badal karke By changing the Harakaat (vowel signs)</p>	
<p>هَجَانٌ + هَجَانٌ</p>	<p>مفرد اور جمع دونوں برابر ہوتے ہیں</p> <p>Mufrad aur jama dono baraabar hote hain. The Singular and plural form are same.</p>	
<p>نوٹ: ان میں کے اکثر اوزان سماعی ہوتے ہیں۔</p> <p>Note: In me ke aksar auzaan simaa'ee hote hain</p> <p>Note: There is no fixed rule for making broken plural. It has just been evolved and learnt from the Arabs</p> <p>حَمَامَاتٌ، سَمَوَاتٌ، أَمَهَاتٌ، ثِيَابٌ</p> <p>Hammamaath, samaawaat, ummahaat, thayyibaat</p>		

Arshad Basheer Madani Notes

آيات

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. (الصف: 6)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. (آل عمران: 96)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. (المؤمنون: 50)

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. (الحاقة: 5)

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّالِبِينَ. (يوسف: 7)

نَشَلُو عَلَىكَ مِن نَّبِيٍّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. (القصص: 3)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. (النساء: 163)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. (الأنبياء: 81)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. (البقرة: 185)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. (لقمان: 13)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ. (آل عمران: 35)

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. (طه: 86)

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع. (فاطر: 1)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (البقرة: 184)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. (هود: 69)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ. (طه: 80)

اسْأَلْكَ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. (القصص: 32)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ . بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. (الصفافات: 45-46)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ. (المائدة: 101)

وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ. (يونس: 5)

إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا . حُدَابِيقَ وَأَعْنَابًا. (النبي: 31-32)

وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. (فصلت: 12)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ. (سبأ: 13)

اسم کی باعتبار اعراب دو قسمیں ہیں:

بنی : جس پر کوئی اعراب نظر نہ آئے، جیسے: موسیٰ

معرب : جس پر اعراب نظر آئے، جیسے: زید

البتہ تنوین آنے کے اعتبار سے اسم معرب کی دو قسمیں ہیں:

منصرف : جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے۔

غیر منصرف : جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے۔

Tanween ke etibaar se ism mo'rab ki 2 qismein hain:

1. Munsarif: jis me asbaab e man' sarf me se 2 sabab ya 2 ke qaem muqaam ek sabab na paaya jaae.
2. Ghair munsarif: jis me asbaab e man' sarf me se 2 sabab ya 2 ke qaem muqaam ek sabab paaya jaae.

منع صرف کے اسباب : کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے مندرجہ ذیل نو اسباب ہیں:

- | | | |
|-------------------|------------------------|-------------|
| (1) عدل | (2) وصف | (3) تائید |
| (4) معرفہ (علمیت) | (5) عجمہ | (6) جمع |
| (7) ترکیب | (8) الف و نون زائداتان | (9) وزن فعل |

Man-e' sarf ke Asbaab:

Kisi ke ghair munsarif hone ke mundarijah zel 9 asbaab hai:

- | | | | | |
|----------|------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 1. Adl | 2. Wasf | 3. Tanees | 4. Ma'rifa | 5. Ajamah |
| 6. Jama' | 7. Tarkeeb | 8. Alif wa noon zaidataan | 9. Wazn e fel | |

انہیں اسباب منع صرف کہتے ہیں۔ کوئی اسم تب ہی غیر منصرف بنتا ہے جب اس میں نو اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ ان اسباب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

- عدل** : کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل صغنے سے دوسرے صغنے میں بدل جانا "عدل" کہلاتا ہے، جیسے: عامرٌ سے عمرٌ اور ثلاثٌ سے ثلاثٌ کسی صرفی قاعدے کے بغیر بنے ہیں، اس لیے عمرٌ میں پہلا سبب عدل اور دوسرا معرفہ (علمیت) ہے اور ثلاثٌ میں پہلا سبب عدل اور دوسرا وصف ہے۔
- وصف** : وہ لفظ جو کسی چیز کی صفت، یعنی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے: "أحمرٌ" سرخ رنگ والا" اس میں پہلا سبب وصف دوسرا سبب وزن فعل ہے، سکرانٌ "مدہوش" اس میں بھی پہلا سبب وصف اور دوسرا الف ونون زائدتان ہے۔
- تانیث (مؤنث ہونا)**: جیسے عائشہ، مکتہ۔ ان میں منع صرف کا پہلا سبب تانیث اور دوسرا معرفہ، یعنی علمیت ہے۔
- معرفہ** : جیسے: زینب۔ اس میں دوسرا سبب تانیث ہے۔
- عجمہ** : وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس زبان میں علم ہو، جیسے: ابراہیم، اسماعیل۔ ان میں پہلا سبب معرفہ (علمیت) اور دوسرا عجمہ ہے۔
- جمع** : اس کے لیے شرط ہے کہ یہ منتہی الجوع کا صیغہ ہو، جیسے: مساجد، مصابیح۔
- فائدہ**: منتہی الجوع دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔
- ترکیب** : وہ دو کلمے جو اضافت و اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم (خاص نام) بن جائیں اور اس کے آخر میں "ویہ" کا لفظ نہ آئے، جیسے: بعلبک، یہ بعل اور بک سے مرکب ہے اور راہرمز، یہ رام اور ہرمز سے مرکب ہے۔
- الف ونون زائدتان** : جیسے: عثمان، سکران
- وزن فعل** : یعنی کلمہ فعل کے وزن پر ہو، جیسے: شمرٌ "گھوڑے کا نام" ذیل "قبیلے کا علم" (دونوں فعل ماضی کے وزن پر ہیں۔)

غیر منصرف کی صورتیں: غیر منصرف کی دو صورتیں ہیں:

- (1) جس میں غیر منصرف کے دو سبب پائے جائیں۔
- (2) جس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔

علم کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل چھ اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا:

- عدل، جیسے: عمر
- تانیث بالثناء، جیسے: فاطمۃ
- عجمہ، جیسے: یعقوب
- ترکیب، جیسے: بعلبک
- الف و نون زائدتان (اسم میں)، جیسے: عثمان
- وزن فعل جیسے: احمد

وصف کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل تین اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا:

- عدل، جیسے: ثلاث، مثلث
- الف و نون زائدتان (وصف میں)، جیسے: سکران
- وزن فعل، جیسے: اسود، احمر

وہ اسباب منع صرف جو کیلئے ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

- الف تانیث ممدودہ، جیسے: حمراء
- الف تانیث مقصورہ، جیسے: صغری
- جمع منتہی الجبوع، جیسے: مساجد، مصایح

فائدہ: اسم غیر منصرف پر "ال" داخل ہو یا وہ مضاف ہو تو جری حالت میں اس پر کسرہ آجاتا ہے، جیسے: ذہبت الی مساجدکم۔

Declinable Noun	Munsarif	منصرف
<p>تعریف: وہ اسماء جن کے آخر میں تینوں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش آتے ہیں -</p> <p>Ta'reef : Woh asmaa jin ke aakhir me teeno e'raab yan zabar, zer aur pesh aate hai.</p> <p>Definition: Those nouns which decline and change their form by Fatha, Damma, Kasarah.</p> <p>EX: Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin</p>		<p>Example مثال</p> <p>جَاءَ خَالِدٌ، رَأَيْتُ خَالِدًا، سَلَّمْتُ عَلَى خَالِدٍ</p>

Indeclinable Noun	Ghair Munsarif	غیر منصرف
<p>تعریف: وہ اسماء جن کے آخر میں زبر نہیں آتا بلکہ زیر کی جگہ پر زبر دیا جاتا ہے۔ اور غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی</p> <p>Ta'reef : Woh Asmaa Jin ke aakhir me zer nahi aata balke zer ki jagah par zabar diya jata hai. Aur gair munsarif me tanween nahi aati</p> <p>Definition: Those nouns which do not decline by Kasarah, but Fataha is put instead of Kasarah. Moreover tanveen doesn't come in indeclineable nouns</p>		<p>Example مثال</p> <p>جاء عثمان، رأيتُ عثمانَ، سلمتُ على عثمانَ</p>

Identify Singular, Dual and Plural and Indicate Sound Masculine Plural and Sound Feminine Plural Forms

wahid tathniya aur jama ko pahchaniye awr jama muzakkar saalim aur mu'annas saalim ki bhi nashaandahi kijiye

واحد، تثنية اور جمع کو پہچانیے اور جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم کی بھی نشاندہی کیجیے

جمع		تثنية	واحد	آیات
جمع مؤنث سالم	جمع مذکر سالم			
				وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. (يوسف: ١٣)
				إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (أحزاب: ٣٥)
				إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. (الحجرات: ١٠)
				كَلَّمْنَا الْجِنِّيَّاتِ آتَتْ أَكْهَبًا. (الكهف: ٣٢)
				الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (الكهف: ٣١)
				إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. (زخرف: ٤٣)
				وَتَأْكُلُوا يَمَانِيكٍ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رَبُّكَ قَوْلًا تَكْمَلُونَ. (زخرف: ٤٤)
				قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (المؤمنون: ١)
				ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. (الملك: ٢)
				فَأَتَّهُمْ عَذَابٌ مَلُومِينَ. (المؤمنون: ١)
				كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. (الحجر: ٩٠-٩١)
				فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. (المعارج: ٢٦-٢٧)
				قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدِ سِنِينَ. قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. (المؤمنون: ١١٢-١١٣)
				وَلَبِئْتُمْ فِيئًا مِنْ عَمْرٍكَ سِنِينَ. (الشعراء: ١٨)
				إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. (البقرة: ١٣٢)
				بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. (المائدة: ٦٣)
				قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاسْقُوا عَلَيْهِمُ الْخَبِيرَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة: ٢٣)
				وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ لَمُجِّلْنَا لَقُرْآنًا كَرِيمًا. (زخرف: ٢١)
				سَنَفَعُكُمْ أَتَى الثَّقَلَانِ. (الرحمن: ٣١)
				وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ. (اعراف: ١٠٨)

Make Dual for Feminine form and Sound Feminine Plural (In Nominative case, genitive case, accusative case)

Mu'annas ki tathniya aur jama mu'annas saalim banaeye. (haalat rafa, nasab aur jarr ke sath)

مؤنث کی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیے۔
(حالت رفع، نصب اور جر کے ساتھ)

Plural جمع		Two/Dual تثنیہ		Meanings معنی	Singular واحد
نصب جر	رفع	نصب جر	رفع		
مُسَلِمَاتٍ	مُسَلِمَاتٌ	مُسَلِمَتَيْنِ	مُسَلِمَتَانِ	مسلم خاتون	مُسَلِمَةٌ
				عبادت گزار خاتون	عَابِدَةٌ
				سجدہ کرنے والی	سَاجِدَةٌ
				دیکھنے والی	نَاطِقَةٌ
				روزہ رکھنے والی	صَائِمَةٌ
				ایمان والی	مُؤْمِنَةٌ
				شوہر دیدہ خاتون	ثَيِّبَةٌ
				بچکے ہوئے دل والی خاتون	قَانِئَةٌ
				نیک خاتون	صَالِحَةٌ
				سچی	صَادِقَةٌ
				حفاظت کرنے والی	حَافِظَةٌ
				ثابت قدم رہنے والی	صَابِرَةٌ
				ڈرنے والی	خَاشِعَةٌ

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 3

Make Dual Masculine Plural
Forms for the below underlined
words (Genitive case & Accusative
case)

Mindarja zel alfaz ke muzakkar
phir tathniya aur jama banaeye.
(ma' a haalat nasab aur jarr)

مندرجہ ذیل الفاظ کے مذکر پھر تثنیہ اور جمع
بنائیے۔ (مع حالت نصب و جر)

Plural جمع		Two/Dual تثنیہ		Masculine مذکر	Singular واحد
نصب جر	رفع	نصب جر	رفع		
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمُونَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ	مُسْلِمَةٌ
					عَابِدَةٌ
					سَاجِدَةٌ
					نَاطِرَةٌ
					صَائِمَةٌ
					مُؤْمِنَةٌ
					تَيِّبَةٌ
					قَانِتَةٌ
					صَالِحَةٌ
					صَادِقَةٌ
					حَافِظَةٌ
					صَابِرَةٌ
					خَاشِعَةٌ

Exercise : 5

Memorize the below given broken Masculine Plural Forms which are frequently used in Quran.

Niche diye gaye jama mukassar ko yaad Karen jin ka zikr quran me bar bar ayaa hai.

نیچے دیے گئے جمع مکسر کو یاد کریں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے

Make Sound Masculine Plural Forms for the below underlined words by taking teacher's or dictionary's help

Mindarja zel alfaaz ke dictionary ia ustaaz ki madad se jama mukassar banaeye

Exercise : 4

مندرجہ ذیل الفاظ کے ڈکشنری یا استاذ کی مدد سے جمع مکسر بنائیے

ترجمہ	جمع مکسر	واحد
رسول	رسل	رسول
بھائی	إخوة	أخ
کتابیں	کتب	کتاب
بندے	عباد	عبد
نہریں	أنهار	نہر
درخت	أشجار	شجر
بہنیں	أخوات	أخت
باپ	آباء	أب
دادا	أجداد	جد
کنجیاں	مفاتيح	مفتاح

جمع مکسر	معنی	واحد
صلوات	نماز	صلاة
	دل	قلب
	بیماری	مرض
	سورت	سورة
	نہر	نہر
	کان	أذن
	مثال	مثل
	عذاب	عذاب
	چھوٹا	صغیر
	روشنی / نور	نور

Exercise : 6

Identify and Write Sound Feminine Plural Forms and Sound Masculine Plural Forms

Jama mu'annas saalim aur jama muzakkar saalim ko pahchaniye aur likhiye.

جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کو پہچانیے اور لکھیے

(جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم)

فی قلوب المنافقین مرض

.4

(جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم)

1. یفرح الفلاحون للذول المطر

(جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم)

من المؤمنین رجال صدقوا

.5

(جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم)

2. ان المسلمین والمسلمات

(جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم)

3. حضرت التلمیذات بالجامعة

Waahed Tasniya Aur Jama' (Jama' Mukassar Wa Saalem Aur Jama' Muannas) Ko Pehchaniye:
Find Singular, Dual And Plural (Broken Nouns And Sound Nouns And Feminine Plural Nouns)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ . (الكهف: ٨٢)	وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا . (النبأ: ٧)
جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ . (الكهف: ٨٢)	لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا . (الاعراف: ١٧٩)
وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ . (الرحمن: ٤٦)	فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (النساء: ٣)
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ . (آل عمران: ١٤٠)	إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ . (التغابن: ١٤)
وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . (آل عمران: ١٣٦)	ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ . (غافر: ٢٢)
أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . (يوسف: ٣٩)	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ . (النور: ٢٩)
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . (الاحزاب: ٣٥)	

منصرف اور غیر منصرف کو پہچان کر لکھیے ۔

Munsarif Aur Ghair Munsarif Ko Pehchan Kar Likhe
Identify Declinable Nouns And Indeclinable Nouns


وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . (البقرة: ١٣٧-١٣٥)

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
ایک نظر
A Glimpse – Ek Nazar

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes





دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔

جیسے: الولد صالح، ولد صالح۔

Do Ya Do Se Zaaed Alfaaz Ke Majmua' Ko Murakkab Kehte Hai

Combination of two or more words is compounder Murakkab

مرکب کی دو قسمیں ہیں

<p>الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے۔</p> <p>Murakkab E Taam :Alfaaz Ka Aisa Majmua Jis Se Poori Baar Samajh Me Aaye</p> <p>1. Murakkabe Taam : Combination of words in which meaning is clear.</p>	<p>مرکب تام</p> <p>Murakkab e Taam</p> <p>Complete sentence</p>
<p>الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔</p> <p>Murakkab E Naaqis : Alfaaz Ka Aisa Majmua Jis Se Poori Baat Samajh Me Na Aaye.</p> <p>2. Murakkab E Naaqis: Combination of words in which meaning is unclear.</p>	<p>مرکب ناقص</p> <p>Murakkab E Naaqis</p> <p>Incomplete sentence</p>

مرکب توصیفی

Murakkab E Tauseefi

| Descriptive Phrase or Adjective Phrase

ایسا مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو

Murakkab E Tauseefi : Aisa Murakkab Jo MausooF Aur Sifat Se Milkar Bana Ho.

Descriptive Phrase: The phrase formed with noun and its adjectives. It describe quality of noun or pronoun.

مرکب اضافی

Murakkab E Izaafi

| Possessive Phrase

وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمے کی جانب کی جائے جیسے (کتابِ حامد : حامد کی کتاب)

Murakkab E Izaafi : Woh Murakkab Hai Jis Me Ek Kalme Ki Nisbat Dosre Kalme Ki Janib Ki Jaaye Jaise کتابِ حامد (Haamid Ki Kitaab)

Possessive Phrase: The phrase which modify a noun by showing form of possession or a sense of belonging to a particular person or thing.

اس مثال میں کتاب کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے۔ جس کلمے کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس کلمے کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔

Iss Misaal me Kitaab Ki Nisbat Haamid Ki Taraf Ki Gayi Hai. Jis Kalme Ki Nisbat Ki Jaati Hai , Ise Muzaaf Kehte Hai Aur Jis Kalme Ki Taraf Nisbat Ki Jati Hai Ise Muzaaf Ilai Kehte Hai.

In this example, book is possessed to Hamid. So first noun is called as possessed and second noun is called possessor.

Arshad Basheer Madani Notes

مرکب تام

Murakkab e Taam | Complete Sentence

جس ترکیب سے پوری بات سمجھ آجائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔

Murakkab E Taam : Jis Tarkeeb Se Poori Baat Samajh Aa Jaye Isko Murakkab E Taam Kehte Hai Aur Iska Dosra Naam Jumla bhi Hai.

Murakkab E Taam : The sentence which gives complete meaning.

جملہ کی دو قسمیں ہیں

Jumla Ki Do Qismein Hai | Two types of sentences

Arshad Basheer Madani Notes

جملہ اسمیہ

Jumla E Ismiya | Nominal sentences

جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔

Jumla E Ismiya : Jo Jumla Mubtida Aur Khabar Se Milkar Banta Hai.

Nominal Sentence: It is formed with subject and predicate.

جملہ فعلیہ

Jumla E Feliya | Verbal sentences

جس جملہ کی ابتداء فعل سے ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔

Jis Jumla Ki Ibtadaa Fayl Se Ho Isko Jumla E Fayliya Kehte Hai.

The sentence which begins with verb (fel) is called as verbal sentence

Arshad Basheer Madani Notes

الدرس الخامس

سبق

LESSON-5

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

النعته والمنعوت

01

Na't wal Man'oot
Nouns and its adjectives

Examples from Quran	Qur'aani Misaalein	قرآنی مثالیں
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . (النمل: ۳۰)	
	الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ . (الفاتحة: ۵)	
	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ . (آل عمران: ۱۷۶)	
	وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . (البقرة: ۲۵)	
	اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ . (البقرة: ۳۲)	
	اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ . (البقرة: ۳۷)	

(اساتذہ کے لئے برائے تذکیر)

موصوف صفت

موصوف: جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ موصوف کو منعت بھی کہتے ہیں۔
صفت: وہ تابع جو متبوع کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف، یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔

موصوف صفت میں مطابقت:

صفتِ حقیقی اعراب (زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش)، مذکر و مؤنث، معرفہ و نکرہ، واحد و ثنئیہ اور جمع میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے: جاء رجلٌ عالمٌ
جبکہ صفتِ سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنکیر میں متبوع کا مطابق ہونا ضروری ہے۔
جیسے: جاءت المرأة العالمُ زوجها۔ اس میں المرأة موصوف اور العالم صفتِ سببی ہے۔
*یہ صرف بنیادی معلومات ہیں، تفصیلات مستقبل میں وضاحت کے ساتھ آسنگیں ان شاء اللہ۔

Arshad Basheer Madani Notes

ASAATIZA KE LIYE BARAAE TAZKEER

Mausoof Sifat

Mausoof: jiski achi ya buri sifat bayaan ki jaae ise mausoof kahte hain, mausoof ko man'oot bhi kahte hain.

Sifat: wo taabe' jo matboo' ki zaat ya us ke mutaliq ka wasf, ya'ni uski achi ya buri sifat batae, sifat ko na't bhi kahte hain.

Mausoof sifat me mutabaqat:

Sifat e haqeeqi e'raab (zer, zabar, pesh, do zabar, do zer, do pesh), Muzakkar O Muannas, Marifa O Nakira, Wahid wa tasniyah aur jama' me apne mausoof ke taabe' hoti hai. Jaise: rajulun aalimun

Jabke sifat e sababi ka sirf e'raab aur ta'reef o tankeer me matboo' ka mutabiq hona zaruri hai. Jaise: **جاءت المرأة العالم زوجها**
Isme al-mar'atu mausoof aur al-'aalimu sifat e sababi hai.

IRAAB

1. Fatah / Nasab/ tanween
2. zamma / Rafa/ tanween
3. Kasra / jarr / tanween

JINS (GENDER)


4. Muzakkar , 5. Muannas

AMM O KHAS (particular / common)

6. Marifa , 7. Nakirah

ADAD (COUNT)

8. Mufrad 9. Tasniyah , 10. Jama



Mausoof Sifat

Mausoof: The noun of whose good or bad characteristic is being described is called MausooF. It is also called as Mano'ot

Sifat: It is the Characteristics or quality of the MausooF (subject) being described whether it is Good or Bad sifat is also called as Na't.

Compatibility of MausooF & Sifaat:

Sifaat haqeeqi is compatible with MausooF in the following:

- The vowels (Eraab - diacritics) of the Sifaat in reality follows MausooF in the following, (ZABAR – ZER – PESH – DO ZABAR – DO ZER – DO PESH)
(Fatah – Kathra –Dammah –Tanween Fatah – Tanween Kathra – Tanween Dammah)
- Gender (masculine – feminine)
- Definitive or Indefinite
- Number / Count (Singular – Dual – Plural)

Ex: جاء رجلٌ عالمٌ (jaa-a rajulun aalimun)

Whereas Sifat –e- Sababi – The Compatibility is only required in the Eraab (Vowels / Diacritics ending) and the condition of the nouns (Definite or Indefinite).

Ex: جاءت المرأةُ العالمُ زوجها (jaa-atil mar-atu al'aalimu zaujuha)

In this “Al Maratu” is MausooF and “Al – Aalimu” is Sifat–e-Sababi.

VOWELS / DIACRITICS

1. Fatah / Nasab / Tanween
2. Dhammah / Raza / Tanween
3. Kathra / Jar / Tanween

GENDER

1. Male
2. Female

SPECIFIC

1. Definitive
2. Non Definitive

COUNT

1. Singular
2. Dual
3. Plural

معرفه Maarifa Definite		نكرة Nakirah Indefinite		مطابقتِ موصوف و صفت Mutabaqat-e-mau'soof & sifat Equality in nouns and its adjectives			
مؤنث Mu'annas Feminine Gender	مذكر Muzakkar Masculine gender	مؤنث Mu'annas Feminine Gender	مذكر Muzakkar Masculine gender				
البناتُ الصالحَةُ	الولدُ الصالحُ	بناتُ صالحَةٍ	ولدُ صالحٍ	رفع	Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	واحد Wahid Singular	
البناتِ الصالحَةِ	الولدِ الصالحِ	بناتًا صالحَةً	ولدًا صالحًا	نصب			
البناتِ الصالحَةِ	الولدِ الصالحِ	بناتٍ صالحَةٍ	ولدٍ صالحٍ	جر			
البناتانِ الصالحَتانِ	الولدانِ الصالحانِ	بناتانِ صالحَتانِ	ولدانِ صالحانِ	رفع		Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	ثنائية Tasniya Dual
البناتَيْنِ الصالحَتَيْنِ	الولدَيْنِ الصالحَيْنِ	بناتَيْنِ صالحَتَيْنِ	ولدَيْنِ صالحَيْنِ	نصب			
البناتَيْنِ الصالحَتَيْنِ	الولدَيْنِ الصالحَيْنِ	بناتَيْنِ صالحَتَيْنِ	ولدَيْنِ صالحَيْنِ	جر			
البناتُ الصالحاتُ	الاولادُ الصالحونَ	بناتُ صالحاتُ	اولادُ صالحونَ	رفع			جمع Jama Plural
البناتِ الصالحاتِ	الاولادِ الصالحينَ	بناتٍ صالحاتِ	اولادًا صالحينَ	نصب			
البناتِ الصالحاتِ	الاولادِ الصالحينَ	بناتٍ صالحاتِ	اولادٍ صالحينَ	جر			

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 1

Identify and write Adjective &
nounsMausoof aur sifat ko pahchaniye
aur maany likhiye

موصوف صفت کو پہچانے اور معانی لکھیے

معانی Maany - Meaning	موصوف صفت Mausoofsifat- Adjective&nouns	آیات Aayaat - Aayaat
		إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
		سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ
		وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
		اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
		النَّجْمُ الثَّاقِبُ
		فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا
		فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
		تَأْصِيَةٍ كَأَذْيَةِ خَاطِئَةٍ
		بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ
		بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
		فَضَلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
		جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا
		لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
		فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ
		فِيهَا عَرِينٌ جَارِيَةٌ. فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ
		مَوْضُوعَةٌ. وَمَنَارِقٌ مَضْفُوفَةٌ. وَزَرَائِبٌ مُبْتَثِثَةٌ
		وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
		لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
		فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ
		وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Exercise : 2

By using the below given words
make Adjective forms

Mindarja zel alfaaz ko istimaal
karke mausoof sifat banaeye

مندرجہ ذیل الفاظ کو استعمال کر کے موصوف
صفت بنائیے:

أخ

رسول

قلم

کتاب

قرآن

اقلام

کتابان

اخوان

رسولان

قلمان

کتب

اخوة

رسل

_____ -3

_____ -2

_____ -1

_____ -6

_____ -5

_____ -4

Exercise : 3

Fill in the blanks using appropriate
Adjectives

Munaasib sifat ke zariye khana
puri kijiye

مناسب صفت کے ذریعہ خانہ پری کیجیے

(الجمیل الجميلة)

1. الساعة رخيصة

(عالم العالمة)

2. عائشة مجتهدة

(الرخيص الرخيصة)

3. الكتاب مفيد

(الحمراء الأحمر)

4. الدجاجة مريضة

(السوداء الأسود)

5. القلم ثمين

Exercise : 4

Fill in the blanks using appropriate
Nouns for Adjectives

Munaasib mausoof ke zariye khana
puri kijiye

مناسب موصوف کے ذریعہ خانہ پری کیجیے

(القلنسوة القلم)

1. الجميل رخيص

(التلميذ التلميذة)

2. المجتهد ناجح

(الطعام الماء)

3. اللذيذ مفيد

(القلنسوة المرسام)

4. السوداء ثمينة

(القلنسوة الكراسية)

5. الطويلة جديدة

Arshad Basheer Madani Notes

Translate 20 Aayats which are based on Adjectives from Sooratul Wakhiya

Suratul waqi'ah ki raushni me 20 mausoof sifat par mushtamil aayaat ma'a tarjama likiye

سورة الواقعة کی روشنی میں 20 موصوف صفت پر مشتمل آیات مع ترجمہ لکھیے۔

ترجمہ Tarjama - Meaning	آیات Aayaat - Aayaat	شمار
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20

Translate and Identify the
Adjectives and Nouns

Tarjama kijiye aur mausoof wa
sifat ko pahchaniye

ترجمہ کیجیے اور موصوف و صفت کو پہچانیے

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إِنَّ ثَلَاثَةَ فِي بَيْتِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصٌ وَأَقْرَعٌ وَأَعْمَى بَدَأَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أُمَّيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ نَحْسَنُ وَجِلْدُ حَسَنٍ قَدْ قَدَّرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَّحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطَى لَوْثًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أُمَّيْ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ. أَوْ قَالَ الْبَقْرُ هُوَ شَاةٌ فِي ذَلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقْرُ - فَأَعْطَى نَاقَةً عَشْرَاءَ فَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أُمَّيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَدَّرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَّحَهُ فَذَهَبَ وَأَعْطَى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأُمَّيْ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقْرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقْرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أُمَّيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَمَسَّحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ قَالَ فَأُمَّيْ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأَنْبِجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالِ بَعِيرًا أَنْتَبَلُغَ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدُرُكَ النَّاسُ فَقَبِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرَثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَأَدْبَابِ فَصَيْبِكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَأَدْبَابِ فَصَيْبِكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاةً أَنْتَبَلُغَ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصْرِي وَفَقِيرًا فَقَدْ أَعْنَانِي فَنُحْدُ مَا شِدَّتْ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَا لَكَ فَيَأْتِيَا ابْنَيْكَ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. (رواه البخاري في كتاب الوحي)

Arshad Basheer Madani Notes

صفات - Adjective

موصوف - Noun

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

موصوف صفت کو پہچانیے اور کیفیت بتائیے :

Mausoof Sifat ko pahchaniye aur kaifiyat bataayye :

Identify noun and adjectives and mention its case

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (۸) لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ (۹) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (۱۰) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (۱۱) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (۱۲) فِيهَا سُرُرٌ
مَرْفُوعَةٌ (۱۳) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (۱۴) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (۱۵) وَزَرَّابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (۱۶) (الغاشية)
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (۱۲) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ (۱۳) وَهُوَ الْعَفْصُورُ الْوَدُودُ (۱۴) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (۱۵) فَعَالَ
لِمَا يُرِيدُ (۱۶) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (۱۷) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (۱۸) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (۱۹) وَاللَّهُ مِنْ
وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (۲۰) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (۲۱) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (۲۲) (البروج)

ترجمہ کیجیے اور موصوف صفت کو پہچانیے

Tarjuma kijiye aur mausoof sifat ko pahchaniye

Translate and identify noun and adjectives

بَنِي الرَّسُولِ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَهُ مِنْذُ الْأَيَّامِ الْأُولَى لِدُخُولِهِ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ. كَانَ الْمَسْجِدُ
التَّبَوِيُّ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدًا صَغِيرًا وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ التَّبَوِيِّ وَ
يَسْتَمِعُونَ إِلَى مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيَحْضُرُونَ الْعِلْمَ الدِّينِيَّ وَيَتَحَدَّثُونَ عَنْ أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فِي
الْحَلَقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ -

الدرس السادس

سبق

6

AskIslamPedia LESSON-6

Arshad Basheer Madani Notes

المضاف والمضاف اليه

01

Muzaaf and Muzaaf Ilaih
Possessive Phrase

قَلَمُ الْوَلَدِ

مضاف + مضاف اليه

يَوْمُ الْفَضْلِ

مضاف + مضاف اليه

قَلَمُ وُلْدٍ بھي آتا ہے

مضاف مضاف اليه کی مثالیں	
Muzaaf Muzaaf ilaih ki misaalen	Examples of possessed and possessor
اللہ کے رسول	رسولُ اللہ
اللہ کی مدد	نَصْرُ اللہ
اللہ کی آگ	نارُ اللہ
لشکروں کی کہانی	حدیثُ الجنود
شیطان کا گروہ	حِزْبُ الشیطانِ
مچھلی والا	صاحبُ الحوتِ
فیصلے کا دن	یومُ الفصلِ
بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں	بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Possessed	Muzaaf	مضاف
<p>تعریف: جس کلمہ کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔</p> <p>Tareef: Jis kalme ki nisbat ki jaati hai ise muzaaf kehte hai</p> <p>Words which shows the things or person being owned are called Muzaaf.</p>		<p>رسولُ اللہ</p> <p>Allaah ke Rasool</p> <p>Messenger of Allaah</p>

Possessor	Muzaaf ilaih	مضاف اليه
<p>تعریف: جس کلمہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف اليه کہتے ہیں۔</p> <p>Tareef: Jis kalme ki taraf nisbat ki jati hai ise muzaaf ilai kehte hai</p> <p>Definition: Words which shows the one who owns the thing or person is called Muzaaf Ilaih or Possessor.</p>		<p>رسولُ اللہ</p> <p>Allaah ke Rasool</p> <p>Messenger of Allaah</p>

نوٹ - NOTE

In English language possessor comes before possessed but in Arabic its opposite.	Urdu mein muzaaf ilai pehle aur muzaaf baad mein aata hai. Arabi me iske baraks muzaaf pehle aur muzaaf ilai baad me aata hai.	اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے عربی میں اس کے برعکس مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔
On Possessed 'al' and tanween will not come. Zer always comes on possessor. (Zer is visible most of the time and sometimes invisible) If possessed is dual or masculine sound plural then noon will be deleted.	Muzaaf par "Alif Laam" aur tanween nahi aati. / Muzaaf ialy par hamesha zer aata hai. (Aksar auqaat nazar aata hai baaz auqaat nazar nahi aata) Muzaaf agar tathniya ya jama muzakar saalim ho tu noon girta hai	مضاف پر "ال" اور تنوین نہیں آتی۔ / مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے۔ (اکثر اوقات نظر آتا ہے بعض اوقات نظر نہیں آتا) مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو نون گرجاتا ہے
Alif Laam or Tanween can come on possessor. If Alif Laam doesn't come then tanween comes, and if Alif Laam comes then tanween will not come.	Muzaaf ialy par "Alif laam" ya tanween aasakti hai. Agar muzaaf ilai pas "Alif laam" nahi aaye toh tanween aayegi aur agar hai toh tanween nahi aayegi.	مضاف الیہ پر "ال" یا تنوین آتی ہے۔ اگر مضاف الیہ پر "ال" نہیں آئے تو تنوین آئے گی اور اگر ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔

مضاف مضاف الیہ کی چند شکلیں

Muzaaf Muzaaf ialy ki chand shaklein

Few examples of possessed and possessor

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. (المائدة: ۸۵)	مضاف + مضاف الیہ (معرفہ)
لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. (سبا: ۲۲)	مضاف + مضاف الیہ (نکرہ)
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. (آل عمران: ۱۰۳)	مضاف + مضاف الیہ (علم)
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. (الكافرون: ۶)	مضاف + مضاف الیہ (ضمیر)
مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ	مضاف + مضاف الیہ (موصوف صفت)
مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَمِیْلَةِ	مضاف موصوف + مضاف الیہ + صفت

Identify Possessive Phrase and Possessor Phrase

Muzaaf aur muzaaf ilaihi ko pehchaane

مضاف اور مضاف الیہ کو پہچانیے

مضاف الیہ Possessor - Muzaaf ilaihi	مضاف Possessive - Muzaaf	آیات Aayaat - Aayaat
		إِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ
		وَجَزَاءٍ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا
		فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
		وَمَنْ هُوَ حَاسِدٌ إِذَا حَسَدَ
		وَلَا تَعْلَمُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
		مَا أُعْطِيَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
		وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
		وَإِنْ تَصُدُّوا عَنْ تَكْفُرِ الْأَوْثَانِ كَيِّدُهُمْ شَيْئًا
		فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
		لَا تُخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِهِمْ
		لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
		وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
		لَهُمْ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُوا تَبِعَهَا عَوَجًا
		وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
		وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
		أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
		أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
		فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
		وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
		بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
		فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
		يَأْتِيهِ إِسْرَائِيلُ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
		قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
		أَذْهَبُوا يَقْبِضِي هَذَا

Make Possessive and Possessor
Phrase by using the below given
Words:

Man darja zel alfaaz ko istemaal
karke muzaaf muzaaf ialaihi
banaiye

مندرجہ ذیل الفاظ کو استعمال کر کے مضاف
مضاف الیہ بنائیے

مندرجہ ذیل الفاظ کو استعمال کر کے مضاف مضاف الیہ بنائیے

جزاء	حبیل	سبیل	قول
ولی	اشد	بیوت	قمیص
	کید	نعبه	

_____ -2

_____ -1

_____ -4

_____ -3

یہ چار قسم (pattern) کے جملہ "سورة الاعراف" میں کہاں کہاں آئے ہیں بتلائیں:

ye char qism (pattern) ke jumla "suratul Araaf" me kahan kahan aaye hain batlayen.

Mention the below four pattern's in Surah Araaf

رجلٌ کریمٌ
الرجلُ الکریمُ
الرجلُ کریمٌ
قلمُ الرجلِ

Identify the Underlined Sentences for Possessive Phrase or Descriptive Phrase

Khatte kasheeda (underlined)
murakkabaath ko pechaane aaya vo
muzaaf muzaaf ilaihi me ya mau-
soof sifath.

خط کشیدہ مرکبات کو پہچانے آیا وہ مضاف مضاف
الیہ ہیں یا موصوف صفت

مضاف الیہ Possessor - Muzaaf ilaihi	مضاف Possessive - Muzaaf	آیات Aayaat - Aayaat
		وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
		وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
		قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأُحُدِ
		النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ
		ذَلِكَ الْغُورُ الْكَبِيرُ
		إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
		وَهُوَ الْغُفُورُ الْوَدُودُ
		ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ
		هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ
		وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ
		بَلْ هُوَ قَرَّانٌ مَجِيدٌ
		فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

Identify Possessive Phrase and Possessor Phrase

Muzaaf Muzaaf ilaihi ko pehchaane

مضاف ، مضاف الیہ کو پہچانے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ فِي مَنَ كَانُ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، قَدَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ، فَكَبَّلَ بِهِنَّ مِائَةً. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، قَدَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؛ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ فِيهَا أَتَمَّاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ. فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَبَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاحْتَصَبَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيِّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيدُوا مَابَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَفَاسَوْهُ، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَغَبَّضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ.

Arshad Basheer Madani Notes

مضاف ، مضاف الیه کو پہچانیے اور شکلیں بتائیے:

Muzaaf, Muzaaf iali ko pehchaniye aur Shaklen bataiye:

Identify possessed and possessor and its position

أ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُجَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَجِدُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) سورة البقرة

ب. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) سورة البينة

ت. أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ سَنَةً، الْقُرْآنُ كِتَابُ اللَّهِ ، أَنْزَلَهَا اللَّهُ لِهَدَايَةِ النَّاسِ ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ مُشْرِكِي مَكَّةَ (مُشْرِكِينَ + مَكَّةَ) أَنْكَرُوا حِينَمَا سَمِعُوهُ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا فَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمَرَ فِي دَعْوَتِهِ بَيْنَهُمْ حَتَّى عَمَّ الْإِسْلَامَ بِعَوْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ الْعَالَمِ لِأَنَّ الدِّينَ يَعْطُونَ وَلَا يُعْلَى .

الدرس السابع

سبق

LESSON-7

المبتدأ والخبر

01

Mubtada khabar - Subject and predicate

المبتدأ والخبر وأقسامها

02

Mubtada aur khabar ki tabdeel shuda haalatein

Inna aur uske saathi - Inna & its Sisters إن و اخواتها

kaana aur uske saathi - kaana & its Sisters كان و اخواتها

Maa wa Laisa - Maa and Laisa ما و ليس

Hal aur hamza istifhaam - Hal and hamza istifhaam (استفهام) هل اور "ا"

هذا زيد ^{٢٤}	الولد صغير ^{٢٤}
معرفه نكره	معرفه نكره
الذي هم فيه مختلفون	
معرفه نكره	
زيد صالح ^{٢٤}	
معرفه نكره	

Arshad Basheer Madani Notes

مشائیں

1- اللَّهُ أَعْلَمُ

2- اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ

3- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

4- أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ

5- كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ

واحد مذکر غائب Wahid muzakkar gayeb Male 3rd person	هُوَ سَاجِدٌ	1
تثنیه مذکر غائب Tasniyah muzakkar gayeb Male 3rd person (Dual)	هُمَا سَاجِدَانِ	2
جمع مذکر غائب Jama' muzakkar gayeb Male 3rd person (Plural)	هُمْ سَاجِدُونَ	3
واحد مؤنث غائب Wahid muannas gayeb Female 3rd Person	هِيَ سَاجِدَةٌ	4
تثنیه مؤنث غائب Tasniyah muannas gayeb Female 3rd Person (Dual)	هُمَا سَاجِدَتَانِ	5
جمع مؤنث غائب Jama' muannas gayeb Female 3rd person (plural)	هِنَّ سَاجِدَاتٌ	6
واحد مذکر حاضر Wahid muzakkar hazir Male 2nd person	أَنْتَ سَاجِدٌ	7
تثنیه مذکر حاضر Tasniyah muzakkar hazir Male 2nd person (dual)	أَنْتُمَا سَاجِدَانِ	8
جمع مذکر حاضر Jama' muzakkar hazir Male 2nd person (plural)	أَنْتُمْ سَاجِدُونَ	9
واحد مؤنث حاضر Wahid muannas hazir Female 2nd person	أَنْتِ سَاجِدَةٌ	10
تثنیه مؤنث حاضر Tasniyah muannas hazir Female 2nd person (dual)	أَنْتُمَا سَاجِدَتَانِ	11
جمع مؤنث حاضر Jama' Muwannas Female 2nd person (plural)	أَنْتِنَّ سَاجِدَاتٌ	12
واحد متکلم Wahid mutakallim 1st person	أَنَا سَاجِدٌ	13
جمع متکلم Jama' mutakallim 1st person plural	نَحْنُ سَاجِدُونَ	14

Subject	Mubteda	مبتدا
<p>تعریف: مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ (اس کو مبتدا اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ شروع ہوتا ہے)۔</p> <p>Tareef: Mubteda woh Ism hai jis ke bare mai kuch bataya jaye. (Isko mubteda isliye kehte hai ke is se jumla shuru hota hai)</p> <p>Definition: Mubteda or subject is a noun about which something is being informed. It comes at the beginning and requires further explanation.</p>		<p>مہر مہر الولد مجتہد</p> <p>Ladka mahnati hai The boy is hardworking</p>


Predicate	Khabar	خبر
<p>تعریف: خبر وہ لفظ ہے جس کے ذریعہ مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔</p> <p>Ta'reef: Khabar woh lafz hai jis ke zariye mubteda ke bare mai kuch bataya jaye.</p> <p>Definition: Predicate is a noun which gives information and explains the subject.</p>		<p>مہر مہر الولد مجتہد</p> <p>Ladka mahnati hai The boy is hardworking</p>

NOTE - نوٹ

Note: subject is always definite noun and predicate is always indefinite noun.	Note: Mubteda aam taur per ma'arifa hota hai. Aur khabar hamesha nakerah hoti hai.	مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔
'al' will not come for proper nouns.	Agar mubteda kisi ka khas naam hai toh uss per "Al" dakhil nahi hoga.	اگر مبتدا کسی کا خاص نام ہے تو اس پر "ال" داخل نہیں ہوگا۔
If subject is masculine then predicate will also be masculine and vice versa.	Mubteda muzakkar ho toh uski khabar bhi muzakkar hogi, aur agar mubteda muannas ho toh uski khabar bhi muannas hogi.	مبتدا مذکر ہو تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی۔
Singular, Dual and plural predicate will be similar to the subject.	Wahid, tasniyah aur jama' mai khabar apne mubteda ke mutabiq hogi.	واحد، تشنیہ اور جمع میں خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوگی۔

مبتدا خبر میں پانچ چیزیں	
	۱- واحد + واحد
	۲ - جمع + جمع
	۳ - تثنیہ + تثنیہ
	۴ - مذکر + مذکر
	۵ - مؤنث + مؤنث

○ اگر مبتدا نکرہ آجائے تو خبر پہلے آتی ہے اور مبتدا بعد میں: فی الدار رجلٌ



Some patterns of Subject and Predicate	Mubteda, khabar ki ba'az Suratain	مبتدا، خبر کی بعض صورتیں	
Singular (Subject) + Singular (Predicate)	Wahid (Mubteda) + Wahid (Khabar)	واحد (مبتدا) + واحد (خبر)	1
الإِسْلَامُ حَقٌّ، أَنْتَ مُسْلِمٌ، هَذَا كِتَابٌ، الْحَقُّ مَرَّةً، اللَّهُ أَحَدٌ، مُحَمَّدٌ رَسُولٌ، الْقُرْآنُ مَحْفُوظٌ.			
Singular (Subject) + Nominal Sentence (Predi- cate)	Wahid (Mubteda) + jumla ismiya (khabar)	واحد (مبتدا) + جملة اسمية (خبر)	2
زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ، الْبَيْتُ فَنَائِهِ وَاسِعٌ، الْكِتَابُ وَرَقُهُ مَذْهَبٌ، حَامِدٌ صَدِيقُهُ عَالِمٌ، عَائِشَةُ صَدِيقَتُهَا عَالِمَةٌ.			
Singular (Subject) + Verbal Sentence (Predicate)	Wahid (mubteda) + jum- la fayliyah (kahbar)	واحد (مبتدا) + جملة فعلية (خبر)	3
اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، الْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، زَيْدٌ يَجْتَهِدُ فِي الْمَعْمَلِ، عَائِشَةُ تُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، زَيْنَبُ تُطْبِخُ فِي الْمَطْعَمِ.			
Singular (Subject) + (Predicate) conjunctions	Wahid (mubteda) + Jar majroor (khabar)	واحد (مبتدا) + جار مجرور (خبر)	4
الْحَلِيبُ فِي الْكَأْسِ، الْقَلَمُ فِي الْجَيْبِ.			
Singular (Subject) + Possessed and Possessor (Predicate)	Wahid (mubteda)+muzaaf, muzaafileh (khabar)	واحد (مبتدا) + مضاف، مضاف اليه (خبر)	5
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، الْعَيْنُ نِعْمَةٌ اللَّهِ، الْقُرْآنُ كِتَابُ اللَّهِ، اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، النَّاسُ عِبَادُ اللَّهِ			
Prepositions (Predicate) + Indefinite (Subject)	Hurf e Jar (khabar) + mubteda nakrah	حروف جر (خبر) + نكره (مبتدا)	6
إِلَى اللَّهِ مَلْجَأٌ، فِي الْبَيْتِ رَجُلٌ، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، فِي الْجَنَّةِ حُورٌ			
Demonstrative Pronoun (Subject) + (Predicate) Descriptive phrase	Asmaaye Isharah (mubteda) + mousoof sifat (khabar)	اسماء اشاره (مبتدا) + موصوف صفت (خبر)	7
هَذَا رَجُلٌ كَرِيمٌ، ذَلِكَ بَيْتٌ جَمِيلٌ، هَذَا قَلَمٌ قَدِيمٌ، هَذَا كِتَابٌ مَفِيدٌ			

الرجلُ صالحٌ

إنَّ الرجلَ صالحٌ

كان الرجلُ صالحًا

Arshad Basheer Madani Notes

إِنَّ وَاخْوَاتُهَا (إِنَّ اور اس کی بہنیں)

Inna aur uski bahnein | Inna and its Sisters

مثال دوم Misaal e Duwwam Example 2	مثال اول Missal e Awwal Example 1	معنی Maana Meaning	حروف Huruf letters	شار Serial
إِنَّ الْبَابَ مَفْتُوحٌ	إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ	that/Indeed	إِنَّ	1
عَلِمْتُ أَنَّ الْبَابَ مَفْتُوحٌ	عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ	that/Indeed	أَنَّ	2
كَأَنَّ الْقَمَرَ مُصْبِحٌ	كَأَنَّ الْكِتَابَ أُسْتَاذٌ	as if	كَأَنَّ	3
المدرسة واسعة لكن فناءها ضيقة	البيت جديد لكن الأثاث قديم	but	لكن	4
ليت الابن يرجع	ليت الشباب يعود	wish	ليت	5
لعل الربيع مذبذب	لعل الرجل قادم	Perhaps	لعل	6

تعریف: یہ چھ حروف مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب (زبر) اور خبر کو پیش (رفح) دیتے ہیں ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔

Tareef: Yeh hurf mubteda khabar per dakhil ho kar mubteda ko nasab (Zabar) aur khabar ko pesh (Rafa') dete hai, In huroof ko huroof e mushabbaha bil-fel kehte hai.

Definition: If Inna and its sisters are added on the subject then the subject will get zabar and the predicate will get pesh. These are called as huroof e mushabah bil-fel.

Arshad Basheer Madani Notes

كَانَ وَ أَخَوَاتُهَا (کان اور اس کی بہنیں)

Kaana aur uski Bahnein | Kaana and its Sisters

مثال ناقصہ Missal e Naqisa example of incomplete	مثال تامہ Misaal e Taam'ma example of complete	معنی Maana Meaning	حروف Huruf letters	شمار Serial
	وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا	to be	كَانَ	۱
	إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ	to not be	لَيْسَ	۲
أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	صَارَ الثَّوْبُ قَصِيرًا	to become	صَارَ	۳
	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعًا	to become	أَصْبَحَ	۴
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ	أَمْسَى الْعَامِلُ مَتَعِبًا	to become	أَمْسَى	۵
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيمَا وَلَا تَضْحَىٰ	أَضْحَى الْغَمَامُ كَثِيفًا	to become	أَضْحَى	۶
	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ	to remain	ظَلَّ	۷
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا	بَاتَ الْمَرِيضُ مَتَأَمًا	to become	بَاتَ	۸

تعریف: یہ آٹھ حروف مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔

Tareef: Yeh aath (8) huruf mubteda khabar par dakhil hokar mubteda ko pesh aur khabar ko zabar dete hai.

Definition: These are eight words which comes before subject and predicate and gives zamma to subject and fatha to predicate.

Arshad Basheer Madani Notes

ما ولا مشابہ ب لیس

Ma wa Laa | Ma and laa

مثال Example	حروف Huruf letters	شمار Shumaar Serial
	مَا	۱
	لَا	۲

تعریف: مبتدا اور خبر کے شروع میں "ما" اور "لایس" اگر داخل ہو جائے تو معنی میں منفی (نہ کرنے) کا معنی پیدا ہوتا ہے اور خبر کو نصب ملتا ہے۔

Arshad Basheer Madani Notes

Tareef: Mubteda aur khabar ke shuru me Maa aur Laysa agar dakhil ho jaye toh mane me munfi (na karne) ka mane payda hota hai aur khabar ko nasab milta hai.

Definition: If "Maa and laisa" comes in the beginning of subject and predicate then the meaning will be negative and gives zabar to the predicate.

نوٹ: کبھی کبھی "ما" اور "لایس" کی خبر پر "ب" داخل ہوتا ہے اور جر دیتا ہے۔

Note: Kabhi kabhi Maa aur Laysa ki khabar par (Baa) dakhil hota hai aur jar deta hai.

Note: Sometimes on maa and laisa ba "ب" comes and gives jar or zer.

Arshad Basheer Madani Notes

مبتدا اور خبر کی تبدیل شدہ حالتوں کو سمجھیں

Mubteda aur khabar ki tabdeel shudah halatoan ko samjhai
Understand the changes in Subject and Predicate positons

Roman English اردو			عربی
<p>سعید غافل ہے۔ Sayeed ghafil hai Sayeed is ignorant</p>			سَعِيدٌ غَافِلٌ
<p>سعید غافل نہیں ہے۔ Sayeed ghafil nahi hai Sayeed is not ignorant</p>			مَا سَعِيدٌ غَافِلًا
<p>ظاہری شکل پر اثر Zahiri shakal par asar Effect on visible structure</p>	<p>معنی پر اثر Mane par asar Effect on meaning</p>	<p>تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kis ne ki? Change is done by?</p>	
<p>خبر کو نصب ملا Khabar ko Nasab mila Subject becomes accusitive</p>	<p>منفی مفہوم Manfi mafhoom Negative meaning</p>	<p>مَا Maa</p>	
<p>فوج بڑی ہے۔ Fauj badi hai The army is big</p>			الْفِئَةُ كَثِيرَةٌ
<p>کیا فوج بڑی ہے۔ Kiya fauj badi hai Is the army big?</p>			هَلِ الْفِئَةُ كَثِيرَةٌ
<p>ظاہری شکل پر اثر Zahiri shakal par asar Effect on visible structure</p>	<p>معنی پر اثر Mane par asar Effect on meaning</p>	<p>تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kis ne ki? Change is done by?</p>	
<p>کوئی فرق نہیں پڑا Koi farq nahi pada. Doesn't effect</p>	<p>سوالیہ مفہوم Sawaliya mafhoom It forms a question</p>	<p>هَل Hal</p>	

Arshad Basheer Madani Notes

<p>اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ Allah har cheez par qudrat rakhta hai. Allah has power over everything</p>			<p>اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>
<p>بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ Be shak Allah har cheez par qudrat rakhta hai. Verily Allah has power over everything</p>			
<p>ظاہری شکل پر اثر Zahiri shakal par asar Effect on visible structure</p>	<p>معنی پر اثر Mane par asar Effect on meaning</p>	<p>تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kis ne ki? Change is done by?</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>
<p>ان نے مبتدا کو نصب دیا Inna ne mubteda ko nasab diya. Inna gives zabar to subject</p>	<p>تاکیدی مفہوم Takeedi mafhoom Gives emphasis</p>	<p>إِنَّ Inna</p>	
<p>اللہ دیکھ رہا ہے۔ Allah dekh raha hai Allah is watching</p>			<p>اللَّهُ بَصِيرٌ</p>
<p>یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ Yaqeenan Allah dekh raha hai Verily Allah is watching</p>			
<p>ظاہری شکل پر اثر Zahiri shakal par asar Effect on visible structure</p>	<p>معنی پر اثر Mane par asar Effect on meaning</p>	<p>تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kis ne ki? Change is done by?</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ</p>
<p>ان نے مبتدا کو نصب دیا ہے۔ Inna ne mubteda ko nasab diya hai. Inna gives zabar to subject</p>	<p>تاکیدی مفہوم Takidi mafhoom Gives emphasis</p>	<p>إِنَّ Inna</p>	


Qurani Misalen	Quranic Examples	قرآنی مثالیں
هَذِهِ أُمَّتُكُمْ (۲۳:۵۲)	وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (۳:۱۴۰)	
إِنَّ هَذَانِ لَسَّاحِرَانِ (۲۰:۶۳)	لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (۷:۱۷۹)	
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (۸۵:۶)	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى (۱۶:۹۷)	
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (۲:۲)	إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۲:۳۲)	
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (۱۰۹:۶)	فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲:۳۸)	
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ	ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۰:۳)	
أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي (۱۲:۹۰)	وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا (۴۶:۱۲)	
هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ (۱۲:۱۰۸)	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (۲:۲۵۳)	




Jumle Ismiya Nominal Sentences جملة اسمیة	
<p>تعریف : جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بنائے</p> <p>Tareef: Jumle ismiya wo jumla hai jo mubtada aur khabar ke saath mil kar jumle mufeeda banae.</p> <p>Definition: A nominal sentence is a combination of subject and predicate which gives meaningful and useful sentence.</p>	<p>القرآن کتاب اللہ</p> <p>Al qur'aan kitabulllahi</p> <p>Qur'aan is the book of Allah</p>
Subject, predicate examples	Mubtada, Khabar مبتدا خبر
<p>خبر</p> <p>اسم / جملہ اسمیہ / فعلیہ / ظرف / مضاف / مضاف الیہ / موصوف صفت</p> <p>Predicate</p> <p>Noun/nominal sentence/ verbal sentence / Adverb of place and time/ possessed and possessor/ nouns and its adjective</p>	<p>مبتدا</p> <p>علم / ضمیر / اسم / إشارة / موصول / موصوف صفت / مضاف مضاف الیہ</p> <p>Subject</p> <p>Name/ pronoun/ demonstrative noun/ relative noun/ nouns and its adjective/ possessed possessor</p>
واحد	اللہ
اللہ	هو
کتاب	هذا
هو انہی	الذی جاء
خلق السماء / یخلق کل شیء	اللہ
عظمتہ جلیلة	الرحمن
علی العرش	اللہ
انہی	الرجل الکریم
رجل کریم	انہی

الباب الاول: اسم
مرفعات، منصوبات، مجرورات

الباب الثاني: فعل
مرفعات، منصوبات، مجرورات



المرفوعات	
الفاعل	1
نائب الفاعل	2
المبتدا	3
خبر المبتدا	4
اسم كان وأخواتها	5
اسم افعال المقاربة	6
اسم ما	7
خبر انّ واخواتها	8
خبر لا التي لنفي الجنس	9
الفعل المضارع اذا تجرد من ناصب وجازم	10



Arshad Basheer Madani Notes

اسماء منصوب بارہ ہیں:

تمییز	7	مفعول بہ	1
مستثنیٰ	8	مفعول مطلق	2
اسم حروف مشبہ بالفعل	9	مفعول فیہ	3
خبر افعال ناقصہ	10	مفعول لہ	4
خبر مَا و لَا مشابہ بہ لیسَ	11	مفعول معہ	5
اسم لاء نفی جنس	12	حال	6

المجرورات

Arshad Basheer Madani Notes

المجرور بالحرف	1
المجرور بالاضافة	2
المجرور للمجاورة	3

توابع

اس کی پانچ قسمیں ہیں: (ان کو تابع ہونے کی وجہ سے اعراب ملتا ہے، ان کی تفصیلات مستقبل کی مفصل کتاب میں پائینگے ان شاء اللہ)

صفت	جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ
بدل	قَرَأْتُ الْقُرْآنَ نِصْفَهُ
تاکید	جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ
معطوف	جَاءَ زَيْدٌ وَبَكْرٌ
عطف بیان	جَاءَ التَّاجِرُ بَكْرٌ

Arshad Basheer Madani Notes

المجزومات

الافعال المضارعة اذا سبقها جازم

1		يجزم فعلا واحدا
لم	1	
لها	2	
لا امر الامر	3	
لا امر النهي	4	
2		يجزم فعلين
ان	1	
اذما	2	
من	3	
ما	4	
مها	5	
متى	6	
ايان	7	
اين	8	
انى	9	
حيثما	10	
اى	11	

اسمائے مشتقہ تعداد میں سات ہیں:

1. اسم فاعل: وہ اسم مشتق ہے جو بدلنے والے (غیر دائمی) مصدری معنی پر اور اس ذات پر دلالت کرے جس سے یہ معنی صادر ہو یا جس کے ساتھ یہ قائم ہو۔ یہ فاعِل کے وزن پر آتا ہے۔
2. اسم مفعول: وہ اسم مشتق ہے جو غیر دائمی یعنی بدلنے والے مصدری معنی پر اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر یہ معنی واقع ہو۔ یہ مَفْعُول کے وزن پر آتا ہے۔
3. صفت مشبہ: وہ اسم مشتق ہے جو صاحب صفت کے لیے صفت کے ثبوت اور دوام پر دلالت کرے، جیسے: جمیل، شجاع۔ یہ اوصاف عارضی نہیں بلکہ دائمی ہیں۔ اَفْعَل (مذکر)، فَعْلَاء (مؤنث)، فَعْلٌ (جمع مذکر و مؤنث)
4. اسم مبالغہ: اسم مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جو اسم میں مصدری معنی کی کثرت و اضافے پر دلالت کرے، جیسے "ضَرَابٌ" بہت مارنے والا۔ اس کے پانچ قیاسی اوزان ہیں: فَعِلٌ (حَدِيٌّ)، فَعِيْلٌ (رحيم)، فَعُوْلٌ (شَكُوْزٌ)، فَعَالٌ (حَمَادٌ)، مَفْعَالٌ (مِحْدَاؤٌ) اور باقی سماعی ہیں جیسے فَعُوْلٌ، فَعَالٌ، فَاعُوْلٌ، فَعِيْلٌ۔۔۔۔
5. اسم تفضیل: وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صفت دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے۔ اَفْعَل (مذکر) اَفْعَلان، اَفْعَلون و اَفْعَالٌ، فَعْلِي (مؤنث) فَعْلِيان، فَعْلِيات و فَعْلٌ
6. اسم آلہ: وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے، مثلاً: مِفْتَاحٌ "کھولنے کا آلہ، یعنی چابی"۔ اسم آلہ کے قیاسی اوزان تین ہیں: مِفْعَالٌ (میزان)، مِفْعَلٌ (مِرْدٌ)، مِفْعَلَةٌ (مِکْنَسَةٌ)
7. اسم ظرف: وہ اسم مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے: مَلْعَبٌ "کھیلنے کی جگہ یا وقت"۔ ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں: مَفْعَلٌ اور مَفْعِلٌ، غیر ثلاثی مجرد کے افعال سے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگائیں اور عین کلمہ کو فتح اور آخری حرف کو تنوین دے دیں، جیسے: يُكْرِمُ سے مُكْرِمٌ

Asmae Mushtaqqa te'daad me 7 hain:

1. Ism e Fa'el: wo ism mushtaq hai jo badalne waale (ghair daimi) masdari maana par aur us zaat par dalalat kare jis se ye ma'na sadir ho ya jiske saath ye qaem ho. Ye فاعِلٌ (-fa'e'lun) ke wazan par aata hai.
2. Ism e Maf'ool: wo ism mushtaq hai jo badalne waale (ghair daimi) masdari maana par aur us zaat par dalalat kare jis par ye ma'na waaqe' ho. Ye مفعولٌ (maf'oolun) ke wazan par aata hai.
3. Sifat e Mushabbah: wo isme mushtaq hai jo saahibe sifat ke liye sifat ke suboot aur dawaam par dalalat kare, jaise: jameel, shujaa'. Ye ausaaf aarzi nahi balke daimi hote hain. أَفْعَلٌ (muzakkar), فُعْلَاءٌ (muannas), فُجَلٌ (jama' muzakkar wo muannas)
4. Ism e Mubalagha: isme mubalgha wo ism mushtaq hai jo ism me masdari ma'na ki kasrat wa izafe par dalalat kare, jaise zarraabun (bohat maarne waala). Iske 5 qiyasi auzaan hain: أَفْعَلٌ fa'ilun, فَعْلِيلٌ fa'eelun, فَعُولٌ fa'oolun, فَعَالٌ fa'aalun, مِفْعَالٌ mif'aalun, aur baqi simaee hai jaise: فَعُولٌ fa'oolun, فُعَالٌ fu'aalun, فَعَاوِلٌ faa'oolun, فِعْفِيلٌ fi'eelun...
5. Ism e Tafzeel: wo isme mushtaq hai jo ye batae ke ek sifat do ya do se zyada ashya me mushtarak paai jaati hai laikin in me se ek shae is sifat me doosri se badh kar hai. أَفْعَلٌ، أَفْعَلَانٌ، أَفْعَلُونَ و أَفَاعِلٌ، فُعْلَى، فُعْلَيَانٌ، فُعْلِيَاتٌ و فُعْلٌ
6. Ism e Aala: wo isme mushtaq hai jo us cheez par dalalat kare jis ke zariye se kaam kiya jaata hai, masalan: مِفْتَاَحٌ mif'taah (kholne ka aala) yani chaabi, isme aala ke qiyasi auzaan teen hain: مِفْعَالٌ mif'aal, مِفْعَالٌ mif'al, مِفْعَلَةٌ mif'alah.
7. Ism e Zarf: wo isme mushtaq hai jo us jagah ya waqt par dalalat kare jis me fel waaqe' ho, jaise: mal'ab (khelne ki jagah ya waqt). Sulasi mujarrad ke auzaan hain: maf'al aur maf'il, ghair sulasi mujarrad ke af'aal se is ke banane ka tariqa ye hai ke alamat e muzare' ko gira kar uski jaga meem e mazmoom lagaein aur aen kalima ko fatha aur aakhri harf ko tanween dedein, jaise: yukramu se mukramun (يُكْرَمُ – مُكْرَمٌ)

DERIVATIVE NOUN

(الاسماء المشتقة)

There are 7 seven derivative nouns

1. Ism Fa'il: اسم الفاعل

It is a derivative noun which indicates the charging state . Ism Faail creates the action and Its pronunciation is in the pattern of fa'il فَاعِلٌ .

2. (Ism mafool : اسم مفعول)

Object noun: It is a derivative noun which indicat that action has been done on it . It comes in the pattern of مَفْعُولٌ

3. Adjective analogy : Sifat Mushabbaha

It is a derivative noun which indicates the permanence of the adjective for the possessor of the adjective, such as: beautiful, brave. These attributes are not temporary but permanent.

Muzakkar pattern (Ahmaru) أَحْمَرُ

Muannas Pattern (Hamraau) حَمْرَاءُ

Muzakkar o muannas jama Pattern (HUMRUN) حُمْرٌ

4. Exaggerated noun: Exaggerated noun is a derivative noun which indicates the Exaggerated meaning of the root meaning in the noun, such a(Gaffarun) غَفَّارٌ It has five popular patterns:

فَاعِلٌ fa'ilun, فَاعِيلٌ fa'eelun, فَاوُولٌ fa'oolun, فَاوَالٌ fa'aalun, مِفْعَالٌ mif'aalun, aur baqi simaee hai jaise: فَاوُولٌ fa'oolun, فَاوَالٌ fa'aalun, فَاوُولٌ faa'oolun, فَاوَالٌ fa'eelun...

5. Ism Tafzeel (superior Noun)

A derivative noun that indicates that an adjective is common to two or more objects, but one of them is superior to the other in the adjective. The masculine form comes under the Pattern of:

أَفْعَلٌ، أَفْعَلَانٌ، أَفْعَلُونَ و أَفَاعِلٌ، فُعْلَى، فُعْلِيَانٌ، فُعْلِيَاتٌ و فُعْلٌ

6. Instrumental noun: ISM AALA

It is a derivative noun that indicates the thing through which the work is done, for example:

مِفْتَاحٌ MIFTAHUN"opening device, ie key". The patterns of the instrumental noun are three: مِفْعَالٌ mif'aal, مِفْعَلٌ mif'al, مِفْعَلَةٌ mif'alah.; Plural is Mafaeel مَفَاعِيلُ

7. ism Zarf: A derivative noun that indicates the place or time in which the action occurs, such as:

مَلْعَبٌ "place or time to play". The patterns are: مَفْعَلٌ Maf'alun and مَفْعِلٌ, Maf'ilun

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 1

Identify and write the meaning of Subject and Predicate	Mubtaza Khabar ko pehchane aur maani likhe	مبتدا خبر کو پہچانے اور معانی لکھیے
---	--	-------------------------------------

خبر Khabar - Predicate	مبتدا Mubtada - Subject	ترجمہ Tarjama - Translation	
			القرآن کتاب
			القرآن کتاب اللہ
			اللہ احد
			اللہ نزل القرآن
			الإنسان لفي خسر
			محمد رسول
			الرحمن علم القرآن
			الساعة آتية
			الإنسان عجول

Exercise : 2

Identify Subject and Predicate in the altered sentences and write there meaning	Mubtaza Khabar ki tabdeeli shuda haalato ko pehchaane aur maani likhe	مبتدا خبر کی تبدیل شدہ حالتوں کو پہچانے اور معانی لکھیے
---	---	---

اردو		عربی
Allah is great and knows everything	Allaah Wus'At aur Ilm wala hai	اللہ وسعت اور علم والا ہے۔
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes
		اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Power belongs to Allah	Quvvat Allaah ki hai	قوت اللہ کی ہے	القُوَّةُ لِلَّهِ
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
Power belongs to Allah	Quvvat Allaah ki hai	قوت اللہ کی ہے	هُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
Allah is severe in punishing	Allaah saza dene me shaded hai	اللہ سزا دینے میں شدید ہے	اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Teachers work hard	Asatizaa mehnati hain	اساتذہ محنتی ہیں	الْمُعَلِّمُونَ مُجْتَهِدُونَ
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	هَلِ الْمُعَلِّمُونَ مُجْتَهِدُونَ
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	إِنَّ الْمُعَلِّمِينَ مُجْتَهِدُونَ
He is a big oppressor	Vo badaa zaalim hai	وہ بڑا ظالم ہے	هُوَ ظَالِمٌ

Arshad Basheer Madani Notes

تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	هُوَ لَيْسَ بِظَلَامٍ
Indeed, Allah do not oppress his slaves	Beshak Allaah bando par zulm karne wala nahi hai	بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے	
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ
Does Allah keeps Knowledge better than anybody else ?	Kya Allaah sabse zyada ilm rakhne wala nahi hai?	کیا اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے؟	
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
Do they not see that Allah , who created the heavens and earth, is [the one] Able to create the likes of them?	Kya Vo jisne aasman o zameen ko takhleeq kiya, qudrath rakhne wala nahi hai?	کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	
Is Allah not sufficient ?	Kya Allaah kaafi nahi hai?	کیا اللہ کافی نہیں ہے؟	
تبدیلی کس نے کی؟ Tabdeeli kisne ki? How to make changes ?	معنی پر اثر Maani par asar Effect on Meaning	ظاہری شکل پر اثر Zaahiri shakal par asar Effect on Superficial changes	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 3

By joining the below words make Subject and Predicate and write their meaning

Man darja zel kalimaath ko munaasib jod lagaa kar Muftada Khabar banaaye aur maani likhe

مندرجہ ذیل کلمات کو مناسب جوڑ لگا کر مبتدا خبر بنائیے اور معنی لکھیے

الْبَيْتُ سَرِيعٌ مُفِيدٌ الْكِتَابُ الْقِطَارُ
مُحَمَّدٌ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ رَسُولٌ وَاسِعٌ

جملہ ترجمہ

1.
2.
3.
4.
5.

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 4

Using appropriate Subject and Predicate, fill up the below blanks

Munaasib muftada aur munaasib khabar ke zariye khaana puri keejiye

مناسب مبتدا اور مناسب خبر کے ذریعہ خانہ پوری کیجیے

1. المسجد..... (جميلة) (جمیل)
2. البيت..... (واسعة) (ضيق)
3. صادق..... (رسول) (الرسول)
4. القلنسوة..... (سوداء) (أسود)
5. صالحة..... (زيد) (عائشة)

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 6

By using the below given words, Translate the Ahadith and Identify the changes in the subject and predicate

Man darja zel Ahadees ka tarjama keejiye aur Muftada aur Khabar ki tabdeeliyon ko pehchaaniye

مندرجہ ذیل احادیث کا ترجمہ کیجیے اور مبتدا اور خبر کی تبدیلیوں کو پہچانیے

1. عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالْشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالْشِّمَالِ (رواه مسلم)

ترجمہ:

2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه مسلم)

ترجمہ:

3. إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ (رواه مسلم عن جابر)

ترجمہ:

4. لَيْسَ الْغَيْثُ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَيْثَ غَيْثُ النَّفْسِ. (بخاری عن ابی ہریرہ)

ترجمہ:

5. الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَبِيلِهِ (بخاری عن ابن عباس)

ترجمہ:

6. وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعُ نَفْسَهُ فَمَنْعَتْهَا أَوْ مَوْبِقُهَا

(رواه مسلم عن ابی مالک الأشعری)

ترجمہ:

Exercise : 7

By using the below given words, Translate the sentence and Identify the changes in the subject and predicate

Man darja zel Jumlon ka tarjama keejiye aur Muftada aur Khabar ki tabdeeliyon ko pehchaaniye

مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کیجیے اور مبتدا اور خبر کی تبدیلیوں کو پہچانیے

1. اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْمَلَانِ فِيكَ فَاعْمَلْ فِيهِمَا أَعْمَالًا صَالِحَةً تَرْبِحَ

ترجمہ:

AskIslamPedia

2. التوبة قبل أن تصل إليك النوبة

Arshad Basheer Madani Notes

ترجمہ:

3. الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة.

ترجمه:

4. إنما الدُّنيا سوق للتجر (التجارة) ومجلس وعظ للزجر وليل صيف قريب الفجر،

ترجمه:

5. علمت أن الوقت سيف.

ترجمه:

Exercise : 8

Identify the Nominal Sentences and translate them

Jumla ismiya ko pehchaan kar tarjama keejiye

جملہ اسمیہ کو پہچان کر ترجمہ کیجیے

فِيهِمَا فَآكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿68﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿69﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ ﴿70﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿71﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْحُجُورِ
﴿72﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿73﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿74﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿75﴾ مُتَّكِعِينَ عَلَى رُفُوفٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرٍ
حَسَانٌ ﴿76﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿77﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿78﴾ (سورة الرحمن)

ترجمہ Tarjama - Translate	جملہ اسمیہ Jumla ismiya - Nominal Sentences

Exercise : 9

Identify the Nominal Sentences and translate them

Jumla ismiya ko pehchaan kar tarjama keejiye

جملہ اسمیہ کو پہچان کر ترجمہ کیجیے

زعموا أن أسداً كان في أرض كثيرة البياض والعشب؛ وكان في تلك الأرض من الوحوش في سعة الميأة والبرعى شيءٌ كثيرٌ، إلا أنه لم يكن ينفعها ذلك لخوفها من الأسد؛ فاجتمعت وأتت إلى الأسد، فقالت له: إنك لتصيب منا الدابة بعد الجهد والتعب؛ وقد رأينا لك رأياً فيه صلاح لك وأمنٌ لنا. فإن أنت امنتنا ولم تخفنا، فلك علينا في كل يومٍ دابةٌ نرسل بها إليك في وقت غداك: فرضى الأسد بذلك، وصالح الوحوش عليه، ووفين له به. ثم إن أرنباً أصابتها القرعة، وصارت غداء الأسد؛ فقالت للوحوش: إن أنتن رفقتن بي فيما لا يضركن؛ رجوت أن أريحك من الأسد. فقالت الوحوش: وما الذي تكلفيننا من الأمور؛ قالت: تأمرن الذي ينطلق بي إلى الأسد أن يمهلى ريثماً أبطى عليه بعض الإبطاء. فقلن لها ذلك لك. فانطلقت الأرنب متباطئةً؛ حتى جاوزت الوقت الذي كان يتعدى فيه الأسد. ثم تقدمت إليه وحدها رويداً، وقد جاع؛ فغضب وقام من مكانه نحوها؛ فقال لها: من أين أقبلت؟ قالت: أنا رسول الوحوش إليك؛ بعثني ومعى أرنبٌ لك، فتبعني أسدٌ في بعض تلك الطريق، فأخذها مني، وقال: أنا أولى بهذه الأرض وما فيها من الوحوش. فقلت: إن هذا غداء الملك أرسلني به الوحوش إليه. فلا تغصبه. فسبك وشتمك. فأقبلت مسرعةً لأخبرك. فقال الأسد: انطلقى معى فأرينى موضع هذا الأسد. فانطلقت الأرنب إلى جب فيه ماءٌ غامرٌ صافٍ؛ فاطلعت فيه، وقالت: هذا المكان. فاطلع الأسد، فرأى ظله وظل الأرنب في الماء؛ فلم يشك في قولها؛ ووثب إليه ليقاتله، فغرق في الجب. فانقلبت الأرنب إلى الوحوش فأعلمتهن صنعها بالأسد.

ترجمہ Tarjama - Translate	جملہ اسمیہ Jumla ismiya - Nominal Sentences

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 10

Using the below words make nominal sentences and change them and write their meaning	Man darja zel kalimaath ko jumla ismiya me tabdeel keejiye aur maani likhe	مندرجہ ذیل کلمات کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیجیے اور معنی لکھیے
--	--	---

الرَّسُولُ الْقُرْآنُ

الشمس

فُحْمًا

سَرِيحٌ

الْقَطَارُ

كَثِيرَةٌ

أَرْضٌ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

Exercise : 11

Write ten nominal sentences which mention in sura waqiyah and translate it.	Suratul waqiyah ki raushni me jumle ismiya ke das jumle naqal kijiye aur in sab ka tarjama kijiye.	"سورة الواقعة" کی روشنی میں جملہ اسمیہ کے دس جملے نقل کیجیے اور ان سب کا ترجمہ کیجیے
---	--	--

-1
-2
-3
-4
-5

Arshad Basheer Madani Notes

.....6
.....7
.....8
.....9
.....10

Exercise : 12

جملہ اسمیہ کو مندرجہ ذیل مثالوں کے ذریعہ سمجھیے اور ترجمہ کیجیے۔

Jumle ismiya ko mandarja zel misalon ke zariye samjhiye aur tarjama kijiye

Understand the Nominal sentence with the help of following examples and translate

Arshad Basheer Madani Notes

۱. هَذَا كِتَابٌ ، وَرَقُهُ أَصْفَرٌ ، حَجْمُهُ كَبِيرٌ ، اشْتَرَيْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنَ الدُّكَّانِ الَّذِي قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ .
۲. الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ مَسْجِدٌ جَمِيلٌ ، لَهُ أَبْوَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَلَهُ مَنَارَتَانِ طَوِيلَتَانِ جَمِيلَتَانِ -
۳. هَذَا أَخِي ، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ ، فَصَارَ رَئِيسًا لِقَوْمِهِ ، نَاصِحًا لِأُسْرَتِهِ ، شَفِيقًا عَلَى الْمُحْتَاجِينَ -
۴. الْقُرْآنُ كِتَابُ اللَّهِ ، هُوَ كِتَابٌ كَرِيمٌ مَجِيدٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهَدَايَةِ النَّاسِ عَلَى رِسُولِهِ الْأَمِينِ -
۵. مَدِينَةُ حَيْدَرَابَادَ مَدِينَةٌ ثَقَافِيَّةٌ وَتَارِيخِيَّةٌ ، وَمَدِينَةُ هَامَةَ تَقَعُ جَنُوبَ الْهِنْدِ - وَهِيَ عَاصِمَةُ وَلايَةِ تَلَنْغَانَةَ وَيَبْلُغُ عَدَدُ سُكَّانِهَا حَوَالِي عَشْرٍ مِليُونِ نَسْمَةٍ - وَهِيَ بِذَلِكَ تُعَدُّ سَادِسَ أَكْبَرِ مَدِينَةٍ فِي الْهِنْدِ وَتَعْتَبَرُ كَأَحَدِ أَهَمِّ مَدَنِ الْهِنْدِ مِنْ حَيْثُ التَّطَوُّرِ وَالنُّمُوِّ وَالْحَدَاثَةِ -
۶. الْعَالَمُ مُصْبِحٌ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا اقْتَبَسْ مِنْهُ .
۷. قِيلَ لِبَعْضِهِمْ: مَا الشُّجَاعَةُ؟ قَالَ: صَبْرُ سَاعَةٍ .

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 13

i. جملہ اسمیہ کو پہچان کر ترجمہ کے ساتھ لکھیے۔

Jumle Ismiya ko pahachan kar tarjume ke saath likhen.

Identify the nominal sentence and translate them

- الرَّحْمَنُ (۱) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (۲) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (۳) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۴) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (۵) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ (۶) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (۷) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (۸) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ (۹) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ (۱۰) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (۱۱) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
(۱۲) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۱۳) (سورة الرحمن)

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



دیے گئے افعال سے مناسب اسمائے مشتقات بنائیے:

اسم ظرف	اسم آلہ	اسم تفضیل	اسم مبالغہ	صفت مشبہ	اسم مفعول	اسم فاعل	افعال
مَفْعَلٌ	مِفْعَالٌ	أَفْعَلٌ	فَعَالٌ	فَعِيْلٌ	مَفْعُوْلٌ	فَاعِلٌ	فَعَلٌ
							فَتَحَ
							دَخَلَ
							جَلَسَ
							أَكَلَ
							غَسَلَ
							ذَهَبَ
							ضَرَبَ
							نَصَرَ
							شَرِبَ
							لَبَسَ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
فعل اور جملہ فعلیہ کی بحث

Verb & Verbal Sentence

الفعل والجملة الفعلية

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



الدرس الثامن

سبق

LESSON-8

I - أقسام الفعل

I - Fel ki qisme - I - Types of Verb

الماضي

Maazi - Past tense

فعل FEL – VERB

فعل (verb) کی تین قسمیں ہیں :

Fel (verb) ki teen Qisme hai:

There are 3 types of verb

1. Past tense	Maazi	الماضي	1
2. Present and future tense	Muzaar'e	المضارع	2
3. Imperative (Positive)	Amr	الأمر	3



Arshad Basheer Madani Notes

Past	Maazi	ماضي
<p>تعريف: ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں واقع ہونا سمجھا جائے۔</p> <p>Tareef: Maazi wo fel hai jis se kisi kaam ka zamana gujishta mai waq'ehona samjha jaye.</p> <p>Definition: The work or an action which was completed in past.</p>		<p>فَعَلَ</p> <p>Fa-A-La</p> <p>Usne kiye</p> <p>He did</p>

فعل ماضی تین اوزان پر آتا ہے۔ فَعَلَ، فَعِلَ، فَعِلَ (یعنی حرفِ عین پر تغیر واقع ہوتا ہے)

Fel maazi teen/3 tarha se aata hai. Fa'Aa'La, Fa'ee'la, Fa'oo'la

(Yani huruf A'yeen per tageer waqqye hota hai)

They are of 3 patterns	Teen khisme hain	تین قسمیں ہیں
<p>فَتَحَ دَخَلَ جَلَسَ أَكَلَ</p> <p>غَسَلَ ذَهَبَ ضَرَبَ نَصَرَ</p>		<p>فَعَلَ کی مثالیں</p> <p>Fa-a-la ki misaalain</p> <p>Examples of Fa'a'la</p>
<p>شَرِبَ لَبَسَ سَمِعَ عَلِمَ</p> <p>جَهَلَ شَهِدَ فَهِمَ حَسِبَ</p>		<p>فَعِلَ کی مثالیں</p> <p>Fa-e-la ki misaalain</p> <p>Examples of Fa'e'la</p>
<p>بَعَدَ قَرَبَ كَثُرَ كَرُمَ</p> <p>شَرُفَ حَسُنَ كَبُرَ ضَعُفَ</p>		<p>فَعُلَ کی مثالیں</p> <p>Fa-o-la ki misaalain</p> <p>Examples of Fa'o'la</p>

تصريف فعل ماضی "معروف"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
They (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
They (all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-lat	فَعَلَتْ
They (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلَتَا
They (all) did	ان سب نے کیا	Fa-al-na	فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tu-maa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tum	فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ti	فَعَلْتِ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tumaa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tunna	فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-al-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم نے کیا	Fa-al-naa	فَعَلْنَا

تصریف فعلِ ماضی ”مجہول“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was helped	وہ مدد کیا گیا	Nusira	نُصِرَ
They both were helped	وہ دونوں مدد کیے گئے	Nusiraa	نُصِرَا
They all were helped	وہ سب مدد کیے گئے	Nusiroo	نُصِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was helped	وہ مدد کی گئی	Nusirat	نُصِرَتْ
They both were helped	وہ دونوں مدد کی گئیں	Nusirataa	نُصِرَتَا
They all were helped	وہ سب مدد کی گئیں	Nusirna	نُصِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were helped	تو مدد کیا گیا	Nusirta	نُصِرْتَ
You (both) were helped	تم دونوں مدد کیے گئے	Nusirtumaa	نُصِرْتُمَا
You all were helped	تم سب مدد کیے گئے	Nusirtum	نُصِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were helped	تو مدد کی گئی	Nusirti	نُصِرْتِ
You (both) were helped	تم دونوں مدد کی گئیں	Nusirtumaa	نُصِرْتُمَا
You all were helped	تم سب مدد کی گئیں	Nusirtunna	نُصِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I was helped	میں مدد کیا گیا	Nusirtu	نُصِرْتُ
We were helped	ہم مدد کیے گئے	Nusirnaa	نُصِرْنَا

تصريف فعلِ ماضی ”معروف منفي“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't do	اس نے نہیں کیا	Maa Fa-a-la	مَا فَعَلَ
They both didn't do	ان دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-a-laa	مَا فَعَلَا
They all didn't do	ان سب نے نہیں کیا	Maa Fa-a-loo	مَا فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't do	اس نے نہیں کیا	Maa Fa-a-lat	مَا فَعَلَتْ
They both didn't do	ان دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-a-la-taa	مَا فَعَلْتَا
They all didn't do	ان سب نے نہیں کیا	Maa Fa-al-na	مَا فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't do	تم نے نہیں کیا	Maa Fa-al-ta	مَا فَعَلْتَ
You both didn't do	تم دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tu-maa	مَا فَعَلْتُمَا
You all didn't do	تم سب نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tum	مَا فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't do	تم نے نہیں کیا	Maa Fa-al-ti	مَا فَعَلْتِ
You both didn't do	تم دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tumaa	مَا فَعَلْتُمَا
You all didn't do	تم سب نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tunna	مَا فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I didn't do	میں نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tu	مَا فَعَلْتُ
We didn't do	ہم نے نہیں کیا	Maa Fa-al-naa	مَا فَعَلْنَا

تصريف فعلِ ماضی ”مجهول منفي“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was not helped	وہ مدد نہیں کیا گیا	Maa Nusira	مَا نُصِرَ
They both were not helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusiraa	مَا نُصِرَا
They all were not helped	وہ سب مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusiroo	مَا نُصِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was not helped	وہ مدد نہیں کی گئی	Maa Nusirat	مَا نُصِرَتْ
They both were not helped	وہ دونوں مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirataa	مَا نُصِرَتَا
They all were not helped	وہ سب مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirna	مَا نُصِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were not helped	تو مدد نہیں کیا گیا	Maa Nusirta	مَا نُصِرْتَ
You both were not helped	تم دونوں مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusirtumaa	مَا نُصِرْتُمَا
You all were not helped	تم سب مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusirtum	مَا نُصِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were not helped	تو مدد نہیں کی گئی	Maa Nusirti	مَا نُصِرْتِ
You both were not helped	تم دونوں مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirtumaa	مَا نُصِرْتُمَا
You all were not helped	تم سب مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirtunna	مَا نُصِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I was not helped	میں مدد نہیں کیا گیا	Maa Nusirtu	مَا نُصِرْتُ
We were not helped	ہم مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusirnaa	مَا نُصِرْنَا

تصریف فعلِ ماضی ”معروف ب قد“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Certainly he did	تحقیق اس نے کیا	Qad Fa-a-la	قَدْ فَعَلَ
Certainly they both did	تحقیق ان دونوں نے کیا	Qad Fa-a-laa	قَدْ فَعَلَا
Certainly they all did	تحقیق ان سب نے کیا	Qad Fa-a-loo	قَدْ فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Certainly she did	تحقیق اس نے کیا	Qad Fa-a-lat	قَدْ فَعَلَتْ
Certainly they both did	تحقیق ان دونوں نے کیا	Qad Fa-a-la-taa	قَدْ فَعَلَتَا
Certainly they all did	تحقیق ان سب نے کیا	Qad Fa-al-na	قَدْ فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Certainly you did	تحقیق تم نے کیا	Qad Fa-al-ta	قَدْ فَعَلْتَ
Certainly you both did	تحقیق تم دونوں نے کیا	Qad Fa-al-tu-maa	قَدْ فَعَلْتُمَا
Certainly you all did	تحقیق تم سب نے کیا	Qad Fa-al-tum	قَدْ فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Certainly you did	تحقیق تم نے کیا	Qad Fa-al-ti	قَدْ فَعَلْتِ
Certainly you both did	تحقیق تم دونوں نے کیا	Qad Fa-al-tumaa	قَدْ فَعَلْتُمَا
Certainly you all did	تحقیق تم سب نے کیا	Qad Fa-al-tunna	قَدْ فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Certainly I did	تحقیق میں نے کیا	Qad Fa-al-tu	قَدْ فَعَلْتُ
Certainly we did	تحقیق ہم نے کیا	Qad Fa-al-naa	قَدْ فَعَلْنَا

تصریف فعلِ ماضی ”مجهول ب قد“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Certainly he was helped	تحقیق وہ مدد کیا گیا	Qad Nusira	قَدْ نُسِرَا
Certainly they both were helped	تحقیق وہ دونوں مدد کیے گئے	Qad Nusiraa	قَدْ نُسِرَا
Certainly they all were helped	تحقیق وہ سب مدد کیے گئے	Qad Nusiroo	قَدْ نُسِرُوَا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Certainly she was helped	تحقیق وہ مدد کی گئی	Qad Nusirat	قَدْ نُسِرَتْ
Certainly they both were helped	تحقیق وہ دونوں مدد کی گئیں	Qad Nusirataa	قَدْ نُسِرَتَا
Certainly they all were helped	تحقیق وہ سب مدد کی گئیں	Qad Nusirna	قَدْ نُسِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Certainly you were helped	تحقیق تو مدد کیا گیا	Qad Nusirta	قَدْ نُسِرْتَ
Certainly you both were helped	تحقیق تم دونوں مدد کیے گئے	Qad Nusirtumaa	قَدْ نُسِرْتُمَا
Certainly you all were helped	تحقیق تم سب مدد کیے گئے	Qad Nusirtum	قَدْ نُسِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Certainly you were helped	تحقیق تو مدد کی گئی	Qad Nusirti	قَدْ نُسِرْتِ
Certainly you both were helped	تحقیق تم دونوں مدد کی گئیں	Qad Nusirtumaa	قَدْ نُسِرْتُمَا
Certainly you all were helped	تحقیق تم سب مدد کی گئیں	Qad Nusirtunna	قَدْ نُسِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Certainly I was helped	تحقیق میں مدد کیا گیا	Qad Nusirtu	قَدْ نُسِرْتُ
Certainly we were helped	تحقیق ہم مدد کیے گئے	Qad Nusirnaa	قَدْ نُسِرْنَا

تصريف فعل ماضی "معروف ب کان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He had done it	اس نے کیا تھا	Kaana Fa-a-la	كَانَ فَعَلَ
They both had done it	ان دونوں نے کیا تھا	Kaanaa Fa-a-laa	كَانَا فَعَلَا
They all had done it	ان سب نے کیا تھا	Kaanoo Fa-a-loo	كَانُوا فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She had done it	اس نے کیا تھا	Kaanat Fa-a-lat	كَانَتْ فَعَلَتْ
They both had done it	ان دونوں نے کیا تھا	Kaanataa Fa-a-la-taa	كَانَتَا فَعَلَتَا
They all had done it	ان سب نے کیا تھا	Kaana Fa-al-na	كُنَّ فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You had done it	تم نے کیا تھا	Kunta Fa-al-ta	كُنْتَ فَعَلْتَ
You both had done it	تم دونوں نے کیا تھا	Kuntumaa Fa-al-tu-maa	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
You all had done it	تم سب نے کیا تھا	Kuntum Fa-al-tum	كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You had done it	تم نے کیا تھا	Kunti Fa-al-ti	كُنْتِ فَعَلْتِ
You both had done it	تم دونوں نے کیا تھا	Kuntumaa Fa-al-tumaa	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
You all had done it	تم سب نے کیا تھا	Kuntunna Fa-al-tunna	كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I had done it	میں نے کیا تھا	Kuntu Fa-al-tu	كُنْتُ فَعَلْتُ
We had done it	ہم نے کیا تھا	Kunnaa Fa-al-naa	كُنَّا فَعَلْنَا

تصریف فعلِ ماضی ”مجھول ب کان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He had been helped	وہ مدد کیا گیا تھا	Kaana Nusira	كَانَ نُصِرَ
They both had been helped	وہ دونوں مدد کیے گئے تھے	Kaanaa Nusiraa	كَانَا نُصِرَا
They all had been helped	وہ سب مدد کیے گئے تھے	Kaanoo Nusiroo	كَانُوا نُصِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She had been helped	وہ مدد کی گئی تھی	Kaanat Nusirat	كَانَتْ نُصِرَتْ
They both had been helped	وہ دونوں مدد کی گئیں تھیں	Kaanataa Nusirataa	كَانَتَا نُصِرَتَا
They all had been helped	وہ سب مدد کی گئی تھیں	Kunna Nusirna	كَانْنَ نُصِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You had been helped	تو مدد کیا گیا تھا	Kunta Nusirta	كُنْتَ نُصِرْتَ
You both had been helped	تم دونوں مدد کیے گئے تھے	Kuntumaa Nusirtumaa	كُنْتُمَا نُصِرْتُمَا
You all had been helped	تم سب مدد کیے گئے تھے	Kuntum Nusirtum	كُنْتُمْ نُصِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You had been helped	تو مدد کی گئی تھی	Kunti Nusirti	كُنْتِ نُصِرْتِ
You both had been helped	تم دونوں مدد کی گئیں تھیں	Kuntumaa Nusirtumaa	كُنْتُمَا نُصِرْتُمَا
You all had been helped	تم سب مدد کی گئی تھیں	Kuntunna Nusirtunna	كُنْتُنَّ نُصِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I had been helped	میں مدد کیا گیا تھا	Kuntu Nusirtu	كُنْتُ نُصِرْتُ
We had been helped	ہم مدد کیے گئے تھے	Kunnaa Nusirnaa	كُنَّا نُصِرْنَا

Arshad Basheer Madani Notes

1. فَعَلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

															فَتَحَ
															دَخَلَ
															جَلَسَ
															أَكَلَ
															غَسَلَ
															ذَهَبَ
															ضَرَبَ
															نَصَرَ
															شَرِبَ
															لَبَسَ

2. فُعِلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

															فَتَحَ
															دَخَلَ
															جَلَسَ
															أَكَلَ
															غَسَلَ
															ذَهَبَ
															ضَرَبَ
															نَصَرَ
															شَرِبَ
															لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

5. قَدْ فَعَلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

6. قَدْ فُعِلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

7. گانَ فَعْلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

8. گانَ فَعْلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

الدرس التاسع

٩

سبق

LESSON-9

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
II - فعل کی قسمیں

II - Fel ki qisme - II - Types of verb

المضارع

Mudaare - Present and Future tense

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

Present/ Future tense	Muzaare'	مضارع
<p>تعریف: مضارع وہ فعل ہے جس سے کام کا کبھی تو زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا پایا جائے</p> <p>Tareef: Muzaare' wo fel hai jis se kaam ka kabhi to zamane haal me aur kabhi zamane aaenda me hona paya jaye.</p> <p>Definition: Those verbs which indicate present and future tense are called Muzaare'</p>	<p>یَفْعَلُ Yaf-a-lu</p> <p>Wo karta hai ya kare ga he will do or he will be doing</p>	

فعل مضارع تین اوزان پر آتا ہے۔ یَفْعَلُ، یَفْعِلُ، یَفْعُلُ (یعنی حرفِ عین پر تغیر واقع ہوتا ہے)
Fel maazi teen/3 tarha se aata hai. Yaf-alu, Yaf-ilu, Yaf-ulu
(Yani huruf A'yeen per tageer waqqye hota hai)

<p>یَسْمَعُ (وہ سنتا ہے یا سنے گا) Wo suntan hai ya sune ga</p>	<p>یَشْرَبُ (وہ پیتا ہے یا پیے گا) Wo pita hai ya piye ga</p>	<p>یَفْتَحُ (وہ کھولتا ہے یا کھولے گا) Wo kholta hai ya khole ga</p>	<p>یَذْهَبُ (وہ جاتا ہے یا جائے گا) Wo jata hai ya jaye ga</p>	یَفْعَلُ کی مثالیں
<p>یَضْرِبُ (وہ مارتا ہے یا مارے گا) Wo maarta hai ya mare ga</p>	<p>یَغْسِلُ (وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا) Wo dhoota hai ya dhooaye ga</p>	<p>یَحْسِبُ (وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا) Wo gumaan karta hai ya kare ga</p>	<p>یَجْلِسُ (وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا) Wo baithta hai ya baithega</p>	یَفْعَلُ کی مثالیں
<p>یَكْرُمُ (وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا) Wo izzat karta hai ya kare ga</p>	<p>یَنْصُرُ (وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا) Wo madad karta hai ya kare ga</p>	<p>یَأْكُلُ (وہ کھاتا ہے یا کھائے گا) Wo khata hai ya khaye ga</p>	<p>یَدْخُلُ (وہ اندر آتا ہے یا آئے گا) Wo andar aata hai ya aaye ga</p>	یَفْعَلُ کی مثالیں

Arshad Basheer Madani Notes

مضارع بنانے کا طریقہ

Muzaar'e banane ka tariqa

Method of making Verb of present/ future

مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں (ی، ت، آ، ن) میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے: ی، ت، آ، ن چار صیغوں کے پہلے آتی ہے، تین مذکر غائب اور ایک جمع مؤنث غائب۔ ت، آ، ن آٹھ صیغوں کے پہلے آتی ہے، دو واحد و تثنیہ مؤنث غائب اور چھ مذکر و مؤنث حاضر۔ آ ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے یعنی واحد متکلم۔ ن ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے یعنی جمع متکلم۔

Muzaar'e maazi se banta hai. Uske banana ka tariqa ye hai ke maazi ke shuru mai (ا، ن، ی، ت) mai se ek huruf iss tarah lagay jata hai:

ی، ت، آ، ن چار 4 seghon ke pehle aati hai, 3 muzakkar gayab aur ek jama' muannas gayeb. ت، آ، ن Aath (8) seghon ke pehle aati hai, 2 wahid wa tasniya muannas ghayeb aur 6 muzakkar wa muannas hazir.

آ Ek segha ke pehle aata hai yani wahid mutakalim.

ن Ek segha ke pehle aata hai yani jama' mutakallim.

Verb (Muzaare) is made from its past (Maazi) by adding one of the four letters before it (ی، ت، آ، ن)

ی (Yaa): comes before 4 verb, 3 for 3rd person male and one for 3rd person female plural

ت (Taa): comes before 8 verbs, 2 for singular, dual and female 3rd person and 6 for 2nd person male and female.

آ (Alif): comes before 1st person Singular

ن (Noon) : comes before 1st person plural

نوٹ: (ی، ت، آ، ن) پر زبر آتا ہے اور اس کے بعد کا حرف "ف" مجزوم ہوتا ہے۔

Note: (ا، ن، ی، ت) per zabar aata hai aur uske ba'ad ka huruf "Fa" majzoom hota hai.

Note: In the verb of present tense, the letters (ی، ت، آ، ن) has zabar and "Fa" kalima has a jazam on it

مضارع کا آخری حرف پانچ / ۵ جگہ مرفوع ہوتا ہے؛ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔
چار تثنیوں کے آخر میں نون مکسورہ آتا ہے۔

تین جگہ نون مفتوح زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ (جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں)
جمع مؤنث غائب و حاضر کے آخر میں بھی دو جگہ نون مفتوح آتا ہے مگر اس کو نون ضمیر کہتے ہیں یہ ضمیر فاعل ہے اور کبھی ساقط نہیں ہوتی۔

Muzaar'e ka akhri harf aakhir paanch/5 jaga marfoo' hota hai; Wahid muzakkar ghayab, wahid muannas gayeb, wahid muzakkar hazir, wahid mutakallim aur jama' mutakallim.

Chaar tasniyaon ke aakhir mai noon e maksoorah.

Teen jaga (jama' muzakkar gayeb wa hazir aur wahid muannas hazir mai) noon e maftooh ziyada kiya jata hai. Isko noon Arabi kaha jata hai.

Jama' muannas ghayab wa hazir ke aakhir me bhi do jagah noon maftooh aata hai magar usko noon zameer kehte hai ye zameer fel hai aur kabhi saaqit nahi hoti.

Last letter of muzare has pesh in 5 places on the conjugation (3rd person singular male/ 2nd person female and 1st persons)

The declinable noon at the end of four dual verbs

In 3 places, 3rd person male and 2nd person male and 3rd person female, declinable noon comes with zabar

In 3rd person and 2nd person plural female noon comes with zabar called as noon of zameer and it is faa'el (doer of action) and is always fixed (indeclinable).

نوٹ: مضارع کا تیسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے یَفْعَلُ اور کبھی مکسور جیسے یَفْعَلُ اور کبھی مضموم جیسے یَفْعُلُ۔

Note: Muzaare' ka teesra hurf kabhi muftooh hota hai jayse Yaf-alu aur kabhi maksoora jaise Yaf-ilu aur kabhi mazmoom jaise Yaf-olu.

Note: Sometime in present tense the third letter comes with zair or zabar or pesh sometimes.

تصريف فعل مضارع ”معروف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help or will be helping	وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا	Yansuru	يَنْصُرُ
They both will help or will be helping	وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Yansuraani	يَنْصُرَانِ
They all will help or will be helping	وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Yansuroona	يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help or will be helping	وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی	Tansuru	تَنْصُرُ
They both will help or will be helping	وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
They all will help or will be helping	وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی	Yansurna	يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help or will be helping	تو مدد کرتا ہے یا کرے گا	Tansuru	تَنْصُرُ
You both will help or will be helping	تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
You all will help or will be helping	تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے	Tansuroona	تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help or will be helping	تو مدد کرتی ہے یا کرے گی	Tansureena	تَنْصُرِينَ
You both will help or will be helping	تم دونوں مدد کرتی ہو یا کرو گی	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
You all will help or will be helping	تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی	Tansurna	تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help or I will be helping	میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا	Ansuru	أَنْصُرُ
We will help or we will be helping	ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Nansuru	نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجہول“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is being helped or will be helped	وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	Yunsaru	يُنصَرُ
They both are being helped or will be helped	وہ دونوں مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Yunsaraani	يُنصَرَانِ
They all are being helped or will be helped	وہ سب مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Yunsaroonā	يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is being helped or will be helped	وہ مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	Tunsaru	تُنصَرُ
They both are being helped or will be helped	وہ دونوں مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
They all are being helped or will be helped	وہ سب مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	Yunsarna	يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are being helped or will be helped	تو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	Tunsaru	تُنصَرُ
You both are being helped or will be helped	تم دونوں مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
You all are being helped or will be helped	تم سب مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	Tunsaroonā	تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are being helped or will be helped	تو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	Tunsareena	تُنصَرِينَ
You both are being helped or will be helped	تم دونوں مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
You all are being helped or will be helped	تم سب مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	Tunsarna	تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am being helped or will be helped	میں مدد کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا	Unsaru	أُنصَرُ
We are being helped or will be helped	ہم مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Nunsaru	نُنصَرُ

تصريف فعل مضارع "معروف منفي"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is not helping or will not help	وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا	Laa Yansuru	لَا يَنْصُرُ
They both are not helping or will not help	وہ دونوں مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Yansuraani	لَا يَنْصُرَانِ
They all are not helping or will not help	وہ سب مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Yansuroona	لَا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is not helping or will not help	وہ مدد نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی	Laa Tansuru	لَا تَنْصُرُ
They both are not helping or will not help	وہ دونوں مدد نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
They all are not helping or will not help	وہ سب مدد نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی	Laa Yansurna	لَا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are not helping or will not help	تو مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا	Laa Tansuru	لَا تَنْصُرُ
You both are not helping or will not help	تم دونوں مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
You all are not helping or will not help	تم سب مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے	Laa Tansuroona	لَا تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are not helping or will not help	تو مدد نہیں کی کرتی ہے یا نہیں کرے گی	Laa Tansureena	لَا تَنْصُرِينَ
You both are not helping or will not help	تم دونوں مدد نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
You all are not helping or will not help	تم سب مدد نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی	Laa Tansurna	لَا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I am not helping or will not help	میں مدد نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا	Laa Ansuru	لَا اَنْصُرُ
We are not helping or will not help	ہم مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Nansuru	لَا نَنْصُرُ

تصريف فعل مضارع ”مجهول منفی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is not being helped or will not be helped	وہ مدد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا	Laa Yunsaru	لَا يُنصَرُ
They both are not being helped or will not be helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Yunsaraani	لَا يُنصَرَانِ
They all are not being helped or will not be helped	وہ سب مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Yunsaroonaa	لَا يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is not being helped or will not be helped	وہ مدد نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی	Laa Tunsaru	لَا تُنصَرُ
They both are not being helped or will not be helped	وہ دونوں مدد نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
They all are not being helped or will not be helped	وہ سب مدد نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی	Laa Yunsarna	لَا يُنصَرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are not being helped or will not be helped	تو مدد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا	Laa Tunsaru	لَا تُنصَرُ
You both are not being helped or will not be helped	تم دونوں مدد نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
You all are not being helped or will not be helped	تم سب مدد نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے	Laa Tunsaroonaa	لَا تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are not being helped or will not be helped	تو مدد نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی	Laa Tunsareena	لَا تُنصَرِينَ
You both are not being helped or will not be helped	تم دونوں مدد نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
You all are not being helped or will not be helped	تم سب مدد نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی	Laa Tunsarna	لَا تُنصَرُونَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am not being helped or will not be helped	میں مدد نہیں کیا جاتا ہوں یا نہیں کیا جاؤں گا	Laa Unsaru	لَا أُنصَرُ
We are not being helped or will not be helped	ہم مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Nunsaru	لَا نُنصَرُ

تصريف فعل مضارع "معروف ب كان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He used to help	وہ مدد کرتا تھا	Kaana Yansuru	كَانَ يَنْصُرُ
They both used to help	وہ دونوں مدد کرتے تھے	Kaanaa Yansuraani	كَانَا يَنْصُرَانِ
They all used to help	وہ سب مدد کرتے تھے	Kaanoo Yansuroona	كَانُوا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She used to help	وہ مدد کرتی تھی	Kaanat Tansuru	كَانَتْ تَنْصُرُ
They both used to help	وہ دونوں مدد کرتی تھیں	Kaanataa Tansuraani	كَانَتَا تَنْصُرَانِ
They all used to help	وہ سب مدد کرتی تھیں	Kunna Yansurna	كَانَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You used to help	تو مدد کرتا تھا	Kunta Tansuru	كُنْتَ تَنْصُرُ
You both used to help	تم دونوں مدد کرتے تھے	Kuntumaa Tansuraani	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
You all used to help	تم سب مدد کرتے تھے	Kuntum Tansuroona	كُنْتُمْ تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You used to help	تو مدد کرتی تھی	Kunti Tansureena	كُنْتِ تَنْصُرِينَ
You both used to help	تم دونوں مدد کرتی تھیں	Kuntumaa Tansuraani	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
You all used to help	تم سب مدد کرتی تھیں	Kuntunna Tansurna	كُنْتُنَّ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I used to help	میں مدد کرتا تھا	Kuntu Ansuru	كُنْتُ أَنْصُرُ
We used to help	ہم مدد کرتے تھے	Kunna Nansuru	كُنَّا نَنْصُرُ

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب كان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was being helped	وہ مدد کیا جاتا تھا	Kaana Yunsaru	كَانَ يُنصَرُ
They both were being helped	وہ دونوں مدد کیے جاتے تھے	Kaanaa Yunsaraani	كَانَا يُنصَرَانِ
They all were being helped	وہ سب مدد کیے جاتے تھے	Kaanoo Yunsaroonaa	كَانُوا يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was being helped	وہ مدد کی جاتی تھی	Kaanat Tunsaru	كَانَتْ تُنصَرُ
They both were being helped	وہ دونوں مدد کی جاتی تھیں	Kaanataa Tunsaraani	كَانَتَا تُنصَرَانِ
They all were being helped	وہ سب مدد کی جاتی تھیں	Kunna Yunsarna	كَانَ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were being helped	تو مدد کیا جاتا تھا	Kunta Tunsaru	كُنْتَ تُنصَرُ
You both were being helped	تم دونوں مدد کیے جاتے تھے	Kuntumaa Tunsaraani	كُنْتُمَا تُنصَرَانِ
You all were being helped	تم سب مدد کیے جاتے تھے	Kuntum Tunsaroonaa	كُنْتُمْ تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were being helped	تو مدد کی جاتی تھی	Kunti Tunsareena	كُنْتِ تُنصَرِينَ
You both were being helped	تم دونوں مدد کی جاتی تھیں	Kuntumaa Tunsaraani	كُنْتُمَا تُنصَرَانِ
You all were being helped	تم سب مدد کی جاتی تھیں	Kuntunna Tunsarna	كُنْتُنَّ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I was being helped	میں مدد کیا جاتا تھا	Kuntu Unsaru	كُنْتُ أَنْصَرُ
We were being helped	ہم مدد کیے جاتے تھے	Kunnaa Nunsaru	كُنَّا أَنْصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”معروف بلام مفتوح“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will help	البتہ وہ مدد کرتا ہے	La-Yansuru	لَيَنْصُرُ
However they both will help	البتہ وہ دونوں مدد کرتے ہیں	La-Yansuraani	لَيَنْصُرَانِ
However they all will help	البتہ وہ سب مدد کرتے ہیں	La-Yansuroona	لَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will help	البتہ وہ مدد کرتی ہے	La-Tansuru	لَتَنْصُرُ
However they both will help	البتہ وہ دونوں مدد کرتی ہیں	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However they all will help	البتہ وہ سب مدد کرتی ہیں	La-Yansurna	لَيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will help	البتہ تو مدد کرتا ہے	La-Tansuru	لَتَنْصُرُ
However you both will help	البتہ تم دونوں مدد کرتے ہو	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However you all will help	البتہ تم سب مدد کرتے ہو	La-Tansuroona	لَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will help	البتہ تو مدد کرتی ہے	La-Tansureena	لَتَنْصُرِينَ
However you both will help	البتہ تم دونوں مدد کرتی ہو	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However you all will help	البتہ تم سب مدد کرتی ہو	La-Tansurna	لَتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will help	البتہ میں مدد کرتا ہوں	La-Ansuru	لَاَنْصُرُ
However we will help	البتہ ہم سب مدد کرتے ہیں	La-Nansuru	لَنْصُرُ

تصریف فعل مضارع ”مجہول بلام مفتوح“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he is being helped	البتہ وہ مدد کیا جاتا ہے	La-Yunsaro	لَيُنصَرُ
However they both are being helped	البتہ وہ دونوں مدد کیے جاتے ہیں	La-Yunsaraani	لَيُنصَرَانِ
However they all are being helped	البتہ وہ سب مدد کیے جاتے ہیں	La-Yunsaroonā	لَيُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she is being helped	البتہ وہ مدد کی جاتی ہے	La-Tunsaru	لَتُنصَرُ
However they both are being helped	البتہ وہ دونوں مدد کی جاتی ہیں	La-Tunsaraani	لَتُنصَرَانِ
However they all are being helped	البتہ وہ سب مدد کی جاتی ہیں	La-Yunsarna	لَيُنصَرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you are being helped	البتہ تو مدد کیا جاتا ہے	La-Tunsaru	لَتُنصَرُ
However you both are being helped	البتہ تم دونوں مدد کیے جاتے ہو	La-Tunsaraani	لَتُنصَرَانِ
However you all are being helped	البتہ تم سب مدد کیے جاتے ہو	La-Tunsaroonā	لَتُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you are being helped	البتہ تو مدد کی جاتی ہے	La-Tunsareena	لَتُنصَرِينَ
However you both are being helped	البتہ تم دونوں مدد کی جاتی ہو	La-Tunsaraani	لَتُنصَرَانِ
However you all are being helped	البتہ تم سب مدد کی جاتی ہو	La-Tunsarna	لَتُنصَرُونَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I am being helped	البتہ میں مدد کیا جاتا ہوں	La-Unsaru	لَأُنصَرُ
However we are being helped	البتہ ہم سب مدد کیے جاتے ہیں	La-Nunsaru	لَنُنصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف ب سين"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help soon	وہ عنقریب مدد کرے گا	Sa-Yansuru	سَيَنْصُرُ
They both will help soon	وہ دونوں عنقریب مدد کریں گے	Sa-Yansuraani	سَيَنْصُرَانِ
They all will help soon	وہ سب عنقریب مدد کریں گے	Sa-Yansuroona	سَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help soon	وہ عنقریب مدد کرے گی	Sa-Tansuru	سَتَنْصُرُ
They both will help soon	وہ دونوں عنقریب مدد کریں گی	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
They all will help soon	وہ سب عنقریب مدد کریں گی	Sa-Yansurna	سَيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help soon	تو عنقریب مدد کرے گا	Sa-Tansuru	سَتَنْصُرُ
You both will help soon	تم دونوں عنقریب مدد کرو گے	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
You all will help soon	تم سب عنقریب مدد کرو گے	Sa-Tansuroona	سَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help soon	تو عنقریب مدد کرے گی	Sa-Tansureena	سَتَنْصُرِينَ
You both will help soon	تم دونوں عنقریب مدد کرو گی	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
You all will help soon	تم سب عنقریب مدد کرو گی	Sa-Tansurna	سَتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I will help soon	میں عنقریب مدد کروں گا	Sa-Ansuru	سَأَنْصُرُ
We will help soon	ہم سب عنقریب مدد کریں گے	Sa-Nansuru	سَنْصُرُ

تصريف فعل مضارع "مجهول ب سين"

3rd Person Male		غائب مذکر	
Soon he will be helped	وہ عنقریب مدد کیا جائے گا	Sa-Yunsaru	سَيُنصَّرُ
Soon they both will be helped	وہ دونوں عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Yunsaraani	سَيُنصَّرَانِ
Soon they all will be helped	وہ سب عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Yunsaroonā	سَيُنصَّرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Soon she will be helped	وہ عنقریب مدد کی جائے گی	Sa-Tunsaru	سَتُنصَّرُ
Soon they both will be helped	وہ دونوں عنقریب مدد کی جائیں گی	Sa-Tunsaraani	سَتُنصَّرَانِ
Soon they all will be helped	وہ سب عنقریب مدد کی جائیں گی	Sa-Yunsarna	سَيُنصَّرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Soon you will be helped	تو عنقریب مدد کیا جائے گا	Sa-Tunsaru	سَتُنصَّرُ
Soon you both will be helped	تم دونوں عنقریب مدد کیے جاؤ گے	Sa-Tunsaraani	سَتُنصَّرَانِ
Soon you all will be helped	تم سب عنقریب مدد کیے جاؤ گے	Sa-Tunsaroonā	سَتُنصَّرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Soon you will be helped	تو عنقریب مدد کی جائے گی	Sa-Tunsareena	سَتُنصَّرِينَ
Soon you both will be helped	تم دونوں عنقریب مدد کی جاؤ گی	Sa-Tunsaraani	سَتُنصَّرَانِ
Soon you all will be helped	تم سب عنقریب مدد کی جاؤ گی	Sa-Tunsarna	سَتُنصَّرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Soon I will be helped	میں عنقریب مدد کیا جاؤں گا	Sa-Unsaru	سَأُنصَّرُ
Soon we will be helped	ہم عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Nunsaru	سَنُنصَّرُ

تصریف فعل مضارع ”معروف ب سوف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کرے گا	Saufa-Yansuru	سَوْفَ يَنْصُرُ
They both will help after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Yansuraani	سَوْفَ يَنْصُرَانِ
They all will help after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Yansuroona	سَوْفَ يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کرے گی	Saufa-Tansuru	سَوْفَ تَنْصُرُ
They both will help after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کریں گی	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
They all will help after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کریں گی	Saufa-Yansurna	سَوْفَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کرے گا	Saufa-Tansuru	سَوْفَ تَنْصُرُ
You both will help after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کرو گے	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
You all will help after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کرو گے	Saufa-Tansuroona	سَوْفَ تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کرے گی	Saufa-Tansureena	سَوْفَ تَنْصُرِينَ
You both will help after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کرو گی	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
You all will help after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کرو گی	Saufa-Tansurna	سَوْفَ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help after some time	میں تھوڑی دیر بعد مدد کروں گا	Saufa-Ansuru	سَوْفَ أَنْصُرُ
We will help after some time	ہم تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Nansuru	سَوْفَ نَنْصُرُ

تصریف فعل مضارع ”مجهول ب سوف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will be helped after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کیا جائے گا	Saufa-Yunsaru	سَوْفَ يُنصَّرُ
They both will be helped after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsaraani	سَوْفَ يُنصَّرَانِ
They all will be helped after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsaroonā	سَوْفَ يُنصَّرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will be helped after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کی جائے گی	Saufa-Tunsaru	سَوْفَ تُنصَّرُ
They both will be helped after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَّرَانِ
They all will be helped after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsarna	سَوْفَ يُنصَّرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will be helped after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کیا جائے گا	Saufa-Tunsaru	سَوْفَ تُنصَّرُ
You both will be helped after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جاؤ گے	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَّرَانِ
You all will be helped after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جاؤ گے	Saufa-Tunsaroonā	سَوْفَ تُنصَّرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will be helped after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کی جائے گی	Saufa-Tunsareena	سَوْفَ تُنصَّرِينَ
You both will be helped after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کی جاؤ گی	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَّرَانِ
You all will be helped after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کی جاؤ گی	Saufa-Tunsarna	سَوْفَ تُنصَّرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will be helped after some time	میں تھوڑی دیر بعد مدد کیا جاؤں گا	Saufa-Unsaru	سَوْفَ أُنصَّرُ
We will be helped after some time	ہم تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Nunsaru	سَوْفَ نُنصَّرُ

ناصبہ

Naasibah

أن / لن / كي / إذن

تصریف فعل مضارع ”معروف منصوب ب آن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
That he will help	کہ وہ مدد کرے	An Yansura	أَنْ يَنْصُرَ
That they both will help	کہ وہ دونوں مدد کریں	An Yansuraa	أَنْ يَنْصُرَا
That they all will help	کہ وہ سب مدد کریں	An Yansuroo	أَنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
That she will help	کہ وہ مدد کرے	An Tansura	أَنْ تَنْصُرَ
That they both will help	کہ وہ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That they all will help	کہ وہ سب مدد کریں	An Yansurna	أَنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
That you will help	کہ آپ مدد کریں	An Tansura	أَنْ تَنْصُرَ
That you both will help	کہ آپ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That you all will help	کہ آپ سب مدد کریں	An Tansuroo	أَنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
That you will help	کہ آپ مدد کریں	An Tansuree	أَنْ تَنْصُرِي
That you both will help	کہ آپ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That you all will help	کہ آپ سب مدد کریں	An Tansurna	أَنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
That i will help	کہ میں مدد کروں	An Ansura	أَنْ أَنْصُرَ
That we will help	کہ ہم مدد کریں	An Nansura	أَنْ نَنْصُرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجہول منصوب ب ان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
That he will be helped	کہ وہ مدد کیا جائے	An Yunsara	أَنْ يُنصَرَ
That they both will be helped	کہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	An Yunsaraa	أَنْ يُنصَرَآ
That they all will be helped	کہ وہ سب مدد کیے جائیں	An Yunsaroo	أَنْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
That she will be helped	کہ وہ عورت مدد کی جائے	An Tunsara	أَنْ تُنصَرَ
That they both will be helped	کہ وہ دو عورتیں مدد کی جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That they all will be helped	کہ وہ سب عورتیں مدد کی جائیں	An Yunsarna	أَنْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
That you will be helped	کہ آپ مدد کیے جائیں	An Tunsara	أَنْ تُنصَرَ
That you both will be helped	کہ آپ دونوں مدد کیے جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That you all will be helped	کہ آپ سب مدد کیے جائیں	An Tunsaroo	أَنْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
That you will be helped	کہ آپ مدد کی جائیں	An Tunsaree	أَنْ تُنصَرِي
That you both will be helped	کہ آپ دونوں مدد کی جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That you all will be helped	کہ آپ سب مدد کی جائیں	An Tunsarna	أَنْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
That i will be helped	کہ میں مدد کیا جاؤں	An Unsara	أَنْ أُنصَرَ
That we will be helped	کہ ہم مدد کیے جائیں	An Nunsara	أَنْ نُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف منصوب ب لن"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will never help	وہ ہر گز مدد نہیں کرے گا	Lan Yansura	لَنْ يَنْصُرَ
They both will never help	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کریں گے	Lan Yansuraa	لَنْ يَنْصُرَا
They all will never help	وہ سب ہر گز مدد نہیں کریں گے	Lan Yansuroo	لَنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will never help	وہ ہر گز مدد نہیں کرے گی	Lan Tansura	لَنْ تَنْصُرَ
They both will never help	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کریں گی	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
They all will never help	وہ سب ہر گز مدد نہیں کریں گی	Lan Yansurna	لَنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will never help	تو ہر گز مدد نہیں کرے گا	Lan Tansura	لَنْ تَنْصُرَ
You both will never help	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کرو گے	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
You all will never help	تم سب ہر گز مدد نہیں کرو گے	Lan Tansuroo	لَنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will never help	تو ہر گز مدد نہیں کرے گی	Lan Tansuree	لَنْ تَنْصُرِي
You both will never help	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کرو گی	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
You all will never help	تم سب ہر گز مدد نہیں کرو گی	Lan Tansurna	لَنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I will never help	میں ہر گز مدد نہیں کروں گا	Lan Ansura	لَنْ اَنْصُرَ
We will never help	ہم ہر گز مدد نہیں کریں گے	Lan Nansura	لَنْ نَنْصُرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب لن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will never be helped	وہ ہر گز مدد نہیں کیا جائے گا	Lan Yunsara	لَنْ يُنصَرَ
They both will never be helped	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Yunsaraa	لَنْ يُنصَرَآ
They all will never be helped	وہ سب ہر گز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Yunsaroo	لَنْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will never be helped	وہ ہر گز مدد نہیں کی جائے گی	Lan Tunsara	لَنْ تُنصَرَ
They both will never be helped	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کی جائیں گی	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
They all will never be helped	وہ سب ہر گز مدد نہیں کی جائیں گی	Lan Yunsarna	لَنْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will never be helped	تو ہر گز مدد نہیں کیا جائے گا	Lan Tunsara	لَنْ تُنصَرَ
You both will never be helped	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کیے جاؤ گے	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
You all will never be helped	تم سب ہر گز مدد نہیں کیے جاؤ گے	Lan Tunsaroo	لَنْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will never be helped	تو ہر گز مدد نہیں کی جائے گی	Lan Tunsaree	لَنْ تُنصَرِي
You both will never be helped	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کی جاؤ گی	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
You all will never be helped	تم سب ہر گز مدد نہیں کی جاؤ گی	Lan Tunsarna	لَنْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I will never be helped	میں ہر گز مدد نہیں کیا جاؤں گا	Lan Unsara	لَنْ اُنصَرَ
We will never be helped	ہم ہر گز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Nunsara	لَنْ نُنصَرَ

تصريف فعل مضارع "معروف منصوب ب کی"

3rd Person Male		غائب مذکر	
So that he will help	تاکہ وہ مدد کرے	Kai Yansura	کَيَّيَنْصُرْ
So that they both will help	تاکہ وہ دونوں مدد کریں	Kai Yansuraa	کَيَّيَنْصُرَا
So that they all will help	تاکہ وہ سب مدد کریں	Kai Yansuroo	کَيَّيَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
So that she will help	تاکہ وہ مدد کرے	Kai Tansura	کَيَّتَنْصُرْ
So that they both will help	تاکہ وہ دونوں مدد کریں	Kai Tansuraa	کَيَّتَنْصُرَا
So that they all will help	تاکہ وہ سب مدد کریں	Kai Yansurna	کَيَّيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
So that you will help	تاکہ تو مدد کرے	Kai Tansura	کَيَّتَنْصُرْ
So that you both will help	تاکہ تم دونوں مدد کرو	Kai Tansuraa	کَيَّتَنْصُرَا
So that you all will help	تاکہ تم سب مدد کرو	Kai Tansuroo	کَيَّتَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
So that you will help	تاکہ تو مدد کرے	Kai Tansuree	کَيَّتَنْصُرِي
So that you both will help	تاکہ تم دونوں مدد کرو	Kai Tansuraa	کَيَّتَنْصُرَا
So that you all will help	تاکہ تم سب مدد کرو	Kai Tansurna	کَيَّتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
So that I will help	تاکہ میں مدد کروں	Kai Ansura	کَيَّأَنْصُرْ
So that we will help	تاکہ ہم مدد کریں	Kai Nansura	کَيَّنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجھول منصوب ب کی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
So that he will be helped	تاکہ وہ مدد کیا جائے	Kai Yunsara	کَیْ یُنْصَرِّ
So that they both will be helped	تاکہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	Kai Yunsaraa	کَیْ یُنْصَرِّا
So that they all will be helped	تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں	Kai Yunsaroo	کَیْ یُنْصَرِّوَا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
So that she will be helped	تاکہ وہ مدد کی جائے	Kai Tunsara	کَیْ تُنْصَرِّ
So that they both will be helped	تاکہ وہ دونوں مدد کی جائیں	Kai Tunsaraa	کَیْ تُنْصَرِّا
So that they all will be helped	تاکہ وہ سب مدد کی جائیں	Kai Yunsarna	کَیْ یُنْصَرِّوَن
2nd Person Male		حاضر مذکر	
So that you will be helped	تاکہ تو مدد کیا جائے	Kai Tunsara	کَیْ تُنْصَرِّ
So that you both will be helped	تاکہ تم دونوں مدد کیے جاؤ	Kai Tunsaraa	کَیْ تُنْصَرِّا
So that you all will be helped	تاکہ تم سب مدد کیے جاؤ	Kai Tunsaroo	کَیْ تُنْصَرِّوَا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
So that you will be helped	تاکہ تو مدد کی جائے	Kai Tunsaree	کَیْ تُنْصَرِّی
So that you both will be helped	تاکہ تم دونوں مدد کی جاؤ	Kai Tunsaraa	کَیْ تُنْصَرِّا
So that you all will be helped	تاکہ تم سب مدد کی جاؤ	Kai Tunsarna	کَیْ تُنْصَرِّوَن
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
So that I will be helped	تاکہ میں مدد کیا جاؤں	Kai Unsara	کَیْ اُنْصَرِّ
So that we will be helped	تاکہ ہم مدد کیے جائیں	Kai Nunsara	کَیْ نُنْصَرِّ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف منصوب ب اذن"

3rd Person Male		غائب مذکر	
Then he will help	تب تو وہ مدد کرے گا	Izan Yansura	إِذْنَ يَنْصُرُ
Then they both will help	تب تو وہ دونوں مدد کریں گے	Izan Yansuraa	إِذْنَ يَنْصُرَا
Then they all will help	تب تو وہ سب مدد کریں گے	Izan Yansuroo	إِذْنَ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Then she will help	تب تو وہ مدد کرے گی	Izan Tansura	إِذْنَ تَنْصُرُ
Then they both will help	تب تو وہ دونوں مدد کریں گی	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then they all will help	تب تو وہ سب مدد کریں گی	Izan Yansurna	إِذْنَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Then you will help	تب تو تو مدد کرے گا	Izan Tansura	إِذْنَ تَنْصُرُ
Then you both will help	تب تو تم دونوں مدد کرو گے	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then you all will help	تب تو تم سب مدد کرو گے	Izan Tansuroo	إِذْنَ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Then you will help	تب تو تو مدد کرے گی	Izan Tansuree	إِذْنَ تَنْصُرِي
Then you both will help	تب تو تم دونوں مدد کرو گی	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then you all will help	تب تو تم سب مدد کرو گی	Izan Tansurna	إِذْنَ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
Then I will help	تب تو میں مدد کروں گا	Izan Ansura	إِذْنَ أَنْصُرُ
Then we will help	تب تو ہم مدد کریں گے	Izan Nansura	إِذْنَ نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب اذن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Then he will be helped	تب تو وہ مدد کیا جائے گا	Izan Yunsara	إِذْنَ يُنْصَرِّ
Then they both will be helped	تب تو وہ دونوں مدد کیے جائیں گے	Izan Yunsaraa	إِذْنَ يُنْصَرِّا
Then they all will be helped	تب تو وہ سب مدد کیے جائیں گے	Izan Yunsaroo	إِذْنَ يُنْصَرِّوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Then she will be helped	تب تو وہ مدد کی جائے گی	Izan Tunsara	إِذْنَ تُنْصَرِّ
Then they both will be helped	تب تو وہ دونوں مدد کی جائیں گی	Izan Tunsaraa	إِذْنَ تُنْصَرِّا
Then they all will be helped	تب تو وہ سب مدد کی جائیں گی	Izan Yunsarna	إِذْنَ يُنْصَرِّنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Then you will be helped	تب تو مدد کیا جائے گا	Izan Tunsara	إِذْنَ تُنْصَرِّ
Then you both will be helped	تب تو تم دونوں مدد کیے جاؤ گے	Izan Tunsaraa	إِذْنَ تُنْصَرِّا
Then you all will be helped	تب تو تم سب مدد کیے جاؤ گے	Izan Tunsaroo	إِذْنَ تُنْصَرِّوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Then you will be helped	تب تو مدد کی جائے گی	Izan Tunsaree	إِذْنَ تُنْصَرِّى
Then you both will be helped	تب تو تم دونوں مدد کی جاؤ گی	Izan Tunsaraa	إِذْنَ تُنْصَرِّا
Then you all will be helped	تب تو تم سب مدد کی جاؤ گی	Izan Tunsarna	إِذْنَ تُنْصَرِّنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
Then I will be helped	تب تو میں مدد کیا جاؤں گا	Izan Unsara	إِذْنَ أُنْصَرِّ
Then we will be helped	تب تو ہم مدد کیے جائیں گے	Izan Nunsara	إِذْنَ نُنْصَرِّ

جازمة

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Jaazimah

إِنْ / لَمْ / لَمَّا / لام الأمر / لا الناهية

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل "مضارع معروف مجزوم ب ان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
If he will help	اگر وہ مدد کرے گا	In Yansur	إِنْ يَنْصُرْ
If they both will help	اگر وہ دونوں مدد کریں گے	In Yansuraa	إِنْ يَنْصُرَا
If they all will help	اگر وہ سب مدد کریں گے	In Yansuroo	إِنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
If she will helps	اگر وہ مدد کرے گی	In Tansur	إِنْ تَنْصُرْ
If they both will help	اگر وہ دونوں مدد کریں گی	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If they all will help	اگر وہ سب مدد کریں گی	In Yansurna	إِنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
If you will help	اگر تو مدد کرے گا	In Tansur	إِنْ تَنْصُرْ
If you both will help	اگر تم دونوں مدد کرو گے	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If you all will help	اگر تم سب مدد کرو گے	In Tansuroo	إِنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
If you will help	اگر تو مدد کرے گی	In Tansuree	إِنْ تَنْصُرِي
If you both will help	اگر تم دونوں مدد کرو گی	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If you all will help	اگر تم سب مدد کرو گی	In Tansurna	إِنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
If I will help	اگر میں مدد کروں گا	In Ansur	إِنْ أَنْصُرْ
If we will help	اگر ہم مدد کریں گے	In Nansur	إِنْ نَنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب ان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
If he will be helped	اگر وہ مدد کیا جائے گا	In Yunsar	إِنْ يُنْصَرُ
If they both will be helped	اگر وہ دونوں مدد کیے جائیں گے	In Yunsaraa	إِنْ يُنْصَرَا
If they all will be helped	اگر وہ سب مدد کیے جائیں گے	In Yunsaroo	إِنْ يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
If she will be helped	اگر وہ مدد کی جائے گی	In Tunsar	إِنْ تُنْصَرُ
If they both will be helped	اگر وہ دونوں مدد کی جائیں گی	In Tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If they all will be helped	اگر وہ سب مدد کی جائیں گی	In Yunsarna	إِنْ يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
If you will be helped	اگر تو مدد کیا جائے گا	In Tunsar	إِنْ تُنْصَرُ
If you both will be helped	اگر تم دونوں مدد کیے جاؤ گے	In tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If you all will be helped	اگر تم سب مدد کیے جاؤ گے	In Tunsaroo	إِنْ تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
If you will be helped	اگر تو مدد کی جائے گی	In Tunsaree	إِنْ تُنْصَرِي
If you both will be helped	اگر تم دونوں مدد کی جاؤ گی	In Tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If you all will be helped	اگر تم سب مدد کی جاؤ گی	In Tunsarna	إِنْ تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
If I will be helped	اگر میں مدد کیا جاؤں گا	In Unsar	إِنْ أُنْصَرُ
If we will be helped	اگر ہم مدد کیے جائیں گے	In Nunsar	إِنْ نُنْصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لم"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't help	اس نے مدد نہیں کی	Lam Yansur	لَمْ يَنْصُرْ
They both didn't help	ان دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Yansuraa	لَمْ يَنْصُرَا
They all didn't help	ان سب نے مدد نہیں کی	Lam Yansuroo	لَمْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't help	اس نے مدد نہیں کی	Lam Tansur	لَمْ تَنْصُرْ
They both didn't help	ان دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
They all didn't help	ان سب نے مدد نہیں کی	Lam Yansurna	لَمْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't help	تو نے مدد نہیں کی	Lam Tansur	لَمْ تَنْصُرْ
You both didn't help	تم دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
You all didn't help	تم سب نے مدد نہیں کی	Lam Tansuroo	لَمْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't help	تو نے مدد نہیں کی	Lam Tansuree	لَمْ تَنْصُرِي
You both didn't help	تم دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
You all didn't help	تم سب نے مدد نہیں کی	Lam Tansurna	لَمْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I didn't help	میں نے مدد نہیں کی	Lam Ansur	لَمْ أَنْصُرْ
We didn't help	ہم نے مدد نہیں کی	Lam Nansur	لَمْ نَنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لم“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He wasn't helped	وہ مدد نہیں کیا گیا	Lam Yunsar	لَمْ يُنصَرَ
They both weren't helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے	Lam Yunsaraa	لَمْ يُنصَرَا
They all weren't helped	وہ سب مدد نہیں کیے گئے	Lam Yunsaroo	لَمْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She wasn't helped	وہ مدد نہیں کی گئی	Lam Tunsar	لَمْ تُنصَرَ
They both weren't helped	وہ دونوں مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
They all weren't helped	وہ سب مدد نہیں کی گئیں	Lam Yunsarna	لَمْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You wasn't helped	تو مدد نہیں کیا گیا	Lam Tunsar	لَمْ تُنصَرَ
You both weren't helped	تم دونوں مدد نہیں کیے گئے	Lam tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
You all weren't helped	تم سب مدد نہیں کیے گئے	Lam Tunsaroo	لَمْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You wasn't helped	تو مدد نہیں کی گئی	Lam Tunsaree	لَمْ تُنصَرِي
You both weren't helped	تم دونوں مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
You all weren't helped	تم سب مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsarna	لَمْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I wasn't helped	میں مدد نہیں کیا گیا	Lam Unsar	لَمْ أُنصَرَ
We weren't helped	ہم مدد نہیں کیے گئے	Lam Nunsar	لَمْ نُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تشریف فعل مضارع ”معروف مجزوم ب لملأ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't help yet	اس نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansur	لَمَّا يَنْصُرْ
They both didn't help yet	ان دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansuraa	لَمَّا يَنْصُرَا
They all didn't help yet	ان سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansuroo	لَمَّا يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't help yet	اس نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansur	لَمَّا تَنْصُرْ
They both didn't help yet	ان دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
They all didn't help yet	ان سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansurna	لَمَّا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't help yet	تو نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansur	لَمَّا تَنْصُرْ
You both didn't help yet	تم دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
You all didn't help yet	تم سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuroo	لَمَّا تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't help yet	تو نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuree	لَمَّا تَنْصُرِي
You both didn't help yet	تم دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
You all didn't help yet	تم سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansurna	لَمَّا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I didn't help yet	میں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Ansur	لَمَّا أَنْصُرْ
We didn't help yet	ہم نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Nansur	لَمَّا نَنْصُرْ

تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لمّا“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He wasn't helped yet	وہ ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Yunsar	لَمَّا يُنْصَرُ
They both weren't helped yet	وہ دونوں ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Yunsaraa	لَمَّا يُنْصَرَا
They all weren't helped yet	وہ سب ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Yunsaroo	لَمَّا يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She wasn't helped yet	وہ ابھی تک مدد نہیں کی گئی	Lammaa Tunsar	لَمَّا تُنْصَرُ
They both weren't helped yet	وہ دونوں ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
They all weren't helped yet	وہ سب ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Yunsarna	لَمَّا يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You wasn't helped yet	تو ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Tunsar	لَمَّا تُنْصَرُ
You both weren't helped yet	تم دونوں ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
You all weren't helped yet	تم سب ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Tunsaroo	لَمَّا تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You wasn't helped yet	تو ابھی تک مدد نہیں کی گئی	Lammaa Tunsaree	لَمَّا تُنْصَرِي
You both weren't helped yet	تم دونوں ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
You all weren't helped yet	تم سب ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsarna	لَمَّا تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I wasn't helped yet	میں ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Unsar	لَمَّا أَنْصَرُ
We weren't helped yet	ہم ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Nunsar	لَمَّا أَنْصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لام امر"

3rd Person Male

غائب مذکر

He must/should help	چاہیے کہ وہ مدد کرے	Li- Yansur	لَيَنْصُرْ
They must/should help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کریں	Li- Yansuraa	لَيَنْصُرَا
They must/should help	چاہیے کہ وہ سب مدد کریں	Li- Yansuroo	لَيَنْصُرُوا

3rd Person Female

غائب مؤنث

She must/should help	چاہیے کہ وہ مدد کرے	Li- Tansur	لَتَنْصُرْ
They must/should help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کریں	Li- Tansuraa	لَتَنْصُرَا
They must/should help	چاہیے کہ وہ سب مدد کریں	Li- Yansurna	لَيَنْصُرْنَ

1st Person Male / Female

متکلم مذکر و مؤنث

I must help	چاہیے کہ میں مدد کروں	Li- Ansur	لَاَنْصُرْ
We must help	چاہیے کہ ہم سب مدد کریں	Li- Nansur	لِنَنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لام امر“

3rd Person Male

غائب مذکر

He must/should be helped	چاہیے کہ وہ مدد کیا جائے	Li- Yunsar	لِيُنصَرَ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	Li- Yunsaraa	لِيُنصَرَا
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد کیے جائیں	Li- Yunsaroo	لِيُنصَرُوا

3rd Person Female

غائب مؤنث

She must/should be helped	چاہیے کہ وہ مدد کی جائے	Li- Tunsar	لِيُنصَرَ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کی جائیں	Li- Tunsaraa	لِيُنصَرَا
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد کی جائیں	Li- Yunsarna	لِيُنصَرْنَ

1st Person Male / Female

متكلم مذکر و مؤنث

I must help be helped	چاہیے کہ میں مدد کیا جاؤں	Li- Unsar	لَاُنصَرَ
We must help be helped	چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں	Li- Nunsar	لَاُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تشریف فعل مضارع ”معروف مجزوم ب لام نھی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He shouldn't help	چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے	Laa Yansur	لَا يَنْصُرُ
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کریں	Laa Yansuraa	لَا يَنْصُرُوا
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کریں	Laa Yansuroo	لَا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She shouldn't help	چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے	Laa Tansur	لَا تَنْصُرُ
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کریں	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرُوا
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کریں	Laa Yansurna	لَا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You shouldn't help	تو مدد نہ کر	Laa Tansur	لَا تَنْصُرُ
You shouldn't help	تم دونوں مدد مت کرو	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرُوا
You shouldn't help	تم سب مدد مت کرو	Laa Tansuroo	لَا تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You shouldn't help	تو مدد نہ کر	Laa Tansuree	لَا تَنْصُرِي
You shouldn't help	تم دونوں مدد مت کرو	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرُوا
You shouldn't help	تم سب مدد مت کرو	Laa Tansurna	لَا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I shouldn't help	چاہیے کہ میں مدد نہ کروں	Laa Ansur	لَا أَنْصُرُ
We shouldn't help	چاہیے کہ ہم مدد نہ کریں	Laa Nansur	لَا نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لام نھی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ مدد نہ کیا جائے	Laa Yunsar	لَا يُنصَرُ
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کیے جائیں	Laa Yunsaraa	لَا يُنصَرَا
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کیے جائیں	Laa Yunsaroo	لَا يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ مدد نہ کی جائے	Laa Tunsar	لَا تُنصَرُ
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کی جائیں	Laa Tunsaraa	لَا تُنصَرَا
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کی جائیں	Laa Yunsarna	لَا يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تو مدد نہ کیا جائے	Laa Tunsar	لَا تُنصَرُ
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم دونوں مدد نہ کیے جاؤ	Laa tunsaraa	لَا تُنصَرَا
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم سب مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsaroo	لَا تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تو مدد نہ کی جائے	Laa Tunsaree	لَا تُنصَرِي
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم دونوں مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsaraa	لَا تُنصَرَا
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم سب مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsarna	لَا تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I shouldn't be helped	چاہیے کہ میں مدد نہ کیا جاؤں	Laa Unsar	لَا أُنصَرُ
We shouldn't be helped	چاہیے کہ ہم مدد نہ کیے جائیں	Laa Nunsar	لَا نُنصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”معروف ب نون ثقيله“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will surely help	البتہ وہ ضرور مدد کرے گا	La-Yansuranna	لَيَنْصُرَنَّ
However they both will surely help	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کریں گے	La-Yansuraanni	لَيَنْصُرَانِ
However they all will surely help	البتہ وہ سب ضرور مدد کریں گے	La-Yansurunna	لَيَنْصُرُنَّ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will surely help	البتہ وہ ضرور مدد کرے گی	La-Tansuranna	لَتَنْصُرَنَّ
However they both will surely help	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کریں گی	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However they all will surely help	البتہ وہ سب ضرور مدد کریں گی	La-Yansurnaanni	لَيَنْصُرَنَّ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will surely help	البتہ تو ضرور مدد کرے گا	La-Tansuranna	لَتَنْصُرَنَّ
However you both will surely help	البتہ تم دونوں ضرور مدد کرو گے	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However you all will surely help	البتہ تم سب ضرور مدد کرو گے	La-Tansurunna	لَتَنْصُرُنَّ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will surely help	البتہ تو ضرور مدد کرے گی	La-Tansurinna	لَتَنْصُرَنَّ
However you both will surely help	البتہ تم دونوں ضرور مدد کرو گی	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However you all will surely help	البتہ تم سب ضرور مدد کرو گی	La-Tansurnaanni	لَتَنْصُرَنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will surely help	البتہ میں ضرور مدد کروں گا	La-Ansuranna	لَاَنْصُرَنَّ
However we will surely help	البتہ ہم ضرور مدد کریں گے	La-Nansuranna	لَنْصُرَنَّ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب نون ثقیدہ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will be surely helped	البتہ وہ ضرور مدد کیا جائے گا	La-Yunsaranna	لَيُنصَرَنَّ
However they both will be surely helped	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsaraanni	لَيُنصَرَانِ
However they all will be surely helped	البتہ وہ سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsarunna	لَيُنصَرُنَّ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will be surely helped	البتہ وہ ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsaranna	لَتُنصَرَنَّ
However they both will be surely helped	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کی جائیں گی	La-Tunsaraanni	لَتُنصَرَانِ
However they all will be surely helped	البتہ وہ سب ضرور مدد کی جائیں گی	La-Yunsarnaanni	لَيُنصَرَانِ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will be surely helped	البتہ تو ضرور مدد کیا جائے گا	La-Tunsaranna	لَتُنصَرَنَّ
However you both will be surely helped	البتہ تم دونوں ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsaraanni	لَتُنصَرَانِ
However you all will be surely helped	البتہ تم سب ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsarunna	لَتُنصَرُنَّ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will be surely helped	البتہ تو ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsarinna	لَتُنصَرَنَّ
However you both will be surely helped	البتہ تم دونوں ضرور مدد کی جاؤ گی	La-Tunsaraanni	لَتُنصَرَانِ
However you all will be surely helped	البتہ تم سب ضرور مدد کی جاؤ گی	La-tunsarnaanni	لَتُنصَرَانِ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will be surely helped	البتہ میں ضرور مدد کیا جاؤں گا	La-Unsaranna	لَاُنصَرَنَّ
However we will be surely helped	البتہ ہم سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Nunsaranna	لَنُنصَرَنَّ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف ب نون خفيفه"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will surely help	وہ ضرور مدد کرے گا	La-Yansuran	لَيَنْصُرُنْ
They will surely help	وہ سب ضرور مدد کریں گے	La-Yansurun	لَيَنْصُرُنْ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
You will surely help	وہ ضرور مدد کرے گی	La-Tansuran	لَتَنْصُرُنْ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will surely help	تو ضرور مدد کرے گا	La-Tansuran	لَتَنْصُرُنْ
You will surely help	تم سب ضرور مدد کرو گے	La-Tansurun	لَتَنْصُرُنْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will surely help	تو ضرور مدد کرے گی	La-Tansurin	لَتَنْصُرُنْ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will surely help	میں ضرور مدد کروں گا	La-Ansuran	لَاَنْصُرُنْ
We will surely help	ہم ضرور مدد کریں گے	La-Nansuran	لَنْصُرُنْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب نون خفيفه“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will be surely helped	وہ ضرور مدد کیا جائے گا	La-Yunsaran	لَيُنصَرْنَ
They will be surely helped	وہ سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsarun	لَيُنصَرُنْ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
You will be surely helped	وہ ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsaran	لَتُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will be surely helped	تو ضرور مدد کیا جائے گا	La-Tunsaran	لَتُنصَرْنَ
You will be surely helped	تم سب ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsarun	لَتُنصَرُنْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will be surely helped	تو ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsarin	لَتُنصَرِنْ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will be surely helped	میں ضرور مدد کیا جاؤں گا	La-Unsaran	لَأُنصَرْنَ
We will be surely helped	ہم ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Nunsaran	لَنُنصَرْنَ

Arshad Basheer Madani Notes

1. يَفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

2. يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

3. لَا يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

4. لَا يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

5. گانَ يُفَعِّلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

6. گانَ يُفَعِّلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

7. لَيْفَعْلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

8. لَيْفَعْلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

9. سَيَّفَعُلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

10. سَيَّفَعُلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

11. سَوْفَ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

															فَتَحَ
															دَخَلَ
															جَلَسَ
															أَكَلَ
															غَسَلَ
															ذَهَبَ
															ضَرَبَ
															نَصَرَ
															شَرِبَ
															لَبَسَ

12. سَوْفَ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

															فَتَحَ
															دَخَلَ
															جَلَسَ
															أَكَلَ
															غَسَلَ
															ذَهَبَ
															ضَرَبَ
															نَصَرَ
															شَرِبَ
															لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

13. اَنْ يُفْعَلَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

14. اَنْ يُفْعَلَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

17. کئی یُفْعَل کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

18. کئی یُفْعَل کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

19. اِذْنُ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

20. اِذْنُ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

21. اِن يُفْعَلَنَّ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

22. اِن يُفْعَلَنَّ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

23. لَمْ يُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

24. لَمْ يُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

25. لَمَّا يُفْعَلْنَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

26. لَمَّا يُفْعَلْنَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

27. لِيُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

28. لِيُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

29. لَا يُفَعَّلَنَّ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

30. لَا يُفَعَّلَنَّ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

31. لِيُفْعَلَنَّ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

32. لِيُفْعَلَنَّ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

33. لِيُفْعَلَنَّ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

34. لِيُفْعَلَنَّ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

الدرس العاشر

سبق

LESSON-10

III - Fel ki qisme - III - Types of verb

امر

Amr - Imperitive Verb

Command	Amr	امر
<p>تعریف: امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔</p> <p>Tareef: Amr wo fel hai jis ke zariye kisi kaam ke karne ka hukum diya jaaye.</p> <p>Definition: Imperitive word is a word which is used to indicate command/order.</p>		<p>إفعلَ</p> <p>If-al</p> <p>kar</p> <p>do it</p>

امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ

Amr e Hazir Maroof banane ka qaida

Rules for making direct 2nd person command

مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں (آ، ت، ی، ن) میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے:

Muzaar'e maazi se banta hai. Uske banana ka tariqa ye hai ke maazi ke shuru mai (ا، ن، ی، ت) mai se ek huruf iss tarah lagay jata hai:

Verb (Muzaare) is made from its past (Maazi) by adding one of the four letters before it (ا، ن، ی، ت)

تین حرفی ماضی کے مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر دیں اور شروع میں ہمزہ وصل لگادیں۔

Teen harfi maazi ke muzaare se alaamat muzaare ko hazaf kar de aur shuroo me Hamza wasl laga de.

In a three letter past tense, when it becomes present tense then to make an imperative verb we remove the sign of present tense and we add hamzatul wasl

اگر مضارع کا "عین کلمہ" مضموم ہے تو ہمزہ وصل بھی مضموم ہوگا اور اگر "عین کلمہ" مکسور یا مفتوح ہے تو ہمزہ وصل مکسور ہوگا۔

Agar muzarre ka "aen kalmia" mazmoom hai to Hamza vasal bhi mazmoom hoga"

aur agar aen kalima maskoor ya maftoo hai to Hamza va sal maskoor hoga.

If the ayn kalima of the present tense verb has pesh then the hamzatul wasl will also have pesh. Moreover if the Ayn kalima of the present tense is either zabar or zer then hamzatul wasl will get only zer and never zabar.

Arshad Basheer Madani Notes

آخری حرف (لام کلمہ) کو جزم ملے گا۔

مثلاً:- نَتَصَرُّ نَصْرُ (مدد کر) مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے اس لئے ہمزة وصل مضموم آیا ہے۔

تَذْهَبُ تَذْهَبُ (جا) مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے اس لئے ہمزة وصل مکسور آیا ہے۔

تَجَلِّسُ تَجَلِّسُ (بیٹھ) مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے اس لئے ہمزة وصل مکسور آیا ہے۔

3. Aakhri harf (laam kalmia) ko jazam milega.

Masalan: (نَصْرُ - نَصْرُ) muzarre ka ain kalmia mazmoom hai isliye Hamza va sal mazmoom aaya hai.

(تَذْهَبُ - اذْهَبُ) muzarre ka ain kalmia maftooh hai is liye Hamza va sal maskoor aaya hai.

(تَجَلِّسُ - اِجْلِسُ) muzarre ka ain kalmia maskoor hai is liye Hamza va sal maksoor hai

Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is paish then hamza will also be paish. Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is zabar then hamza will also be zaire. Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is zaire then hamza will also be zaire.

اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو ہمزة وصل کی ضرورت نہیں۔ جیسے تَعَدِ تَعَدِ (وعدہ کر) ہوگا۔

Agar alamat muzarre ke baad vala huruf saakin na ho to Hamza wasal ki zaroorat nahi. Jaise (تَعَدِ - عَدِ) hoga.

If the letter is not saakin after muzare letters then hamza wasal is not required.

نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے: تَدْعُوْا سے اُدْعُ (بلا)۔

Noon airabi saakhit ho jayega. Noon zameer apni haalat par rahega. Agar aakhir me harf illat ho to vo saakhit ho jayega. Jaise (تَدْعُوْا - اُدْعُ).

Noon will be deleted. Noon zameer will be in original position. If there is haraf e illat letters in the end then illat letters will be deleted.

امر غائب و متکلم بنانے کا قاعدہ

Amr Ghayab va mutakallim banane ka qaida

Rule of making the command tense for 3rd person and 1st person

مضارع معروف کے صیغوں پر "لام امر" (لام مکسور) بڑھادیا جائے۔

مثلاً: يَذْهَبُ سَ لِيَذْهَبَ (اس کو جانا چاہیے / چاہیے کہ وہ جائے) - يَنْصُرُ سَ لِيَنْصُرَ (اس کو مدد کرنا چاہیے / چاہیے کہ وہ مدد کرے)

Muzaare maroof ke seghon par "laam amr" (laam maksoor) bada diya jaye.

Masalan: (يَذْهَبُ - لِيَذْهَبُ) (يَنْصُرُ - لِيَنْصُرُ)

Add Lam on command laam of Zer - Example : (يَذْهَبُ - لِيَذْهَبُ) (يَنْصُرُ - لِيَنْصُرُ)

مضارع پر لام امر آنے سے جو صیغہ واحد کے ہیں ان کو جزم مل جاتا ہے۔

Muzaare par laam amr aane se jo seeghe vahid ke hai unko jazam mil jata hai.

If Laam(command) comes on present, singular tense will come with jazam

نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے: يَدْعُوْنَ لِيَدْعُ

Noon airaabi saakhit ho jayega. Noon zameer apni haalat par rahega. Agar aakhir me harf illat ho to vo saakhit ho jayega.

Noon will decline. Noon of zameer remains and harfe illat will be deleted.

Arshad Basheer Madani Notes

Tasreef Fel Amar Conjugation of Command تصريف فعل امر			
Haazir Muzakkar 2nd Person Male حاضر مذكر			
You do it	Tum karo	تم کرو	اَفْعَلْ
You both do it	Tum dono karo	تم دونوں کرو	اَفْعَلَا
You all do it	Tum sab karo	تم سب کرو	اَفْعَلُوْا
Haazir Muannas 2nd Person female حاضر مؤنث			
You do it	Tum karo	تم کرو	اَفْعَلِيْ
You both do it	Tum dono karo	تم دونوں کرو	اَفْعَلَا
You all do it	Tum sab karo	تم سب کرو	اَفْعَلْنَ

Negative Command	Nahi	نہی
<p>تعريف : نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔</p> <p>Tareef: Nahi wo fel hai jis ke zariye kisi kaam ken a karne ka hokum diya jaye.</p> <p>Definition: A verb through which a command of not doing an action is given.</p>		<p>لا تَفْعَلْ</p> <p>La-Taf-al</p> <p>Mat kar</p> <p>don't do it</p>

بنانے کا طریقہ: مضارع کے شروع میں لائے نہی لگا دینے سے نہی بن جاتا ہے۔

لائے نہی فعل مضارع میں وہی عمل کرتا ہے جو لم کرے، یعنی پانچ صیغوں کو جزم کی علامت سکون دیتا ہے اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے۔ سات صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جبکہ دو صیغوں: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب میں کچھ عمل نہیں کرتا۔

Nahi banaane ka tareeqa: Muzare' ke shuru me laa-e-nahi laga dene se nahi ban jaata hai. laa-e-nahi fel-e-muzare' me wahi amal karta hai jo "Lam" karta hai, yani paanch segho ko jazam ki alamat-e-sukoon deta hai aur agar aakhir me harf-e-illat ho to use gira deta hai. saat segho se noon-e-e'raabi gira deta hai, jabke do segho: jama muannas ghaeb aur jama muannas mukhatab me kuch amal nahi karta.

How to make command of Negation:

The command of Negation is made by prefixing the Laam of Negation to a preset tense verb. The effect of Laam of Negation is similar to the effect of Laam on a present tense verb i.e, it gives sukoon on 5 forms and the weak letter is dropped if it is present at the end of the verb. In 7 forms the Declinable Noon is dropped, but it has no effect on 2 forms i.e, plural of 3rd person feminine and plural of 2nd person feminine.

Tasreef fel Nahi | Conjugation of Negation | تصريف فعل نہی

Haazir Muzakkar | 2nd Person Male | حاضر مذکر

You don't do it	Tum Mat karo	تم مت کرو	لَا تَفْعَلْ
You both don't do it	Tum dono Mat karo	تم دونوں مت کرو	لَا تَفْعَلَا
You all don't do it	Tum sab Mat karo	تم سب مت کرو	لَا تَفْعَلُوا

Haazir Muannas | 2nd Person female | حاضر مؤنث

You don't do it	Tum Mat karo	تم مت کرو	لَا تَفْعَلِيْ
You both don't do it	Tum dono Mat karo	تم دونوں مت کرو	لَا تَفْعَلَا
You all don't do it	Tum sab Mat karo	تم سب مت کرو	لَا تَفْعَلْنَ

الدرس الحادي عشر

سبق

LESSON-11

ابواب ثلاثی مجرد و مزید فیہ

01

Abwaabe Sulaasi mujarrad wa mazeed feeh
Trilateral Verb and Trilateral Derived Verb

ابواب رباعی مجرد

02

Abwaab rubaaee mujarrad - Four Letter Verb

ضَرَبَ يَضْرِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۱
نَصَرَ يَنْصُرُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۲
سَمِعَ يَسْمَعُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۳
فَتَحَ يَفْتَحُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۴
كَرَّمَ يَكْرِمُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۵
حَسَبَ يَحْسِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۶

ان اوزان کو ترازو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے


Arshad Basheer Madani Notes

<p>نَصَرَ يَنْصُرُ ، نَصْرًا وَنُصْرَةً ، فهو ناصِرٌ ، وهي ناصِرةٌ والجمع : نُصَارٌ ، وَنُصُورٌ وهو وهي نَصِيرٌ والجمع : أَنْصَارٌ ، والمفعول مَنْصُور</p>	<p>نَصَرَ: (فعل)</p>
<p>ذَهَبَ / ذَهَبَ إِلَى / ذَهَبَ بِـ / ذَهَبَ عَلَى / ذَهَبَ عَنْ / ذَهَبَ فِي يَذْهَبُ ، ذَهَابًا وَ ذُهُوبًا ، فهو ذاهِبٌ وَ ذَهُوبٌ ، والمفعول مذهُوبٌ إليه ، ذَهَبَ ذَهَابًا ، ذُهُوبًا ، مَذْهَبًا</p>	<p>ذَهَبَ: (فعل)</p>
<p>فَتَحَ / فَتَحَ عَلَى يَفْتَحُ ، فَتَحًا ، فهو فاتِحٌ ، والمفعول مَفْتُوحٌ – للمتعدِّي</p>	<p>فَتَحَ: (فعل)</p>
<p>ضَرَبَ / ضَرَبَ إِلَى / ضَرَبَ بِـ / ضَرَبَ عَلَى / ضَرَبَ عَنْ / ضَرَبَ فِي يَضْرِبُ ، ضَرْبًا وَضَرْبَانًا ، فهو ضاربٌ ، والمفعول مضروبٌ – للمتعدِّي</p>	<p>ضَرَبَ: (فعل)</p>
<p>سَمِعَ / سَمِعَ إِلَى / سَمِعَ لـ يَسْمَعُ ، سَمَاعًا وَسَمْعًا ، فهو سامِعٌ وَسَمِيعٌ والجمع : سَمَاعٌ ، وَسَمْعَةٌ وهو سَمَاعٌ ، وهي سامِعَةٌ ، وَسَمَاعَةٌ ، والمفعول مَسْمُوعٌ</p>	<p>سَمِعَ: (فعل)</p>
<p>حَسِبَ يَحْسِبُ وَيَحْسِبُ ، حِسْبَانًا ، فهو أَحْسَبُ ، وهي حِسْبَاءٌ والجمع : حُسْبٌ ، والمفعول مَحْسُوبٌ</p>	<p>حَسِبَ: (فعل)</p>

نہی Nahi Negative Imperative tense	امر Amr Imperative tense	مضارع مجبور Muzarre majhool Passive present/ future	ماضی مجبور Mazi majhool Passive Past tense	اسم مفعول Ism maf-ool Object noun	اسم فاعل Ism fa'el Subject noun	مصدر Masdar noun	مضارع Muzaare Present & future tense	ماضی Maazi Past tense
لَا تَفْعَلْ	فَعَلْ	يَفْعَلُ	فُعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعِلٌ	تَفْعِيلٌ / تَفْعِيْلَةٌ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
لَا تَفْعَلْ	فَاعِلٌ	يَفْعَالُ	فُوْعِلَ	مَفْعَالٌ	مَفْعَالٌ	مَفْعَالَةٌ / فِعَالٌ	يَفْعَالُ	فَاعَلَ
لَا تَفْعَلْ	أَفْعَلْ	يَفْعَلُ	أَفْعِلَ	مَنْعَلٌ	مَنْعِلٌ	أَفْعَالٌ	يَنْعَلُ	أَفْعَلَ
لَا تَفْعَلْ	تَفْعَلْ	يَتَفَعَلُ	تَفَعِلَ	مَنْتَفَعَلٌ	مَنْتَفَعِلٌ	تَفْعَلٌ	يَتَفَعَلُ	تَفَعَّلَ
لَا تَفْعَلْ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَوَعِلَ	مَنْتَفَاعَلٌ	مَنْتَفَاعِلٌ	تَفَاعَلٌ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَّلَ
لَا تَفْعَلْ	اِنْفَعَلْ	---	---	---	مَنْفَعِلٌ	اِنْفَعَالٌ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَّلَ
لَا تَفْعَلْ	اِقْتَعَلْ	يَقْتَعَلُ	اِقْتَعِلَ	مَنْقَعَلٌ	مَنْقَعِلٌ	اِقْتَعَالٌ	يَقْتَعَلُ	اِقْتَعَّلَ
لَا تَفْعَلْ	اِفْعَالٌ / اِفْعَالٌ	---	---	---	مَفْعَلٌ	اِفْعَالٌ	يَفْعَلُ	اِفْعَلَّ
لَا اسْتَفْعَلْ	اسْتَفْعَلْ	يَسْتَفْعَلُ	اسْتَفْعِلَ	مَسْتَفْعَلٌ	مَسْتَفْعِلٌ	اسْتَفْعَالٌ	يَسْتَفْعَلُ	اسْتَفْعَلَّ
لَا تَفْعَالِ	اِفْعَالِ	---	---	---	مَنْعَالٌ	اِفْعِيَالٌ	يَفْعَالُ	اِفْعَالَّ

Forms of 4 Letter Verb | Abvaab-e-Rubaaee mujarrad | ابواب رباعي مجرد

لَا تَفْعَلْ	فَعَلْ	يَفْعَلُ	فُعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعِلٌ	فَعَالَةٌ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
--------------	--------	----------	--------	----------	----------	-----------	----------	--------



خصائص مزید فیہ

مجرد کو مزید بنانے میں حسب ذیل مختلف اغراض کارفرما ہوتے ہیں:

<p>تعدیہ، لازم کو متعدی کرنا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا، جیسے فَرَحَ (وہ خوش ہوا) سے فَرَحْتَهُ (میں نے اس کو خوش کیا)</p> <p>تکثیر، مفعول کی تکثیر مراد ہو جیسے قَطَعْتُ الْجَبَلَ (میں نے رسی کے بہت سے ٹکڑے کیے)</p> <p>نسبت، مفعول کی نسبت اصل فعل کی طرف مقصود ہو جیسے كَفَّرْتَهُ (میں نے اس کو کفر کی طرف منسوب کیا اور اس کو کافر ٹھہرایا)</p> <p>سبب، کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا، جیسے قَشَرْتُ الْعُودَ (میں نے لکڑی سے اس کا چھلکا دور کیا)</p> <p>استحاذ، کسی اسم کو ماخذ بنانا، جیسے خِيَمَ الْقَوْمِ (لوگوں نے خیمے لگائے)</p>	<p>فَعَّلَ</p>
<p>اشترک، دو شخصوں کا مل کر کوئی کام کرنا جن میں ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی، جیسے ضارب زیدٌ عمرًا (زید نے عمرو کو اور عمرو نے زید کو مارا پیٹا)</p> <p>موافقت فَعَّلَ، فَعَّلَ کے ہم معنی ہونا، جیسے ضَاعَفْتُ الشَّيْءَ (میں نے اس کو دو چند کر دیا) بمعنی ضَعَفْتَهُ۔</p> <p>موافقت أَفْعَلَ، أَفْعَلَ کے ہم معنی ہونا جیسے بَاعَدْتَهُ (میں نے اس کو دور کیا) بمعنی اَبْعَدْتَهُ</p> <p>موافقت مجرد، مجرد کے ہم معنی ہونا جیسے سَافَرَ زَيْدٌ (زید نے سفر کیا) بمعنی سَافَرَ</p>	<p>فَاعَلَ</p>
<p>تعدیہ، جیسے خَرَجَ زَيْدٌ (زید نکلا) سے أَخْرَجْتُهُ (میں نے اس کو نکالا)</p> <p>دخول، ماخذ میں آنا جیسے أَمْسَى زَيْدٌ (زید شام میں داخل ہوا)</p> <p>قصد، کسی جگہ کا قصد کرنا جیسے أَعْرَقَ (عراق کا قصد کیا)</p> <p>صیورت، صاحب ماخذ ہونا جیسے أَلْبَنَ الْبَقْرُ (گائے دودھ والی ہو گئی)</p> <p>مبالغہ، کسی شے کی کیفیت یا مقدار کی زیادت بیان کرنا جیسے أَسْفَرَ الصُّبْحُ (صبح خوب روشن ہو گئی)</p> <p>وجدان، کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا جیسے أَبْخَلْتُ زَيْدًا</p> <p>عرض، مفعول کو محل ماخذ میں پیش کرنا جیسے أَبَعْتُ الْفَرَسَ (میں نے گھوڑے کو بیچنے کی جگہ یعنی منڈی میں برائے فروختگی پیش کیا۔)</p> <p>سلب، جیسے أَشْكَيْتُهُ (میں نے اس کی شکایت دور کی)</p> <p>حیونیت، کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، جیسے أَحْصَدَ الزَّرْعَ (کھیتی کاٹنے کا وقت آ پہنچا)</p> <p>موافقت مجرد، جیسے أَقْلْتُ الْبَيْعَ (میں نے بیچ کو فسخ کیا)</p>	<p>أَفْعَلَ</p>

<p>مطاوعتِ فَعَلٍ، فَعَلَ کے بعد اس کا اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کیا، جیسے عَلِمْتُ فَتَعَلَّمُ (میں نے اس کو سکھایا تو وہ سیکھ گیا)</p> <p>تکلف، ماخذ میں تصنع و بناوٹ ظاہر کرنا، تَشَجَّعَ عَمْرُو (عمرو بتکلیف بہادر بنا)</p> <p>اتخاذ، کسی چیز کو بنانا ماخذ میں لینا جیسے: تَابَطَ الصَّيِّ عَمْرُو (عمرو نے بچہ بغل میں لیا)</p> <p>تجنب، ماخذ سے پرہیز کرنا، جیسے: تَأْتَمَّ (اس نے گناہ سے پرہیز کیا)</p> <p>صیورت، جیسے: تَمَوَّلَ زَيْدٌ (زید مالدار ہو گیا)</p> <p>تدریج، کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا جیسے: تَجَرَّعَ زَيْدٌ (زید نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا)</p> <p>طلب، جیسے تَعَجَّلَ الشَّيْءَ (اس نے کسی چیز میں عجلت چاہی)</p> <p>انتساب، جیسے تَبَدَّى (بادیہ کی طرف منسوب ہوا)</p>	تَفَعَّلَ
<p>اشترک، جیسے تَشَاتَمَا (دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی)</p> <p>مطاوعتِ فاعِلٍ، جیسے بَاعَدْتَهُ فِتْبَاعَدَ (میں نے اس کو دور کیا تو وہ دور ہو گیا)</p> <p>تخیل، وہ صفت ظاہر کرنا جو درحقیقت نہ ہو جیسے: تَمَارَضَ (اس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا۔)</p> <p>تدریج، جیسے تَوَارَدَ الْقَوْمُ (لوگ ٹھہر ٹھہر کر آئے، بدفعات آئے)</p> <p>موافقت مجرّد، جیسے تَعَالَى اللَّهُ بِمَعْنَى عَلَاً</p>	تَفَاعَلَ
<p>مطاوعتِ فَعْلٍ، جیسے جَمَعْتُ فَاَجْتَمَعَ (میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا)</p> <p>اتخاذ، جیسے: اِحْتَجَرَ الْفَارُ (چوہے نے بل بنایا)</p> <p>مبالغہ، جیسے اِكْتَسَبَ (اس نے کسب میں مبالغہ کیا)</p> <p>طلب، جیسے اِكْتَدَّ فَلَانًا (اس نے فلاں سے مشقت طلب کی)</p> <p>موافقتِ فَعْلٍ، جیسے اِحْتَدَبَ بِمَعْنَى جَذَبَ</p> <p>موافقتِ تَفَاعُلٍ، جیسے اِحْتَصَمَ بِمَعْنَى تَخَاصَمَ</p>	اِفْتَعَلَ
<p>مطاوعتِ اِنْفَعَلٍ، جیسے اَعْلَقَ الْبَابَ فَاِنْفَعَلَ (اس نے دروازہ بند کیا تو وہ بند ہو گیا)</p> <p>مطاوعتِ فَعْلٍ، جیسے كَسَّرْتُمُ الْكَلِمَةَ فَاِنْفَعَلَ (میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا)</p> <p>فائدہ: باب انفعال ہمیشہ لازم آتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی کے لیے آتا ہے جن کا تعلق اعضائے ظاہری سے ہو۔</p>	اِنْفَعَلَ

<p>دخول، کسی صفت میں داخل ہونا، جیسے: أَحْمَرُ الْبُسْرُ (کھجور نے سرخی پکڑ لی) مبالغہ، جیسے إِسْوَدَ اللَّيْلُ (رات بہت تاریک ہو گئی) فائدہ: باب افعال اکثر الوان و عیوب کے لیے آتا ہے۔</p>	إِفْعَلَّ
<p>طلب، جیسے: اسْتَغْفَرَ (اس نے مغفرت طلب کی) وجدان، جیسے: اسْتَكَرَّمَتْهُ (میں نے اس کو کرم سے متصف کیا) تھول، قلب ماہیت یا صفت ہو کر ماخذ بن جانا، جیسے اسْتَحْجَرَ الطِّينُ (مٹی پتھر ہو گئی) تکلف، جیسے اسْتَجْرَأَ (اس نے جرأت بتکلف دکھائی) مطابعت اَفْعَلَ، جیسے أَقْتَهُ فَاسْتَقَامَ (میں نے اس کو سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا) موافقت مجرد، جیسے اسْتَقَرَّ بِمَعْنَى قَرَّ</p>	اسْتَفْعَلَ
<p>مبالغہ، إِحْمَارًا (اس کی سرخی تیز ہو گئی) فائدہ: وزن اِفْعَالًا، الوان و عیوب کے لیے مخصوص ہے۔</p>	إِفْعَالًا

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 1

Write the Conjugation of Past Tense, Present Tense and Future Tense and write the conjugation of the Command.

In Af'Aal ki Maazi, Muzaaria aur Amr ki tasreef likhiye

ان افعال کی ماضی، مضارع اور امر کی تصریف لکھیے

														سَمِعَ
														يَسْمَعُ
														اسْمَعُ
														حَزَنَ
														يَحْزَنُ
														احْزَنُ
														حَسِبَ
														يَحْسِبُ
														احْسِبُ
														حَفِظَ
														يَحْفَظُ
														احْفَظُ
														خَسِرَ
														يَخْسِرُ
														احْسِرُ
														رَحِمَ
														يَرْحَمُ
														ارْحَمْ
														شَهِدَ
														يَشْهَدُ
														اشْهَدْ

								عَلِمَ
								يَعْلَمُ
								إِعْلَمَ
								عَمِلَ
								يَعْمَلُ
								إِعْمَلْ
								كَرِهَ
								يَكْرَهُ
								إِكْرَهُ

Identify the past tense, present, future tense, command and negative command in Surah Nooh

Surah Nooh me fel Maazi, Muzaaria, Amr, aur Nahi ko pehchaaniye

سورہ نوح میں فعل ماضی، مضارع، امر اور نہی کو پہچانیے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿1﴾ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿2﴾ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿3﴾ يَعْزِبُ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿4﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿5﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿6﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿7﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿8﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿9﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿10﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿11﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿12﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿13﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿14﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿15﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرًّا جَا ﴿16﴾ وَاللَّهُ أُنَبِّتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿17﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿18﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿19﴾ لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿20﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَدُنْهُمْ وَلَا تَزِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا ضَلَالًا ﴿21﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿22﴾ وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَّ إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَنْدُرُنَّ وَدًّا وَلَا سِوَاءَ وَلَا يَعْشُونَ وَيَعْبُوقُ وَنَسْرًا ﴿23﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿24﴾ إِنَّمَا خَطِيئَتُهُمْ أَعْرَضُوا قَوْمًا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿25﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْدُرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيًّا ﴿26﴾ إِنَّكَ إِنْ تَنْدُرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿27﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿28﴾

Arshad Basheer Madani Notes

ترجمہ:

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

ثلاثی مزید فیہ Thulaasimazeed feehi Trilateral Derived Verb	ثلاثی مجرد Thulaasi mujarrad Trilateral Verb

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

تصريف کا معنی لکھیے اور اپنی صلاحیت کا امتحان لیجیے۔

Tasreef ka mana likhiye aur apni salaahiyat ka imtehaan lijiye.

Write the meaning of below conjugation and test your ability.

فعل Fel - Verb	فعل Fel - Verb	صیغہ Segha - Pattern
	سَمِعَ	واحد مذکر غائب
	سَمِعَا	ثنیۃ مذکر غائب
	سَمِعُوا	جمع مذکر غائب
	سَمِعَتْ	واحد مؤنث غائب
	سَمِعَتَا	ثنیۃ مؤنث غائب
	سَمِعْنَ	جمع مؤنث غائب
	سَمِعَتَ	واحد مذکر حاضر
	سَمِعْتُمَا	ثنیۃ مذکر حاضر
	سَمِعْتُمْ	جمع مذکر حاضر
	سَمِعْتِ	واحد مؤنث حاضر
	سَمِعْتُمَا	ثنیۃ مؤنث حاضر
	سَمِعْتُنَّ	جمع مؤنث حاضر
	سَمِعْتُ	واحد متکلم
	سَمِعْنَا	جمع متکلم

ترجمہ کیجیے اور صیغہ پہنچانیے Tarjama kejiye aur segha pehchaniye Translate and Identify the pattern	
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی۔ (واحد مذکر غائب) Allah ne unke dilao per meher lagadi. (Wahid muzakkar gayeb)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
_____ یقیناً ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ (_____) _____ yaqeenahum hi toh islah karne wale hai. (_____)	قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
اللہ ان کا نور _____۔ (_____) Allah unka noor _____.	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
اس نے انہیں اندھیروں میں _____ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ (_____) Usne inhe andheraon mai _____ diya, wo nahi dekh sakte. (_____)	تَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يَبْصُرُونَ
وہ جس نے تمہیں _____۔ (_____)	الَّذِي خَلَقَكُمْ
وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش _____۔ (_____) Wo jisne zameen ko tumhare liye farsh _____.	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
جسے اللہ نے ملانے کا _____۔ (_____) Jayse Allah ne milane ka _____.	أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
تو _____ سوائے ابلیس کے۔ (_____) Tu _____ siwaye Iblees ke. (_____)	فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
تو _____ ان کی _____۔ (_____) Tu _____ unke _____.	فَتَابَ عَلَيْهِ
تو جس نے میری ہدایت _____۔ (_____) Tu jis ne meri hidayat _____.	فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
وہ جنہوں نے ہماری آیات _____۔ (_____) Wo jinhoan ne humari aayat _____.	الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
جب ہم نے تمہارے لیے سمندر _____۔ (_____) Jab hum ne tumhare liye samandar _____.	إِذْ فَرَقْنَا بُكُورَ الْبَحْرِ
پھر _____۔ (_____) Phir _____.	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ

تیسویں پارے سے مجرد اور مزید فیہ نکالیے

Teeswein paare se mujarrad aur mazeed feeh nikaliye

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

الدرس الثاني عشر

سبق

LESSON-12

جملہ فعلیہ

01

Jumla feliya - Verbal sentences

جملہ فعلیہ کی بناوٹ

02

Jumla feliya ki banaawat - Formation of verbal sentences

الجملة الفعلية

الأوْدَدَ	الرَّجُلُ	نَصَرَ
Object	Subject	Verb
مفعول	فاعل	فعل

پیش اور زبر پر غور کریے

Please notice the zamma or rafa
upon the last letter of Faail

Please notice the fatha or nasab
upon the last letter of mafool

متعلق جار مجرور / ظرف Mutallikh jar majroor / Zarf Adverb Preposition/conjunction	مفعول اسم / ضمیر Ma'ool Ism / Zameer Object Noun/ Pronoun	فاعل اسم / ضمیر Fa'el Ism / Zameer Doer of action Noun / Pronoun	فعل ماضی / مضارع Fel Maazi / Muzaare verb Past / Present / Future
		النَّاسُ	أَمَنَ
	السَّمَاءَ	اللَّهُ	خَلَقَ
	عَلَى الْكُرْسِيِّ	زَيْدٌ	جَلَسَ
	يَوْمَ الْجُمُعَةِ	حَامِدٌ وَ زَيْدٌ	سَافَرَ
	الرِّسَالَةَ	الْبَنَاتُ	كَتَبَتْ
بِالْعَصَا	ضَرْبَةً	زَيْدٌ	ضَرَبَ
إِلَى مَكَّةَ	يَوْمَ الْجُمُعَةِ	حَامِدٌ وَ زَيْدٌ سَافَرَا	
	الرِّسَالَةَ	الْبَنَاتُ كَتَبْنَ	
بِالْعَصَا		ضَرَبَتْهُ	
بِالْمَالِ		نَصَرَهُ زَيْدٌ	
عَلَى الْمُدْرَسِ		سَلَّمْتُ	
Qurani Misalein		Quranic Examples	قرآنی مثالیں
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا (٣٦:٨٠)		جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ (٥:٩٧)	
ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (٢:٢٩)		ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا (٦٦:١١)	
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ (١٦:٩٧)		فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. (٥:٣١)	
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (٤:٢٣)		إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١٠٨:١)	
نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا (٤١:٢٩)		وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (٥٥:٤٦)	

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (٥١:١٢)

لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٦١:٢)

Verbal Sentence	Jumle Fe'liya	جملہ فعلیہ
<p>تعریف: جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل (ماضی یا مضارع) سے شروع ہو</p> <p>Tareef: Jumle feliya vo jumla hai jo fel (mazi ya muzarr) se shuroo ho</p> <p>Definition: Those sentences which begin with verbs are called verbal sentences.</p>		<p>خلق الله الانسان، يخلق الله الانسان، ما كتب زيد</p> <p>الرسالة، لا يكتب زيد الرسالة</p>

ان مثالوں پر غور کریے:

كَتَبَ مُسْلِمٌ

كَتَبَ مُسْلِمَانِ

كَتَبَ مُسْلِمُونَ

المسلمُ كَتَبَ

المُسْلِمَانِ كَتَبَا

المُسْلِمُونَ كَتَبُوا

• فعل اگر بعد آئے تو مطابقت ضروری ہے

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

مفاعیل خمسہ:

1. مفعول بہ 2. مفعول مطلق 3. مفعول فیہ 4. مفعول لہ 5. مفعول معہ

مفعول بہ:

وہ اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔
مثال: "قَرَأْتُ الْكِتَابَ" میں نے کتاب پڑھی۔
وضاحت: اس مثال میں "الکتاب" مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اس پر متکلم (فاعل) کے پڑھنے کا عمل واقع ہوا ہے۔

مفعول مطلق:

وہ مصدر منصوب جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو اور فعل کے بعد اس کی تاکید یا عدد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔
مثال: "فَرِحْتُ فَرِحًا" میں خوش ہوا، خوش ہونا۔ "قَعَدْتُ جُلُوسًا" میں بیٹھا، بیٹھنا۔
وضاحت: فَرِحًا اور جُلُوسًا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ فَرِحًا مصدر ہے اور مذکورہ فعل فَرِحْتُ کے ہم لفظ ہے اور جُلُوسًا مصدر ہے اور قَعَدْتُ کے صرف ہم معنی ہے، اور یہاں دونوں فعل کی تاکید کے لیے ہیں۔

Arshad Basheer Madani Notes

مفعول فیہ:

وہ اسم جو بتقدیر "فی" (یعنی جس میں فی کو مقدر اور پوشیدہ مانا جاتا ہے) منصوب ہو اور فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے، مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔

مثال: "سَافِرٌ لَّيلاً" اس نے رات کو سفر کیا۔ "مَشَى مِثْلًا" وہ ایک میل چلا۔

وضاحت: لیل اور میل مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ لیل فعل کا وقت اور میل جگہ بتانے کے لیے ذکر ہوا ہے۔

ظرف کی اقسام:

ظرف یا مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں: 1- ظرفِ زمان، 2- ظرفِ مکان

ظرفِ زمان: وہ اسم ہے جو اس وقت پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہوا ہو، جیسے: صمْتُ يَوْمَ الْخَمِيسِ "میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا"۔

ظرفِ مکان: وہ اسم ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں واقع ہوا ہو، جیسے: جَلَسْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "میں درخت کے نیچے بیٹھا"۔

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

مفعول لہ:

وہ مصدر جو وقوعِ فعل کا سبب بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے، اسے مفعول لہ بھی کہتے ہیں۔

مثال: "ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا" میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔

وضاحت: اس میں تادیب مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ مار کا سبب ادب سکھانا ہے۔

مفعول معہ:

وہ اسم منصوب جو "و" کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی معیت میں فعل واقع ہوا ہو۔

مثال: "جَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ" امیر لشکر سمیت آیا۔

وضاحت: اس میں الجیش مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ "و" کے بعد ہے جو کہ مع کے معنی میں ہے اور بتاتا ہے کہ امیر کی آمد لشکر

سمیت ہوئی ہے۔

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 2

Identify the Verbal sentence and translate it.	Jumla feliya ko pehchaan kar tarjama keejiye	جملہ فعلیہ کو پہچان کر ترجمہ کیجیے
--	--	------------------------------------

أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّائِئِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجَعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِحَالِكُمْ قَوْلَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَلَوْ سَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا حَاهِمَ وَقَالُوا رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمًا وَحَطَّائِمًا ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقُوا

ترجمہ Tarjama Translate	جملہ فعلیہ Jumla feliya Verbal Sentence

In light of Sura Abasa , Write 10 Verbal sentence and write the meaning of themPage 40:

Sura Abasa ki roshni me jumla feliya ke das (10) jumle naql keejiye aur in sab ka tarjama keejiye

سورة عبس کی روشنی میں جملہ فعلیہ کے دس جملے نقل کیجیے اور ان سب کا ترجمہ کیجیے

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

Using appropriate verbs, complete the verbal sentences

Munaasib faa'il ko bad'haa kar jumla feliya mufeeda banaaye

مناسب فاعل کو بڑھا کر جملہ فعلیہ مفیدہ بنائیے

-1 یَسَافِرُ (عن حامد)
-2 تَرْجِعُ (زید فاطمة)
-3 اشْتَرَى (زینب الرجل)
-4 مَا ذَبَحَ (ابرهیم ہاجر)
-5 كَانَ يَعْبُدُ (ابراہیم آزر) اللہ

جمله فعلیہ کو سمجھیں :

Jumle feliya ko samjhen

Understand the verbal sentences

- قال تعالى: (وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ) (سورة البقرة: ۲۰۳).
- قال تعالى: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) (سورة النساء: ۱۶۴).
- قال تعالى: (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) (سورة مريم: ۲۴).
- قال تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا) (سورة السجدة: ۱۶).
- قال تعالى: (نَخْرَجَ مِنْهَا خَائِفًا) (سورة القصص: ۲۱).
- قَرَأَتُ الْكِتَابَ إِلَّا صَفْحَةً.
- سَرْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ .
- شَرِبْتُ فَاطِمَةُ الْمَاءَ الْبَارِدَ
- هَبَّتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ
- ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
- صَلَّى الْمُسْلِمُونَ صَلَاةَ الْعِيدِ
- تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
- نَتَّبِعُ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ وَنَتْرِكُ الْغُلُوفَ فِي الدِّينِ

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 6

1- جملہ فعلیہ کو پہچان کر ترجمہ کے ساتھ لکھیے۔

Jumle feliya ko pahchan kar tarjume ke saath likhein.

Identify the verbal sentences and translate them.

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ {١٧} وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ {١٨} يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ (سورة الروم ١٩)

Arshad Basheer Madani Notes

2- جملہ فعلیہ کو پہچان کر ترجمہ کے ساتھ لکھیے۔

Jumle feliya ko pahchan kar tarjume ke saath likhein.

Identify the verbal sentences and translate them.

نشأ رسول الله في قريش، وترَّبَ في بني سعد، ولذلك كان من الفصاحة بمكان وفي البلاغة يُشار إليه بالبنان، ومما جاء في وصف كلامه ما ذكرته عائشة رضي الله عنها: «ما كان رسول الله يسرد كسرِد كُر هذا، ولكن كان يتكلَّم بكلام بين فصلٍ يحفظه من جلس إليه» وفي رواية: كان رسول الله يحدث حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه.

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes
3- جملہ فعلیہ کو پہچان کر ترجمہ کے ساتھ لکھیے۔

Jumle feliya ko pahachan kar tarjume ke saath likhen.

Identify the verbal sentence and translate them

وَالْمُسْلِمُ الْمُطِيعُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ الرَّاجِي رَحْمَةَ رَبِّهِ وَالْخَائِفُ مِنْ عَذَابِهِ يَشْتَأِقُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا وَيُحْسِنُ
ظَنَّهُ بِاللَّهِ بِأَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ وَيُنْجِيهِ مِنَ النَّارِ فَيَجِدُ وَيَجْتَدُ فِي فِعْلِ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ هَكَذَا تَكُونُ
حَالَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ الصَّالِحِينَ.

.....

.....

.....

Arshad Basheer Madani Notes
جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو پہچانیے

Exercise : 7

Jumle ismiya aur fa'lyiya ko pehchaniye

Identify the nominal sentence

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
(١٢) إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ (١٦) هَلْ
أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠)
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢) (سورة البروج)

.....

.....

.....

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

عام معلومات
General Knowledge

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

عربی زبان کی اہمیت

زبان اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی ذات کیوں کہ شروع ہی سے انسانوں کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور اپنی بات بتانے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ اسی طرح قوت گوئی ان اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے جو انسان میں اور دیگر جانداروں میں فرق کرتی ہے۔ کسی بھی قوم یا قبیلے کے لیے اس کی زبان کی اہمیت غیر معمولی ہوا کرتی ہے، کیوں کہ اس کے بغیر وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی اقدار کو نہ تو درست طریقے سے جان سکتا ہے اور نہ انہیں آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کا فریضہ بانداز احسن انجام دے سکتا ہے۔

اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں مختلف رنگ، نسل، قبیلوں اور گروہوں کی اہمیت سوائے تعارف کے اور کچھ نہیں (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)۔ اسلام کو ماننے والے مختلف رنگ و نسل اور قبائل سے ہو سکتے ہیں، ان کی علاقائی زبانیں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ لیکن سب کے لیے متفقہ طور پر جو زبان لازمی اور ضروری ہے، جو ان کے عقائد، عبادات، معاملات، تہذیب و ثقافت، اقدار و تعلیمات کی ترجمان و امین ہے وہ عربی زبان ہے۔

عربی زبان کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کے بنیادی مصادر قرآن کریم اور صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ذخیرہ اسی زبان میں ہے اسی طرح ارکان اسلام کی ادائیگی کا انحصار ایک بڑی حد تک اسی پر ہے۔ اگرچہ مطالب و معانی پر دسترس نہ ہو لیکن عربی متن پڑھنا، اسے یاد کرنا اور دہرانا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہو، روزے کی دعائیں ہوں یا حج کی تلبیہ اور مسنون دعائیں ہوں۔ اس قدر عربی سے تعلق ہر خاص و عام پر لازم ہے۔

اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جب انسان اللہ کے پیغام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خود سمجھنے اور عمل کرنے کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلی ضرورت عربی زبان پر دسترس ہونا ہے۔ بلاشبہ تراجم سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن جو وسیع مفاہیم و مطالب قرآن کریم میں پنہاں ہیں تراجم کے راستے سے ان تک رسائی مشکل ہے۔

ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے عربی زبان کی اہمیت کا ایک پہلو اور بھی ہے وہ یہ کہ عربی زبان ایک اعتبار سے ہر مسلمان کی مادری زبان ہے۔ اور یہ عام قاعدہ ہے کہ مادری زبان نہ آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مادری زبان ہونے کی دلیل قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“ (احزاب: 6) بلاشبہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اہل ایمان کے لیے اُن کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں۔ ازواجِ نبی ﷺ مؤمنوں کی مائیں ہیں اور ان کی زبان عربی تھی تو تمام مؤمنوں کی مادری زبان عربی قرار پائی۔ اور یہ بات اس صورت میں زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے جب ہم ساری امت مسلمہ کو ”امۃ واحدۃ“ کے طور پر متصور کریں۔ ایسے میں علاقائی و قومی زبانوں اور شناختوں کے مقابلے میں اسلام کی پہچان ہی اصل قرار پائے گی۔

ان سطور کے بعد ایک مسلمان کے لیے عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں کسی شک و شبہ کے گنجائش نہیں رہتی۔

- عربی زبان کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور احادیث کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔
- آج ۲۷ ممالک میں عربی قومی زبان ہے۔
- عربی دنیا کی پانچویں کثیر الاستعمال زبان ہے۔
- عربی زبان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ زبان ان شاء اللہ قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس زبان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے
- عربی زبان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جملہ عبادات عربی الفاظ کی ادائیگی سے ہی انجام پاتے ہیں۔
- دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں عربی زبان سے زیادہ قدیم اور زندہ زبان روئے زمین پر اس وقت نہیں ملتی جو قرناً بعد قرن مختلف جماعتوں اور طبقوں میں تربیت پاتی اور ترقی کرتی ہوئی چلی آرہی ہے، اور اب تک محفوظ ہے۔

Motivation

عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں کے لحاظ سے انتہائی جامع اور مکمل اور وسیع ہے، اس کے مختصر جملے اور موجز فقرے معنی اور مفہوم کی جن اعلیٰ اور عظیم ترین وسعتوں کو سمیٹ کر جس خوش اسلوبی اور اکمل طریق کے ساتھ ذہن انسانی تک پہنچا سکتے ہیں دوسری زبانوں کے طول طویل جملے اور مفصل فقرے بھی ذہن کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، اس کی بے پناہ وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مرادفات کثیرہ کے علاوہ شیریں اور خوش کن استعارات و کنایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں، حسن ادائیگی اور طرق تعبیر کی فراوانی ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں مثلاً لفظ «عین» عربی زبان میں ستر معنی میں مستعمل ہے، لفظ «عجوز» کے ساٹھ سے زائد معنی ہیں، اسی طرح ایک ایک معنی کے لئے کئی کئی الفاظ ہیں، شہد ہی کو لے لیجئے کہ اس کے لئے عربی کے خزانے میں ۸۰ الفاظ ملتے ہیں جن کے بارے میں مجد الدین شیرازی کی ایک تصنیف بھی پائی جاتی ہے، سانپ کے لئے دو سو، اونٹ اور تلوار کے لئے ایک ہزار اور مصیبت کے لئے چار ہزار الفاظ ہیں، شیر کے پانچ سو نام اور صفات کے علاوہ بیسٹار کنیتیں اور القاب بھی ہیں، اسی طرح ایک ایک جانور کے لئے کتنے ہی نام اور کتنے ہی القاب و کنیتیں ہیں۔ اس سے عربی کی وسعت اور ہمہ گیری کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

عدد معدود (گنتی)

عدد	اسم عدد مذکر	الامثلة	اسم عدد مؤنث	الامثلة
1	وَاحِدٌ / أَحَدٌ	رَجُلٌ وَاحِدٌ	وَاحِدَةٌ / إِحْدَى	إِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ
2	إِثْنَانِ	رَجُلَانِ إِثْنَانِ	إِثْنَانِ	إِمْرَأَتَانِ إِثْنَانِ
3	ثَلَاثَةٌ	ثَلَاثَةُ رِجَالٍ	ثَلَاثٌ	ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
4	أَرْبَعَةٌ	أَرْبَعَةُ رِجَالٍ	أَرْبَعٌ	أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
5	خَمْسَةٌ	خَمْسَةُ رِجَالٍ	خَمْسٌ	خَمْسُ نِسْوَةٍ
6	سِتَّةٌ	سِتَّةُ رِجَالٍ	سِتٌّ	سِتُّ نِسْوَةٍ
7	سَبْعَةٌ	سَبْعَةُ رِجَالٍ	سَبْعٌ	سَبْعُ نِسْوَةٍ
8	ثَمَانِيَةٌ	ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ	ثَمَانٌ	ثَمَانُ نِسْوَةٍ
9	تِسْعَةٌ	تِسْعَةُ رِجَالٍ	تِسْعٌ	تِسْعُ نِسْوَةٍ
10	عَشْرَةٌ	عَشْرَةُ رِجَالٍ	عَشْرٌ	عَشْرُ نِسْوَةٍ
11	أَحَدَ عَشَرَ	أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا	إِحْدَى عَشْرَةَ	إِحْدَى عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
12	إِثْنَا عَشَرَ	إِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا	إِثْنَا عَشْرَةَ	إِثْنَا عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
13	ثَلَاثَةَ عَشَرَ	ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا	ثَلَاثَ عَشْرَةَ	ثَلَاثَ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
14	أَرْبَعَةَ عَشَرَ	أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا	أَرْبَعَ عَشْرَةَ	أَرْبَعَ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
15	خَمْسَةَ عَشَرَ	خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا	خَمْسَ عَشْرَةَ	خَمْسَ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
16	سِتَّةَ عَشَرَ	سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا	سِتَّ عَشْرَةَ	سِتَّ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
17	سَبْعَةَ عَشَرَ	سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا	سَبْعَ عَشْرَةَ	سَبْعَ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
18	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا	ثَمَانِ عَشْرَةَ	ثَمَانِ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
19	تِسْعَةَ عَشَرَ	تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا	تِسْعَ عَشْرَةَ	تِسْعَ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً
20	عِشْرُونَ	عِشْرُونَ رَجُلًا	عِشْرُونَ	عِشْرُونَ إِمْرَأَةً

الامثلة	اسم عدد	عدد	الامثلة	اسم عدد	عدد
أَرْبَعُ مِئَةِ رَجُلٍ	أَرْبَعُ مِئَةٍ	400	عَشْرَةُ رِجَالٍ	عَشْرٌ	10
خَمْسُ مِئَةِ رَجُلٍ	خَمْسُ مِئَةٍ	500	عِشْرُونَ رَجُلًا	عِشْرُونَ	20
سِتُّ مِئَةِ رَجُلٍ	سِتُّ مِئَةٍ	600	ثَلَاثُونَ رَجُلًا	ثَلَاثُونَ	30
سَبْعُ مِئَةِ رَجُلٍ	سَبْعُ مِئَةٍ	700	أَرْبَعُونَ رَجُلًا	أَرْبَعُونَ	40
ثَمَانِي مِئَةِ رَجُلٍ	ثَمَانِي مِئَةٍ	800	خَمْسُونَ رَجُلًا	خَمْسُونَ	50
تِسْعُ مِئَةِ رَجُلٍ	تِسْعُ مِئَةٍ	900	سِتُّونَ رَجُلًا	سِتُّونَ	60
أَلْفُ رَجُلٍ	أَلْفٌ	1000	سَبْعُونَ رَجُلًا	سَبْعُونَ	70
أَلْفَا رَجُلٍ	أَلْفَيْنِ / أَلْفَانِ	2000	ثَمَانُونَ رَجُلًا	ثَمَانُونَ	80
ثَلَاثَةُ أَلْفِ رَجُلٍ	ثَلَاثَةُ أَلْفٍ	3000	تِسْعُونَ رَجُلًا	تِسْعُونَ	90
أَرْبَعَةُ أَلْفِ رَجُلٍ	أَرْبَعَةُ أَلْفٍ	4000	مِئَةُ رَجُلٍ	مِئَةٌ	100
خَمْسَةُ أَلْفِ رَجُلٍ	خَمْسَةُ أَلْفٍ	5000	مِئَتَا رَجُلٍ	مِئَتَيْنِ / مِئَتَانِ	200
مِئَةُ أَلْفِ رَجُلٍ	مِئَةُ أَلْفٍ	100000	ثَلَاثُ مِئَةِ رَجُلٍ	ثَلَاثُ مِئَةٍ	300

Cordinal number

مذكر و مؤنث Male & female no	الرقم s.no	المؤنث Female numbers	المذكر Male numbers	الرقم s.no	المؤنث Female numbers	المذكر Male numbers	الرقم s.no
عِشْرُونَ	20	أَحَدِي عَشْرَةَ	أَحَدَ عَشَرَ	11	إِحْدَى - وَاحِدَةً	أَحَدٌ - وَاحِدٌ	1
ثَلَاثُونَ	30	اِثْنَتَا عَشْرَةَ - ثِنْتَا عَشْرَةَ	اِثْنَا عَشَرَ	12	اِثْنَتَانِ - ثِنْتَانِ	اِثْنَانِ	2
أَرْبَعُونَ	40	ثَلَاثَ عَشْرَةَ	ثَلَاثَةَ عَشَرَ	13	ثَلَاثَةً	ثَلَاثٌ	3
خَمْسُونَ	50	أَرْبَعَ عَشْرَةَ	أَرْبَعَةَ عَشَرَ	14	أَرْبَعَةً	أَرْبَعٌ	4
سِتُونَ	60	خَمْسَ عَشْرَةَ	خَمْسَةَ عَشَرَ	15	خَمْسَةً	خَمْسٌ	5
سَبْعُونَ	70	سِتَّ عَشْرَةَ	سِتَّةَ عَشَرَ	16	سِتَّةً	سِتٌّ	6
ثَمَانُونَ	80	سَبْعَ عَشْرَةَ	سَبْعَةَ عَشَرَ	17	سَبْعَةً	سَبْعٌ	7
تِسْعُونَ	90	ثَمَانِي عَشْرَةَ	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ	18	ثَمَانِيَةً	ثَمَانٌ	8
		تِسْعَ عَشْرَةَ	تِسْعَةَ عَشَرَ	19	تِسْعَةً	تِسْعٌ	9
					عَشْرَةَ	عَشْرٌ	10

Some numbers from 100 and above بَعْضُ الأَعْدَادِ مِنَ المِائَةِ وَمَا فَوْقَ

مائة ألفٍ	100000	تِسْعَ مِائَةٍ	900	مائة	100
مائتا ألفٍ	200000	أَلْفٍ	1000	مائتان	200
ثلاثمائة ألفٍ	300000	أَلْفَانِ	2000	ثلاث مائة	300
أربعمائة ألفٍ	400000	ثلاثة آلافٍ	3000	أربع مائة	400
ألف ألفٍ	1000000	أربعة آلافٍ	4000	خمس مائة	500
ألفا ألفٍ	2000000	أحد عشر ألفاً	11000	ست مائة	600
ثلاثة آلاف ألفٍ	3000000	اثنان عشر ألفاً	12000	سبع مائة	700
مليون		ثلاثة عشر ألفاً	13000	ثمان مائة	800
مليار				ثمان مائة	

عدد وصفی مذکر و مؤنث

Adad wasfi muzakkar wa mu'annas

Ordinal numbers for male and female

مذکر و مؤنث Male & female no	الرقم s.no	Positions Urdu	المؤنث Female numbers	المذکر Male numbers	الرقم s.no	Positions Urdu	المؤنث Female numbers	المذکر Male numbers	الرقم s.no
العشرون	۲۰	گیارہواں	حَادِيَةَ عَشْرَةَ	حَادِي عَشْرَ	۱۱	پہلا	أُولَى	أَوَّلٌ	۱
الثلاثون	۳۰	بارہواں	ثَانِيَةَ عَشْرَةَ	ثَانِي عَشْرَ	۱۲	دوسرا	ثَانِيَةَ	ثَانٍ	۲
الأربعون	۴۰	تیرہواں	ثَالِثَةَ عَشْرَةَ	ثَالِثَ عَشْرَ	۱۳	تیسرا	ثَالِثَةَ	ثَالِثٌ	۳
الخمسون	۵۰	چودہواں	رَابِعَةَ عَشْرَةَ	رَابِعَ عَشْرَ	۱۴	چوتھا	رَابِعَةَ	رَابِعٌ	۴
الستون	۶۰	پندرہواں	خَامِسَةَ عَشْرَةَ	خَامِسَ عَشْرَ	۱۵	پانچواں	خَامِسَةَ	خَامِسٌ	۵
السبعون	۷۰	سولواں	سَادِسَةَ عَشْرَةَ	سَادِسَ عَشْرَ	۱۶	چھٹا	سَادِسَةَ	سَادِسٌ	۶
الثمانون	۸۰	سترہواں	سَابِعَةَ عَشْرَةَ	سَابِعَ عَشْرَ	۱۷	ساتواں	سَابِعَةَ	سَابِعٌ	۷
التسعون	۹۰	آٹھارہواں	ثَامِنَةَ عَشْرَةَ	ثَامِنَ عَشْرَ	۱۸	آٹھواں	ثَامِنَةَ	ثَامِنٌ	۸
المائة	۱۰۰	انیسواں	تَاسِعَةَ عَشْرَةَ	تَاسِعَ عَشْرَ	۱۹	نواں	تَاسِعَةَ	تَاسِعٌ	۹
الألف	۱۰۰۰					دسواں	عَاشِرَةَ	عَاشِرٌ	۱۰

اعداد کسری

Adaad-e-kisra | Fractional numbers

1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2
عشر ushur	تسع tusu	ثمان thumun	سبع subu	سدس sudus	خمس khumus	ربع rubu	ثلث thulus	نصف nisf
One Tenth	One Ninth	One Eighth	One Seventh	One Sixth	One Fifth	One Fourth	One Third	One Half

اعداد کسری اس سے مراد وہ اعداد ہیں جن کے ذریعہ کسی شے کا آدھا، تہائی اور چوتھائی وغیرہ ہونا بیان کیا جائے، نصف کے علاوہ ایک تہائی سے دسویں حصہ تک اعداد کسری فعل کے وزن پر آتے ہیں اور تذکیر و تانیث میں یکساں ہوتے ہیں۔ عشر کے بعد اعداد کسری بیان کرنے کے لیے لفظ جزء استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً: جزء من أحد عشر (۱/۱۱) وغیرہ۔

Ae'daad Kasri se murad wo adaad hai jin ke zariye kisi shay ka aadha, tihayea aur chawthae waghaira hona bayan kiya jae, nisfun ke alaawa ek tihayea se daswe hissa tak aedaad e kisra fu-oo-lun ke wazan par aate hai aur tazkir wa tanees me yeksaa hote hain.

Oo-shu-run ke baad aedaad e kasri bayan karne ke liye lafz juz-un istemal kiya jata hai.

Definition: Numbers of fraction. They came in the form of (Fu-o-lun) and they are same in male and female. After 1/10th, then the word "juz-un" is used.

The Number -1

يُوعَىٰ إِلَىٰ آتَمَّ إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا
فَاتِمَّاهُنَّ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيعُ أَعَصِرُ نَحْمَرًا
وَأُدْبِعُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الظَّالِمَاتَيْنِ أَيُّهُمَا لَكُمْ
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَيْتَ اسْتَأْجِرُهُ

The Number 2

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَّذَاكِرِينَ حَزْمَهُ
أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْآا اشْتَبَهْت عَلَيْهِ أَرْحَامَهُ الْأُنثَيَيْنِ
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

For Numbers 3 to 10

قَالَ يَا أَيُّكَ الْأَتْكَلَمَ النَّاسِ قُلْتُ لِيَا لِي سَوِيًّا
فَشَهَدَتْهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَمَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ
تَمْيِيَّةٌ أَرْوَجُ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْيِيَّةٌ أَيَّامٍ
وَالْقَدَاءُ اثْنِيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
فِي الْمَدْيَنَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

The Number 11 to 19

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيعًا
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيعًا
وَقَطَّعَتْنَهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيعًا

Numbers 20 to 90

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ
وَجَاهِلَةٌ وَفِضْلَةٌ تُلْفُونَ شَهْرًا
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
حَقِّقْ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيُمِيقُنَا
فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Numbers 21 to 99

تِسْعَ وَتِسْعُونَ نَجْجَةً وَوَلِي نَجْجَةً وَوَجْدَةً

Numbers 100 and above

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا وَمَأْتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ كُفْرًا بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
يُحَدِّثُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
وَأَرْسَلْتُهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

The ordinal numbers

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ
فَعَزَّزْنَا بِبَنَاتٍ
سَبَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
وَتَامِمُهُمْ كَلْبُهُمْ

The Fractions

وَلَكُمْ بِضْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
لِكُلِّ وَجِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ
فَلِأَيِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

The Distributive Adjectives

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ

<p>معدود کا حکم Ma'dood ka hukm Rule of Madood</p>	<p>عدد کا اعراب Adad ka erab Declention of numbers</p>	<p>عدد کا حکم بحیثیت موافق اور مخالف Adadkahukmbahaisiyat muwafiq aur mukhalif Orderings of numbers</p>	<p>عدد کی قسم Adad ki Qism Types of numbers</p>	<p>عدد Adad numbers</p>
<p>”ان“ دونوں کے بعد ذکر نہیں ہو گا بلکہ ان دونوں سے پہلے ہوگا۔ In dono ke baad zikr nahi hoga balke in dono se pehle hoga. After these number it will not come but comes in the begining</p>	<p>واحد: موقع کے حساب سے ظاہری حرکات کے ذریعہ اعراب دیا جائے گا۔ ”ثنیہ: حالت رفع میں ”الف“ اور حالت نصب اور جر میں ”ی“ دیا جائے گا۔ Wahed: Mauqe ke hisaab se zaaheri harkaat ke zariye aeraab diya jayega Tasniya : Haalat e rafa' me "Alif" aur Haalat e nasb aur Jarr me "Ya" diya jayega Singular : Aerab is given as per the requirement. Dual: In position of Rafa "Alif " is placed and in postion of nasab and jar 'ya' is placed.</p>	<p>معدود کے موافق ہوگا۔ مثال: رجلٌ واحدٌ وإمرأةٌ واحدةٌ. رجلانِ اثنانِ، إمرأتانِ اثنتانِ. Ma'dood ke muwafiq hoga. Misaal : Rajulun wahidun, imra'atun wahedatun, rajulaani isnaani, imraataani isnataani Will be according to Ma-dood</p>	<p>مفرد Mufrad singular</p>	<p>ایک اور دو (واحد اور ثنیہ) Ek aur do (Wahed aur Tasniya) Singularand dual</p>
<p>جمع مجرور اضافت کی وجہ سے Jama' majroor izaafat ki wajah se Plural is majroor because of possession</p>	<p>موقع کے حساب سے ظاہری حرکات کے ذریعے اعراب دیا جائے گا Mauqe ke hisaab se zaaheri harkaat ke zariye aeraab diya jayega Based on position aerab is given as per the requirement</p>	<p>معدود کے مخالف ہوگا: ثلاثةٌ رجالٍ ، ثلاثٌ نساءٌ۔ Ma'dood ke mukhalif hoga Opposite to Madood</p>		<p>تین سے دس تک Teen se das tak From 3 to 10</p>
<p>مفرد مجرور اضافت کی وجہ سے Mufrad Majroor izaafat ki wajah se Plural is majroor because of possession</p>	<p>موقع کے حساب سے ظاہری حرکات کے ذریعہ اعراب دیا جائے گا، سوائے ثنیہ کے اس کو ثنیہ کا اعراب دیا جائے گا۔ Mauqa ke hisab se zaaheri harkaat ke zariye eraab diya jayega, siwaye tasniya ke is ko tasniya ka aeraab diya jayega. Based on position aerab is given as per requirement except in dual aerab of the dual form is given.</p>	<p>ہمیشہ ایک حالت لازم ہوگی: فی المسجد الف مصحفٍ ومئةٌ سجدَةٍ Hamesha ek haalat lazim hogi Always remains in one condition</p>	<p>اضافات Izaafat</p>	<p>سویں ہزار۔ لاکھ Sau-Hazaar-Lakh 100-1000-100000</p>

<p>مفرد منصوب تميز کی بنا پر Mafrad wa mansoob tameez ki bina par</p> <p>The ma'dood is Singular and gets zabar because of tameez</p>	<p>أحد عشر: دونوں جزء مبنی علی الفتح ہوں گے رفع کی حالت میں ہو یا نصب کی یا جر کی۔ اشنا عشر: پہلے جزء کو مثنیہ کا اعراب دیا جائے گا اور دوسرا مبنی علی الفتح ہوگا اعراب میں اس کا کوئی مقام نہیں۔</p> <p>Ahad a Ashr : Dono juz mabni alal fath hongre rafa' ki halat me ho ya nasab ki ya jarr ki.</p> <p>isna ashara : Pehle juz ko tasniya ka aeraab diya jayega aur dosra mabni alal fath hoga aeraab mein iska koi maqaam nahi</p> <p>Eleventh number Both parts are fixed on zabar even if zabar or Zer comes.</p> <p>Twelfth Number aerab of dual is given, i.e. Alif musanna and both parts are fixed with zabar.</p>	<p>دونوں جزء محدود کے موافق ہوں گے جاء احد عشر رجلاً واثنتا عشرة امرأةً Dono juz ma'dood ke mu- wafiq hongre.</p> <p>Both parts are same with madood</p> <p>Eg: for 11 it is احد عشر رجلاً i.e. احد عشر and احد عشر are in the same gender as رجلاً.</p> <p>It is same for 12.</p>	<p>مُرَكَّب Murakkab</p>	<p>گیارہ اور بارہ Gyarah aur baara 11 and 12</p>
<p>مفرد منصوب تميز کی بنا پر Mafrad wa mansoob tameez ki bina par</p> <p>The ma'dood is Singular and gets zabar because of tameez</p>	<p>پہلا حصہ مخالف ہوگا اور دوسرا حصہ موافق ہوگا: حضر ثلاثة عشر رجلاً وتسع عشرة امرأةً دونوں جزء مبنی علی الفتح ہوں گے رفع کی حالت میں ہو یا نصب کی یا جر کی۔</p> <p>Dono juz mabni alal fath hongre rafa' ki halath me ho ya nasab ki ya jar ki.</p> <p>Both parts are fixed on zabar even if zabar or Zer comes.</p>	<p>Pehla hissa mukhalif hoga aur dosra hissa muwafiq hoga.</p> <p>First part is opposite to ma'dood and 2nd part is same with ma'dood Eg. For 13 it is ثلاثة عشر رجلاً, in which ثلاثة is opposite in gender from رجلاً and gender of عشر is same as رجلاً. It is same for 14 to 19.</p>		<p>تیرہ سے انیس تک Terah se Unnees tak 13 to 19</p>
<p>مفرد منصوب تميز کی بنا پر Mafrad wa mansoob tameez ki bina par</p> <p>The ma'dood is Singular and gets zabar because of tameez</p>	<p>جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جائے گا، رفع «و» کے ذریعہ سے نصب اور جر «ي» کے ذریعہ سے - Jama muzakkar e Saalem ka eraab diya jayega, Rafa' "و" ke zariye se nasb aur jar "ya" ke zariye se aerab of male plural is given with rafa' nasab and jar.</p>	<p>ایک ہی حالت لازم ہوگی: في الفصل عشر و طالبا و قرأت تسعين صفحةً. Ek hi halat lazim hogi: Will remain in same position</p>		<p>بیس سے نوے تک Beessenavve tak 20 to 90</p>

<p>مفرد منصوب تمیز کی بنا پر Mufrad wa mansoob tameez ki bina par The ma'dood is Singular and gets zabar because of tameez</p>	<p>النصف : موقع کے حساب سے اعراب ہوگا۔ العقد : معطوف علیہ معطوف کے تابع ہوگا حالت رفع میں ”و“ کے ذریعہ سے حالت نصب اور جر میں ”سی“ کے ذریعہ سے۔ Anneef : Mauqa ke hisaab se aeraab hoga. Al Aqd : Ma'toof alai Ma'toof ki tabe hoga halat e rafa' me "waw" ke zariye se halat e nasb aur jar me "ya" ke zariye se. Aneef: irab will come based on situation. Al Aqd: position of Rafa b y 'waa' and because of ya.</p>	<p>جو و او عطف سے پہلے ہے عطف سے پہلے کا حکم ہوگا اور اس کے بعد ایک ہی حالت ہوگی۔ عدد الطلاب ثمانية وعشرون طالبًا. Jo waw atf se pahle hai atf se pahle ka hukm hoga aur iske baad ek hi halat hogi. Rule of the thing which came after waa is same as the thing which came before it.</p>	<p>معطوف اور معطوف علیہ Ma'toofaur Ma'toofalal</p>	<p>اکیس سے ننانوے تک Ekkees se ninanwe tak 21 to 99</p>
--	--	--	--	---

نوٹ : شین (عشرۃ کا) مرکب اعداد میں: مذکر کے ساتھ آئے تو فتح اور مؤنث کے ساتھ آئے تو سکون ملے گا۔ جب معدود کا ذکر نہ ہو، اس کا معنی آرہا ہو تو عدد میں تذکیر اور تانیث دونوں جائز ہے۔ مثال: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال» یعنی «ستۃ ایام» اور اسی طرح اگر معدود مقدم کیا جائے عدد پر مثلاً: «حللت مسائل تسعا او تسعة» جو فاعل کے وزن پر ہو وہ معدود کے موافق ہوگا: «الباب الخامس \ المسألة الخامسة»۔

Note : Sheen (Ashrah ka) Murakkab a'daad me : Muzakkar ke sath aaye toh fath aur muannas ke sath aaye toh sukoon milega. Jab ma'dood ka zikr na ho, iska mane' aaraha ho toh adad me tazkeer aur taaneez dono jaayez hai. Yani "Sittah Ayyaam" aur isi tarah agar ma'dood muqaddam kiya jaye adad par masalan : Jo faayel ke wazan par ho woh ma'dood ke muwafiq hoga.

Note: The sheen of Ashra has a fathah when it is masculine, while it has a sukoon if it is feminine. If there is no mention of the ma'dood then both Ashra or Asharata could be used, i.e. both masculine and feminine forms. Moreover if the ma'dood comes before the adad then the gender of the madood matches with the adad.

TEST YOUR SELF

Arshad Basheer Madani Notes

١٠٠ جملة عربية

Arabic Sentences 100

The garden is beautiful	الجملة الاسمية (المبتدأ والخبر) Nominal Sentence (Subject and Predicate)	البُسْتَانُ جَمِيلٌ مبتدا (مذكر) + خبر (مذكر) = جملة اسمية	1
The Apple is sweet	"	التُّفَّاحَةُ حُلْوَةٌ مبتدا (مؤنث) + خبر (مؤنث) = جملة اسمية	2
The tiger is ferocious	المبتدأ والخبر وتطابقهما Matching of Subject and Predicate	النَّمْرُ شَرِيسٌ.	3
The Duck is a swimmer	"	البَطَّةُ سَابِحَةٌ.	4
The two students are present	"	التِّلْمِيذَانِ حَاضِرَانِ.	5
The two girls are hardworking	"	البِنَاتِ مُجْتَهِدَاتَانِ.	6
The well-doers are praiseworthy	"	المُحْسِنُونَ مَمْدُوحُونَ.	7
The ladies are polite	"	السَيِّدَاتُ مُهْدَبَاتٌ.	8
This is a beneficial book	النعته Adjective	هَذَا كِتَابٌ مُفِيدٌ مبتدا، موصوف صفت مل كر خبر - جملة اسمية	9
I read a beneficial book	"	قَرَأْتُ كِتَابًا مُفِيدًا فعل ماضى ضمير مستتر فاعل، موصوف صفت مل كر مفعول به - جملة فعلية	10
I looked in a beneficial book	"	نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ مُفِيدٍ فعل ماضى ضمير مستتر فاعل، جار، موصوف صفت مل كر مجرور - جملة فعلية	11

This [Qur'an] is a clear statement to [all] the people	إِسْمَاءُ الْإِشَارَةِ Demonstrative Pronoun	هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ	12
These are two adversaries who have disputed over their Lord	"	هَذَيْنِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ	13
He said, "Indeed, these are my guests, so do not shame me.	"	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ	14
This is Allah's Camel	"	هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ	15
These two women	"	هَاتَانِ امْرَأَتَانِ	16
These women	"	هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ	17
That is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah	"	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	18
Those two books	"	ذَٰلِكَ الْكِتَابَانِ	19
And those are the ones who are successful	"	وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	20
That is [merely] their wishful thinking	"	تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ	21
Those two notebooks	"	تَانِكَ الْكُرْسَاتَانِ	22
Those women	"	أُولَٰئِكَ النِّسَاءُ	23
[All] praise is [due] to Allah, who has sent down upon His Servant the Book	الاسم الموصول Relative Pronoun	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ	24
And the two who commit it among you	"	وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمَا مِنْكُمْ	25

Those who are constant in their prayer	"	اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ	26
And fear the Fire, which has been prepared for the disbelievers.	"	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	27
Those two women who are cleaning the house	"	الْإِمْرَأَتَانِ اللَّتَانِ تَنْظِفَانِ الْبَيْتَ	28
And the women who nursed you And those who no longer expect menstruation	"	وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَالَّتِي يَيْسُنَّ مِنَ الْمُحِيضِ	29
Did the sun rise?	إدوات الاستفهام Particles of Interrogation	أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ؟	30
Did the sun rise?	"	هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟	31
Who is this man?	"	مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟	32
What is in your hand?	"	مَا الَّذِي بِيَدِكَ؟	33
When is the cotton harvested?	"	مَتَى يَجْنِي القُطْنُ؟	34
The Lightning flashed	الجملة الفعلية Verbal Sentence	مَعَ الْبَرْقِ فعل (ماضي) + فاعل = جملة فعلية	35
Ali smelled a rose	الجملة الفعلية (مفعول به) Verbal Sentence (Object)	شَمَّ عَلِيٌّ وَرْدَةً فعل (ماضي) + فاعل + مفعول = جملة فعلية	36
The Fish lives in the water	"	يَعِيشُ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ فعل (مضارع) + فاعل + جار + مجرور = جملة فعلية	37
I listened to the advice	"	سَمِعْتُ النَّصِيحَةَ فعل ماضى ضمير مستتر فاعل + مفعول به = جملة فعلية	38
Take the book	فعل الامر Command Verb	خُذْ الْكِتَابَ فعل امر، مفعول به - جملة فعلية	39

Play with the ball	"	الْعَبُّ بِالْكُرَةِ فعل امر، جار مجرور - جمله فعلية	40
Wash your clothes	"	نَخَلَفُ ثِيَابَكَ فعل امر، مضاف اليه مل كمر مفعول به - جمله فعلية	41
Sleep Early	"	نَمْ مُبَكِّرًا فعل امر، حال - جمله فعلية	42
Be careful in the journey.	"	تَمَهَّلْ فِي السَّفَرِ فعل امر، جار مجرور - جمله فعلية	43
The Crowd was huge	كان وإخواتها Kaana and its sisters	كَانَ الزَّحَامُ شَدِيدًا فعل ناقص، اسم كان، خبر كان	44
The shirt became short	"	صَارَ الثَّوْبُ قَصِيرًا فعل ناقص، اسم صار، خبر صار	45
The servant is not strong	"	لَيْسَ الْخَادِمُ قَوِيًّا فعل ناقص، اسم ليس، خبر ليس	46
The weather became rainy in the morning	"	أَصْبَحَ الْجَوُّ مُمَطَّرًا فعل ناقص، اسم أصبح، خبر أصبح	47
The worker was tired in the evening	"	أَمْسَى الْعَامِلُ مُتْعَبًا فعل ناقص، اسم امسى، خبر امسى	48
The clouds became thick	"	أَضْحَى الْعَمَامُ كَثِيفًا فعل ناقص، اسم اضحى، خبر اضحى	49
It was raining heavily	"	ظَلَّ الْمَطَرُ غَزِيرًا فعل ناقص، اسم ظل، خبر ظل	50
The patient spent the night in pain	"	بَاتَ الْمَرِيضُ مُتَأَلِّمًا فعل ناقص، اسم بات، خبر بات	51
Indeed the camel is patient	إن وإخواتها Inna and its sisters	إِنَّ الْجَمَلَ صَبُورٌ حرف ناسخ، اسم إن، خبر إن	52
I knew that the exam is near	"	عَلِمْتُ أَنَّ الْإِمْتِحَانَ قَرِيبٌ حرف ناسخ، اسم إن، خبر إن	53

The book is like a teacher	"	كَأَنَّ الْكِتَابَ أُسْتَاذٌ حرف ناسخ ، اسم كان ، خبر كان	54
The house is new but the households things are old	"	الْبَيْتُ جَدِيدٌ لَكِنَّ الْأَثَاثَ قَدِيمٌ حرف ناسخ ، اسم لكن ، خبر لكن	55
I wish the fruit become ripe	"	لَيْتَ الْفَاكِهَةَ نَاضِجَةً حرف ناسخ ، اسم ليت ، خبر ليت	56
I hope that the book is cheap.	"	لَعَلَّ الْكِتَابَ رَخِيصٌ حرف ناسخ ، اسم لعل ، خبر لعل	57
Movement strengthens muscles	خبر المبتدأ حين يكون جملة أو شبه جملة Predicate of the Subject when it's a sentence or a phrase	الْحَرَكَةُ تُقَوِّي الْعَضَلَاتِ.	58
A Polite person has a lot of friends	"	الْمُهَذَّبُ أَصْدِقَاؤُهُ كَثِيرُونَ.	59
Honesty gives security and safety	"	النَّجَاهُ فِي الصِّدْقِ.	60
Bridge is above the Nile	"	الْقَنْطَرَةُ فَوْقَ النَّيْلِ.	61
Movement strengthens muscles	خبر المبتدأ حين يكون جملة أو شبه جملة Predicate of the Subject when it's a sentence or a phrase	الْحَرَكَةُ تُقَوِّي الْعَضَلَاتِ.	62
The rain came down from the sky	جر الاسم Genitive Noun	نَزَلَ الْمَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ	63
Where is your house?	المبين والمعرب Fixed and inflective	أَيْنَ مَنْزِلُكَ؟	64
From which place did you come?	"	مِنْ أَيِّ مَكَانٍ جِئْتَ؟	65
How many horses in the ground?	"	كَمْ جَوَادًا فِي الْمَيْدَانِ؟	66
Boys must go	أحوال بناء المضارع Fixed Present Tense	لَيَذْهَبَنَّ الْعِلْمَانُ.	67

Will you not rest O Sa'eed?	"	أَلَا تَسْتَرِيحَنَّ يَا سَعِيدُ؟	68
You are a polite person	الإعراب المحلى	أَنْتَ رَجُلٌ مُهْدَبٌ.	69
I sat to take rest	نصب المضارع بآن المضمره Accusative Present tense with Hidden An	جَلَسْتُ لِاسْتَرِيحَ (لَامِ التَّغْلِيلِ).	70
It is not for a friend to betray a friend	"	مَا كَانَ الصَّدِيقُ لِيَخُونَنَّ صَدِيقَهُ (لَامِ الْجُودِ)	71
Listen to the advice of the doctor to complete your cure	"	اسْتَمِعْ نَصِيحَ الطَّيِّبِ أَوْ يَتِمَّ شِفَاؤُكَ (أَوْ).	72
The child is not praised until he pleases his parents.	"	لَا يُمَدِّحُ الْوَالِدُ حَتَّى يَنَالَ رِضًا وَالِدِيهِ (حَتَّى).	73
The messenger went and did not return yet	جوازم الفعل المضارع Jussive Present tense	ذَهَبَ الرَّسُولُ وَمَا يَعُدُّ.	74
To avoid excessive joking	"	لِيَجْتَنِبَ كَثْرَةَ الْمُزَاحِ.	75
Whoever eats excessively he will suffer from indigestion	"	مَنْ يُفْرِطُ فِي الْأَكْلِ يُنْجَمُ؟	76
The money which you save will benefit you	"	مَا تَدَّخِرُ مِنْ مَالِكَ يَنْفَعُكَ.	77
I want to swim better	نصب الفعل المضارع Accusative Present Verb	أُرِيدُ أَنْ أَحْسِنَ السِّبَاخَةَ	78
The Lazy person will not be successful	"	لَنْ يَفُوزَ الْكَسَلَانُ حرف توكيد، فعل مضارع، فاعل - جمله فعلية	79
I came to learn	"	جِئْتُ كَيْ أَتَعَلَّمَ	80
So you can stay with us	"	إِذَنْ تُقِيمَ عِنْدَنَا (تجيب بذلك من قال سأزور مدينتكم)	81

Do not increase in your laughter	هزم الفعل المضارع Jussive Present Verb	لَا تُكْثِرُ مِنَ الضَّحِكِ فعل نهى، جار مجرور – جمله فعلية	82
Muhammad did not memorize his lesson	"	لَمْ يَحْفَظْ مُحَمَّدٌ دَرْسَهُ حرف جازمه، فعل مضارع مجزوم، فاعل، مضاف مضاف اليه مل كر مفعول به – جمله فعلية	83
If you sit in the air duct you will get sick	"	إِنْ تَجْلِسَ فِي مَجْرِيِّ الْهَوَاءِ تَمْرَضُ	84
In the shelf there is a book	التكررة والمعرفة Definite and Indefinite	فِي الدُّنْجِ كِتَابٌ	85
The camel sat	الضمير المستتر Hidden Pronoun	الجمال بَرَكَ	86
Do good to those who do good to you	من	أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ	87
Do not eat what your stomach is unable to digest	ما	لَا تَأْكُلْ مَا لَا تَسْتَطِيعُ هَضْمَهُ	88
The door opened	نائب الفاعل Deputy Subject	فُتِحَ البَابُ	89
The horse is ridden	"	يُرَكَبُ الحِصَانُ	90
The heat is still severe	أفعال الاستمرار الناسخة و "ما دام" Verbs which indicate continuity	مَا زَالَ الحَرُّ شَدِيدًا.	91
The patient is still sleeping	"	مَا بَرِحَ المَرِيضُ نَائِمًا.	92
The Judges have continued to be fair	"	مَا انْفَكَ القُضَاةُ عَادِلِينَ.	93
You will be respected until your character is good	"	تُحْتَرَمُ مَا دَامَ خُلُقُكَ كَرِيمًا.	94
Who created the skies and the earth	المفعول به Object	مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟	95

Hasan played a good play	المفعول المطلق Absolute Object	لَعِبَ حَسَنٌ لَعْبًا.	96
The train passed like the passing of the clouds	"	مَرَّ القَطَارُ مَرَّ السَّحَابِ.	97
Ali ate two morsels	"	أَكَلَ عَلِيٌّ أَكْلَتَيْنِ.	98
A Muslim fasts to obey his Lord	المفعول بأجله / المفعول له Object for a reason	يَصُومُ المُسْلِمُ طَاعَةً لِربِّهِ	99
He lived in Alexandria for a month	المفعول فيه / ظرف الزمان و ظرف المكان Adverb	مَكَثْتُ بِالإِسْكَندَرِيَّةِ شَهْرًا.	100
I stood in front of the mirror	"	وَقَفْتُ أَمَامَ المِرْآةِ.	101
So resolve upon your plan and [call upon] your associates	المفعول معه Maf'ool Ma'ah	فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ.	102
The patient was in pain	خبر النواخ حين يكون جملة أو شبه جملة Khabar of the incomplete verb when it's a phrase or a sentence	كَانَ المَرِيضُ يَتَأَلَّمُ.	103
Indeed the boy, his honour is in good manners	"	إِنَّ الوَلَدَ زَيْنَتُهُ الأَدَبُ.	104
It pleases me that you give charity	الصدر المؤوَّل من إن والفعل Masdar Muawwal	يُسرِّبُنِي أَنْ تُصَدِّقَ.	105
The farmer planted the sugarcane	إقسام المتعدى Transitive Verbs	زَرَعَ الفَلَّاحُ القَصَبَ.	106
I saw that reconciliation is the best	"	رَأَيْتُ الصُّلْحَ خَيْرًا.	107
I informed the boys that playing is beneficial	"	أَخْبَرْتُ الغُلَّامَانَ اللُّعَبَ مُفيدًا.	108
The boy told the truth, so the boy is truthful	اسم الفاعل Subject Noun	صَدَقَ الغُلَّامُ - فَالغُلَّامُ صَادِقٌ.	109

I drank the milk, so the milk is drinkable	اسم المفعول Object Noun	شَرِبْتُ اللَّبْنَ - فَاللَّبْنُ مَشْرُوبٌ.	110
The friends came except Ali	الاستثنى Exception	حَضَرَ الْأَصْدِقَاءَ إِلَّا عَلِيًّا.	111
I greeted the servants except Sa'eed	"	سَلَّمْتُ عَلَى الْقَادِمِينَ غَيْرَ سَعِيدٍ.	112
The plucked the flowers except the rose	"	قَطَمْتُ الْأَزْهَارَ خَلَا الْوَرْدَ.	113
The army returned victorious	الحال Situation	عَادَ الْجَيْشُ ظَافِرًا.	114
I bought one pound dates	التمييز Tamyeez	إِشْتَرَيْتُ رَطَلًا بِلْحَا.	115
O Salahuddin	المنادى Vocative	يَا صِلَاحَ الدِّينِ.	116
The minister spoke to me himself	التوكيد Stress	حَادَثَنِي الْوَزِيرُ نَفْسَهُ.	117
You are blameworthy, you are blameworthy	"	أَنْتَ الْمَلُومُ أَنْتَ الْمَلُومُ.	118
I became ready for an obligatory act	"	قُمْتُ أَنَا بِالْوَاجِبِ.	119
The peach and the grapes ripened	العطف Conjunction	نَضِجَ الْخَوْضُ وَالْعَنْبُ.	120
I travelled along with the sunrise	واو المعية Waaw Al ma'eyah	سِرْتُ وَطُلُوعَ الْفَجْرِ.	121
Your brother Hasan came	الهدل / Substitute	حَضَرَ أَحْوَكُ حَسَنٌ.	122

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

اعراب القرآن
AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
Aeraab ul Quran

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)

الرَّحِيمِ	الرَّحْمَنِ	اللَّهِ	بِسْمِ
صفة مجرورة	صفة مجرورة	لفظ الجلالة مجرور	جار ومجرور


الاعراب: "بسم" الباء حرف جر، "اسم" اسم مجرور بالكسرة. والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، تقديره: ابتدائي كائن بسم الله، وجملة التقدير ابتدائية. "الرحمن الرحيم" صفتان مجرورتان بالكسرة.



(2) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَرَبِّهِ صَلَّى / خ فِيهِ / خ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (سورة البقرة: 2)


ذَلِكَ	الْكِتَابُ	لَا	رَبِّهِ	فِيهِ
اسم اشارة	اسم مرفوع	نافية تعمل عمل «أن»	اسم منصوب	جار ومجرور

الاعراب: «الكتاب» بدل مرفوع بالضممة، «هدى» حال منصوبة. جملة «لا رب فيه» خبر المبتدأ «ذلك»، الجار «فيه» متعلق بخبر «لا»،



(3) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ..... فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (سورة آل عمران: 19)

إِنَّ	الدِّينَ	عِنْدَ	اللَّهِ	الْإِسْلَامُ
حرف نصب	اسم منصوب	ظرف مكان منصوب	لفظ الجلالة مجرور	اسم علم مرفوع
إِنَّ	اللَّهِ	سَرِيعُ	الْحِسَابِ	
حرف مشبهة بالفعل	لفظ الجلالة منصوب	اسم مرفوع	اسم مجرور	



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

معلم گائیڈ
AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
Mualim Guide

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



معلم گائیڈ

مقدمہ

کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا طریقہ استعمال جاننا ضروری ہوتا ہے۔

اس کتاب میں جو "معلم گائیڈ" کے نام سے موسوم ہے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآنک عربک گرامر کورس کس طرح پڑھایا جانا چاہیے۔ قرآنک عربک گرامر کورس چونکہ کم سے کم وقفہ میں پڑھایا جانے والا کورس ہے اور اس کے پڑھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے جو عام طریقوں سے تھوڑا سا مختلف ہے اس لیے اسے سمجھانے کے لیے اس کتاب یعنی معلم گائیڈ کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ ہر ایک اس کورس کو کامیاب طریقے سے پڑھا سکے۔

معلم گائیڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے نہ صرف قرآنک عربک گرامر کورس بلکہ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے کورس کو پڑھانے میں مدد لی جاسکتی ہے اور یہ کتاب اس مادے میں مکمل رہنمائی کرے گی۔ ان شاء اللہ۔

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ استاذ کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کس طریقہ سے پڑھانا چاہیے، سبق کو کس طرح گھول کر پلانا چاہیے، طلبہ کی ہمت افزائی کیسے کی جانی چاہیے، کوئی بھی چیز کس طرح یاد کی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔۔۔

اس کتاب میں ہدایات، ٹپس اور رہنمایانہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں جس سے عربک گرامر کورس سیکھنے میں بھرپور مدد ملے گی۔ ان شاء اللہ۔

والسلام علیکم

ارشاد بشیر مدنی

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

1. مقدمہ
2. ہدایات برائے آرگنائزرس
3. ہدایات برائے معلم
 - قبل تدریس
 - وقت تدریس
4. تجاویز برائے یاد دہانی اسباق
5. عربی زبان اور قرآن کی اہمیت
6. اسباق کس طرح پڑھائیں؟

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

- پہلا سبق
 - دوسرا سبق
 - تیسرا سبق
 - چوتھا سبق
 - پانچواں سبق
 - چھٹا سبق
 - ساتواں سبق
 - آٹھواں سبق
 - نواں سبق
 - دسواں سبق
 - گیارہواں سبق
 - بارہواں سبق
7. اعراب القرآن

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Time Table chart .8

ہدایات برائے آرگنائزرس

- ہر طالب علم کو اس کورس کے الحاق سے قبل Eligibility Course روانہ کریں۔
- کلاس روم اور رہائش پذیر کمروں کو چارٹس سے مزین کریں جس کی تفصیل یوں ہے:
- کل پانچ چارٹس ہیں۔

1 . اسماء و حروف

2 . افعال کی مختلف شکلیں

3 . 40 Golden words + اعداد

4 . Main Chart - Arabic Grammar course Chart

5 . Schedule

نصاب کورس (Syllabus)

- ہر طالب کو کورس کی پانچ کتابیں فراہم کریں جس کی تفصیل یوں ہے:
- Eligibility Book کورس شروع ہونے سے پانچ تا دس دن پہلے مل جائے۔
- کورس شروع ہوتے وقت Text Book اور Work Book
- Vocabulary Book اور Memory Time، Conversation Book، Activity Time کے دوران یاد بھی کروایا جائے اور practice بھی کروائی جائے۔
- نوٹ: Vocabulary Book اور Eligibility Conversation Book کے ساتھ بھی دیا جاسکتا ہے اگر student نہ گھبرائے تو۔

مدت کورس

- یہ کورس کم از کم آٹھ دنوں کا ہوگا طلبہ کی سہولت اور آسانی کے مد نظر 16 دن یا 32 دن تک بھی پڑھایا جاسکتا ہے۔
- ہر دس طالب علم پر ایک faculty متعین کیا جائے اور ہوم ورک چیک کرنے کے لئے وقت ضرورت الگ سے اساتذہ کو متعین کیا جائے۔
- نوٹ: آخر یا درمیان میں دو دن دعوتہ ٹریننگ (Da'wah Training) کا انتظام کیا جائے اگر ممکن ہو تو۔

ہدایات برائے معلم

قبل تدریس

تدریس سے قبل ہر معلم کو چاہیے کہ:

- 1 . کورس کا مقصد جان لے اور وہ یہ ہے کہ طلبہ میں فہم قرآن، فہم نماز و اذکار، روزمرہ زندگی کی 50% عربی کی جانکاری، اعتراضات کے جوابات کی اہلیت و صلاحیت پیدا کرنا۔
- 2 . کورس میٹریل کی اسٹڈی (مطالعہ)

3. طریقہ تدریس سے واقفیت (ذہن سازی - Enquiry Method میں تدریس کی تربیت - ٹارگٹ کی جانکاری - خوشخبری)۔
4. memory time, fun learning اور دیگر activities کی جانکاری اور اسکا ادارک -
5. اخلاص اور اتباع پر کچھ معلومات کا حصول -
6. با مقصد زندگی کے اصول اور کچھ واقعات کی جانکاری اور مطالعہ -
7. ہمت افزائی کے متعلق سلف کے واقعات جیسے رمیصاء کا واقعہ -
8. lesson plan اور work plan کی اچھی تیاری -

وقت تدریس

دوران تدریس مندرجہ ذیل نکات پر خوب توجہ دیں

1. کورس میٹیریل کا تعارف کرائیں۔
 2. مقصد بتایا جائے: فہم قرآن، فہم نماز و اذکار، روز مرہ زندگی کی 50% عربی، رد اعتراضات۔
 3. کورس کا مقصد واضح کر دیا جائے کہ آنے والے رمضان میں فہم قرآن کی طاقت پیدا ہو، فہم نماز اور اعتراضات کے جوابات اور کچھ گفتگو کی طاقت پیدا ہو۔
 4. استاذ صرف convey کرنے والا نہ بنے بلکہ facilitator اور mentor بنے، قدم قدم پر ان کی پریشانیوں کو دور کرے جیسے کہ car driving school میں بازو بیٹھ کر قدم قدم پر مدد کی جاتی ہے۔
 5. معلم کو چاہیے کہ اس کورس اور اسباق کی تفصیل کو جانیں کہ اس کورس کے 11 سبق ہیں۔ اگر آٹھ دن کا کورس ہو تو ہر روز دو سبق پڑھائے جائینگے۔ اس طرح 6 دن میں 11 سبق ختم کیے جاسکتے ہیں اور آٹھ دن میں پہلا دن اور آٹھواں دن طلبہ کی رعایت کے لیے رکھا جاسکتا ہے۔
 6. پہلا دن: طلبہ اگر Eligibility یاد کر کے نہ آئیں تو پہلے اس کو یاد کروایا جائے، یاد کرنے کے Tips دیے جائیں۔ بچہ پہلے حفظ قرآن کرتا ہے بعد میں عالم کورس، اسی طرح اگر Eligibility کو یاد کر لیں تو آگے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے کا سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
 7. آخری دن تیاری اور مظاہرہ کا دن ہوگا جس میں Exam کا مرحلہ بھی ہے، تیاری بھی ہے، خلاصہ بھی ہے، Revision سات دن کا اور Public کے سامنے Show اور Presentation بھی ہے۔
 8. اس کورس کو پڑھانے کا خاص طریقہ ہے اور اس میں چار اہم باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے
- پہلا یہ کہ ذہن سازی: یعنی طلبہ و طالبات کی خوب ذہن سازی کی جائے اور ایسی ہمت پیدا کی جائے جس سے اس کورس کا پڑھنا ان کے لئے آسان ہو جائے
 - دوسرا یہ کہ Enquiry Method میں پڑھایا جائے، (جیسے کہ طالب علم سے پوچھا جائے کہ ضَرْبُ (مارنا) اور اَكْلُ (کھانا) یہ Verb ہے یا اسم؟ اکثر لوگ اس کو Verb کہیں گے کیونکہ انگریزی میں Action کو Verb کہتے ہیں جبکہ عربی میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے)۔ اس طریقہ سے طلبہ کا ذہن کھلتا ہے اور فہم کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ دلچسپی اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔
 - تیسرا یہ کہ روزانہ ٹارگٹ دے کر پڑھایا جائے تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا ہو اور وقت پر کورس ختم ہو جائے اور ٹارگٹ تک پہنچنے کے لئے خوب محنت کریں اور اس کے حصول کے لئے کوشاں رہیں۔
 - چوتھا یہ کہ طلبہ کو بار بار خوشخبری دے کر ان کے شوق میں اضافہ کیا جائے۔ (بشیراً و نذیراً)

1. یاد رہے یہ بارہ سبق والا کورس ہے۔ ہر سبق کو سمجھانے کے لیے 3 سیشن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سیشن 6:30 سے 8:30 تک کا ہے۔ نمازِ فجر اور اذکار کے بعد کا وقت چونکہ Fresh ٹائم ہوتا ہے، پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اس لیے theory class 8:30 تا 11:00 breakfast+ relax time+ H.W کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کرسیوں پر بیٹھ کر بور نہ ہو جائیں اور Refresh ہو جائیں۔ انہیں رہائشی جگہ میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ تہجد سے اٹھے ہوتے ہیں اس لیے یہ وقت سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تاکہ وہ آئندہ کلاس کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ 11:00 تا 1:00 پھر کلاس ہوگی۔

2. معلم کو چاہئے کہ ہوم ورک چیک ہونے کے درمیان memory time, fun learning اور دیگر activities کے لیے وقت استعمال کیا جائے۔ تاکہ طلبہ کو قرآنی گرامر سیکھنا باعث خوشی اور شوق ہو جائے۔

3. vocabulary یاد دلانے اور conversation پر مشق کرانے کے لیے Stage کا بھرپور سہارا لیا جائے۔

4. بار بار طلبہ کو چارٹ کی طرف توجہ دلائیں اور اس کی سمجھ اور آسانی کے تعلق سے فکر مند رہیں۔

5. معلم کو چاہئے کہ یہ تین اصول بچوں کے ذہن نشین کرادیں: 1- اخلاص اور اتباع، 2- ہر وقت موقع بموقع رحمان کی پناہ میں آنا اور شیطان سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں، 3- یہ کورس Magic نہیں محنت کا نام ہے۔ محنت کے لیے تیار ہو جائیں۔

6. طلبہ میں ان اصولوں کو پیوست کیا جائے

ان اصولوں کو ذہن میں رکھا جائے:

I listen I forgot, I see I remember, I practice I learn, I teach I master.

7. استاذ اور شاگرد میں interactive method زیادہ مناسب ہے۔

8. استاذ کا (teaching plan) lesson plan تازہ رہے، student کے لیے (work plan) learn plan تازہ رہے۔

9. معلم کو چاہئے کہ طلبہ کی جانچ کرتے رہیں اور ان کی عقل و فہم کا امتحان لیتے رہیں اور بعض اوقات سنانے والوں کے اعتماد کو CONFUSE کرتے رہیں تاکہ عقل و ادراک میں اضافہ ہو اور اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

10. معلم کو چاہئے کہ کورس یا سبق کو شروع کرنے سے پہلے ان امور کی اچھی تیاری کر لے:

• کوئی بھی تشبیہی و قربانی والا واقعہ یاد کر لے جیسا کہ رمیصاء رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔

• lesson plan اور work plan کی اچھی تیاری کر لے۔

• یاد کرنے کے tips یاد کر لے اور وقتاً فوقتاً طلبہ کو بتاتا رہے۔

• اپنی معلومات کو وسیع کرے اور کلاس کو دلچسپ بنائے۔

• عربی زبان کی اہمیت خوب جان لے اور اس کے دنیاوی و اخروی فائدے سے آگاہ ہوتا کہ طلبہ میں ان دونوں چیزوں کی آبیاری کی جاسکے اور سیکھنے پر ہمت افزائی کی جائے۔

• اخلاص اور اتباع پر کچھ معلومات حاصل کرے اور اس کی نصیحت بار بار کرے۔

• با مقصد زندگی کے تعلق سے صحابہ کرام کی مثالیں ذہن نشین کر لے اور طلبہ کو بتاتا رہے۔

کل آٹھ دن ہوں تو پہلا دن Eligibility کو پختہ کرانے میں لگائیں۔ اور آخری دن طلبہ کے مظاہرے کا رہے گا۔ اب درمیان کے چھ دنوں میں کس طرح پڑھایا جائے آئیے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔
نوٹ: یاد رہے ہر دن دو سبق پڑھائے جائیں گے۔

پہلا دن - پہلا سبق

پہلا سبق حروف تہجی سے شروع کیا جائے تاکہ اگر کلاس میں کوئی reverts یا عربی نہ پڑھنے والے ہوں تو وہ بھی ایک رنگ میں رنگ جائیں۔ حروف تہجی کے ساتھ حرکات کی بھی پہچان کرا دی جائے۔ ص: 7 پر ہر حرف تہجی مختلف حرکات کے ساتھ کیسے pronounce ہوتا ہے بتایا گیا ہے۔ ممکن ہو تو ایک سافٹ ویئر (Software) بتایا جائے جس میں حروف کیسے بنتے ہیں بتایا گیا ہو۔

پہلے سبق میں یاد رکھنے کی چیزیں:

Students کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ وہ کلاس میں موجود چارٹس کو بار بار دیکھتے رہیں۔ اور mobile میں download کیے گئے اس کورس کے مواد کو بار بار سنتے رہیں۔

- استاذ کی ذمہ داری ہے کہ Inspire کرتا رہے تاکہ عربی سیکھنے کا شوق بڑھتا رہے کیونکہ شیطان دور کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ مختلف دعائیں پڑھتے رہیں۔ اللہ کی پناہ شیطان سے پناہ لیتے رہیں، دعا کریں کہ اللہ یہ زبان آسان کر دے تاکہ فہم قرآن کے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں۔
- پہلا سبق دیکھنے میں بڑا لگے گا لیکن Eligibility میں چونکہ یہ سب چیزیں آچکی تھیں اس لیے بالکل آسان ہو جائیں گی۔
- جب آپ Arabic Course Chart پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو بخوبی پتا چلے گا کہ اس میں 9 سیڑھیاں ہیں۔ طلبہ کے سامنے ٹھہر کر اس کا تعارف کرایا جائے۔ اور طلبہ کو بتایا جائے کہ ان سیڑھیوں کو تین مرحلوں میں پار کرنا ہے:

1. LETTERS 2. WORDS 3. SENTENCE.

- یہ کورس مادری زبان سیکھنے کا جو فطری طریقہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔
- بچے Letters سے بات کرنے کا آغاز کرتا ہے (مثلاً: ا، م، ب وغیرہ)، اس لیے آپ کو پہلی اور دوسری سیڑھی حرکات و سکنات کی ملے گی۔
- Letters کے بعد بچے words کی دنیا میں قدم رکھتا ہے (جیسے: ابا، امی وغیرہ)، ابھی مکمل جملہ ادا نہیں کر پاتا۔
- Words کے بعد بچے جملے ادا کرنے لگتا ہے۔
- دو سیڑھیاں Letters سے متعلق ہیں، اس کے بعد مسلسل word کی پہچان مختلف طریقے سے کرائی گئی ہے، جیسے لفظ معارفہ بھی ہوتا ہے نکرہ بھی، مؤنث اور مذکر بھی، مفرد، ثننیہ اور جمع بھی۔ word کو کئی شکلوں میں سمجھایا جائے۔ کیوں؟
- اس لیے کہ enquiry method بہترین طریقہ تعلیم ہے۔

- اب enquiry کی جائے کہ مفرد، ثننیہ، جمع، مذکر، مؤنث، معارفہ، نکرہ وغیرہ کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب کا انتظار کیا جائے۔
- بتایا جائے کہ عربی زبان اتنی sensitive ہے کہ جملہ بناتے وقت ان سب باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث وغیرہ۔

Best طریقہ یہ ہے کہ پڑھانے سے پہلے Target دیا جائے کہ کل کے دن آپ کو اپنے ہاتھ سے عربی میں جملے بنانا ہے جس کے لیے آپ کو word سمجھنا ہے۔

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

- پوچھا جائے کہ نویں سیڑھی کے بعد دسویں سیڑھی کیا ہے؟
- آپ کیسے کہ دسویں سیڑھی stage پر ٹھہر کر جملے بولنا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
- اس طرح ان کو target ملے گا۔ ٹارگٹ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے گول ہونے سے فٹبال میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔
- مین چارٹ سمجھانے کے بعد text book کھولیں۔
- پوری عربی گفتگو دو طرح کے sentence سے بنتی ہے :- 1- جملہ اسمیہ 2- جملہ فعلیہ
- اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔
- اس لحاظ سے جملے سمجھنے کے لیے پہلے اسم کیا ہے فعل کیا ہے جانے۔
- ان کو جوڑنے کے لیے اور تکمیل کرنے کے لیے مختلف قسم کے حروف آتے ہیں ، اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔
- اس طرح اسم ، فعل اور حرف جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔
- اب تک جسے "word" کہا جا رہا تھا عربی میں اس کو "کلمہ" کہتے ہیں۔
- کلمہ کا definition کے بجائے بہترین طریقہ یہ ہے کہ student کا enquiry mind بنایا جائے۔
- مثال کے طور پر بورڈ پر "رجل" لکھ دیا جائے اسی طرح "نصر" اور "علی" بھی۔ اس کے بعد طلبہ سے پوچھا جائے کہ ان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے۔
- رجل: آدمی، نصر: اس نے مدد کیا، علی: پر
- اسے کہتے ہیں enquiry mind ، سوال کیا جانا چاہیے۔
- یہ بات طے ہے کہ آدھے سمجھیں گے آدھے نہیں ، مگر کلاس میں ہلچل پیدا ہوگی، نیند بھاگ جائے گی، اس طرح یاد بھی ہو جائے گا۔
- صرف کتاب کا definition پڑھانے سے کلاس میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، ان کے دماغوں میں سوال کھڑے کر دیے جائیں تو۔۔۔
- کچھ جواب نہ بھی دیں تو ایک دوسرے سے سنتے سنتے اخذ کر لیں گے۔
- اس کے بعد بتایا جائے کہ :
- جس میں sensible معنی ہو زمانہ نہیں وہ اسم ہے۔ (رجل کے سامنے اسم لکھ دیا جائے)
- یا پوچھا بھی جاسکتا ہے کہ ان تینوں میں کونسا اسم ہے، جس میں معنی ہے زمانہ نہیں۔
- دوسرا جس میں sensible معنی بھی ہو اور زمانہ بھی وہ فعل ہے۔
- تیسرا جس میں sensible معنی اور زمانہ نہ ہو وہ حرف ہے۔
- امید کہ اس طرح بہت سے طلبہ سمجھ جائیں گے۔
- اس کے بعد رجل کے سامنے اسم ، نصر کے بعد فعل، علی کے بعد حرف لکھ دیا جائے۔
- اس کے بعد طلبہ سے کہیں کہ پوری ڈکشنری انہی تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جو بھی Word آپ کو عربی میں ملے گا وہ اسم ، فعل یا حرف ہوگا۔ تھوڑا Confusion ہو بھی تو آگے آپ کثرت استعمال سے سمجھ جائیں گے۔
- طلبہ کو بتایا جائے کہ اسم فعل حرف کو جاننے کا ایک اور طریقہ ہے:

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

1 . معنی کو دیکھ کر سمجھا جاسکتا ہے۔

2 . عمومی طور پر یہ طریقہ بھی کام آتا ہے وہ یہ کہ : کسی بھی ورڈ کے آگے "ال" یا آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم ہوگا فعل نہیں۔

3 . حروف چونکہ تھوڑے ہی ہیں اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو حروف جر کے بعد آنے والے اسم ہی ہوتے ہیں ، اس طرح Confusion نہیں رہتا کہ اسم ہے یا فعل ۔ یعنی بغیر معنی لکھے ہی اسم سمجھ میں آجاتا ہے۔

4 . چالیس Golden ورڈس اگر آپ یاد کر لیتے ہوں تو عمومی طور پر اس Pattern پر جو بھی ورڈ نظر آئے تو وہ فعل ہوگا۔ اس طرح معنی یا شکل دیکھنے سے پہچان ہوتی ہے۔

جب اتنے طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے تو طلبہ سمجھ ہی جائیں گے۔

5 . اسم کا آخری ورڈ عمومی طور پر زیر ہوتا ہے اور فعل کے آخر میں جزم۔

• بورڈ پر مختلف قسم کے اسم لکھے جائیں جیسے : مریم، الجمل، مکہ ، قلم۔

• طلبہ سے پوچھا جائے یہ سب اسم تو ہیں مگر ان میں کیا فرق ہے؟ طلبہ سے انکواری کی جائے، امید کہ کچھ طلبہ فرق بتائیں گے۔

• جیسے "مریم" میں انسان کا معنی چھلک رہا ہے، "الجمل" کو دیکھ کر کہیں گے کہ جانور ہے، "مکہ" جگہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ "قلم" کسی چیز کا معنی نظر آ رہا ہے۔ اس طریقہ سے غور کرنے سے اسم کی پہچان ہونے لگتی ہے۔

• Evergreen طریقہ یہ ہے کہ معنی پر غور کر لیا جائے، جس میں معنی اور زمانہ ہو وہ فعل ہے، معنی ہو زمانہ نہ ہو وہ اسم ہے ، معنی اور زمانہ نہ ہو وہ حرف ہے۔

• اب طلبہ سے کہیں کہ text book کھولیں اور ص: 12 پڑھیں۔ جس میں اسم کی مختلف شکلیں نظر آئیں گی۔ ہر ایک طالب علم سے پڑھوایا جائے۔ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ eligibility میں پڑھ لیتے ہوں تو اب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔

• اب آپ نے راز سمجھ لیا ہوگا کہ eligibility لکھنا اہم ہے۔ اور دس دن پہلے کیوں یاد کروایا گیا۔

• اس کورس کی کامیابی کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ eligibility یاد کرنا ضروری ہے۔

• اب آئیے ص: 13 یہاں آپ کو فعل ملے گا۔ بورڈ پر 8 فعل لکھ کر اس کا معنی بتایا جائے۔ Golden Word 40 دہرائے جائیں۔ عقل سے اور

دوسرے افعال سے گردان کرائی جائے۔ ایسے pattern پر آنے والے عموماً فعل ہوتے ہیں۔

• پھر ص: 16 پر ، 17 حروف جر اور اس کے بعد 9 حروف عطف لکھ دیے جائیں۔ یہ دونوں بھی حروف ہی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ انکواری کرائی جائے۔

• پھر ان کو بتایا جائے کہ یہ 17 ایسے ورڈس ہیں جب آتے ہیں تو اپنے بعد آنے والے پر اثر ڈالتے ہیں اور 9 کوئی اثر نہیں ڈالتے ۔

• ایسے بھی کہا جاسکتا ہے : اثر ڈالنے والے حروف اور اثر نہ ڈالنے والے حروف۔

• ان 17 حروف کے بعد اسم آتا ہے ۔ اسم کا جو آخری لفظ ہوتا ہے اس پر زیر آتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے ۔

• کوشش کریں کہ دونوں کے نام بتانے سے پہلے ان کو یاد کرایا جائے ، یاد ہے یا نہیں چیک کریں۔ انہیں تیزی سے یاد دلائیں۔ ایک لڑی میں پورے

یاد دلائیں ورنہ انک جائینگے ، گروپ کی شکل میں یاد دلایا جائے، جو یاد نہیں انہیں اہمیت بتائی جائے کہ قرآن کے ہر صفحہ پر کئی مرتبہ یہ ورڈس آتے

ہیں ، کتنی بڑی بات ہے۔

• طلبہ ایک ایک ورڈ یاد کرنے کے بجائے پانچ پانچ ورڈ کا گروپ بنا کر یاد کریں۔ "ب ت ک ل و" پھر پانچ "منذ، مذ ، خلا، رب، حاشا" پھر دو مجموعوں

کو ملا کر رٹنے کے لیے کہا جائے۔

اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ نظمیں انداز میں یاد کرایا جائے اور کوئی ایک نظم سے جوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو درمیان میں "و" لگانا پڑے گا۔ جیسے:

حروف جر: باء و تاء و کاف و لام و واو و منذ و منذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی
حروف عطف: أما إما ثم او حتی ام اذا و فا اذا و فا اذا و فا

اس کے بعد کلاس ورک دیا جائے۔

لفظ بلفظ قرآن کا ترجمہ اس کورس میں طلبہ کو لانا ضروری ہے تاکہ ہر سبق سمجھنے میں آسانی رہے۔

ص: 19 پر کلاس ورک ہے، سورۃ الفاتحہ دے کر کہا جائے کہ اسم فعل حرف کو الگ کیا جائے پہچان کر۔

اس کے بعد ہوم ورک دیا جائے، ہوم ورک کے ذریعہ سے لکھنے کی عادت پڑھتی ہے۔

ص: 4 پر سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیتوں سے اسم فعل حرف کی پہچان ہونے لگتی ہے۔

ص: 6 پر سورۃ الاعلیٰ میں اور پہچان ہونے لگتی ہے۔ ص: 6 حروف جر اور حروف عطف میں زیر پر غور کرنے سے اور اچھی پہچان آنا شروع ہو جاتی ہے۔

ص: 7 سورۃ الغاشیۃ حل کرنے پر اسم فعل حرف کی چکی پہچان ہو جاتی ہے۔

خوش خبری

خوش خبری دی جائے کہ آپ نے صرف حرف جر اور حروف عطف سمجھ لیا تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے ہر صفحہ کے 5 ورڈ کی گرامر بتا سکتے ہیں۔

مثلاً: یہاں جو "واد" ہے وہ حرف عطف ہے۔ یہاں جو "علی" ہے وہ حرف جر ہے۔

طلبہ کو فارغ وقت میں یہ Activity دی جائے کہ سبق: 1 کا کوئی بھی چارٹ بنا کر لائیں، وہ sticky board پر لگایا جائے گا۔ جیسے اسم کا چارٹ،

فعل کا چارٹ، حرف کا چارٹ وغیرہ سکچ کے ذریعہ سے بنایا جائے۔ sticky board کا بھر پور استعمال کیا جائے۔ کسی بھی سبق میں sticky board

کا ہوم ورک دینا نہ بھولیں۔

آرگانائزر کو چاہیے کہ وہ بھاری مقدار میں چارٹس اور سکچ تیار رکھیں۔

طلبہ سے کہا جائے کہ وہ اپنی طرف سے creativity کر کے نئے چارٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔

یاد رہے یہ بارہ سبق والا کورس ہے۔ ہر سبق کو سمجھانے کے لیے 3 سیشن میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا سیشن 6:30 سے 8:30 تک کا ہے۔ نماز فجر اور

اذکار کے بعد کا وقت چونکہ Fresh نام ہوتا ہے، پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اس لیے theory class ہوگی۔ 8:30 تا 11:00 breakfast+ relax

time+ H.W کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کرسیوں پر بیٹھ کر بور نہ ہو جائیں اور Refresh ہو جائیں۔ انہیں رہائشی

جگہ میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ تہجد سے اٹھے ہوتے ہیں اس لیے یہ وقت سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تاکہ وہ آئندہ کلاس کے لیے تازہ دم

ہو جائیں۔ 11:00 تا 1:00 پھر کلاس ہوگی، ہر دس پر ایک faculty جو بنایا گیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہوم ورک چیک کریں یا ہوم ورک چیک

کرنے کے لیے الگ سے دو عالم مقرر کیے جائیں۔

نوٹ: طلبہ چاہے 70 ہوں یا 100 ہوں یا 200 ہر دس پر faculty رہے تو طلبہ پر توجہ بنی رہے گی۔

ہوم ورک چیک ہونے کے درمیان memory time, fun learning اور دیگر activities کے لیے وقت استعمال کیا جائے۔ اس میں vocabu-

lary treasure سے 100 اسباق قرآن اور 100 افعال قرآن یاد کرائیں جائیں۔ Arabic conversation کرایا جائے۔ سٹیج پر دو کا گروپ بلا کر

کنورزیشن کرنے کے لیے کہا جائے۔ اور کلاس میں گروپ بنا کر اساتذہ محنت کریں vocabulary اور conversation یاد کراتے رہیں۔ ہر دن سٹیج پر بلا کر conversation کرایا جائے۔

نوٹ: مادری زبان کے فطری طریقے کو سامنے رکھ کر یہ کورس چونکہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بچے کو دیکھا گیا کہ وہ ماحول میں گفتگو سن کر بولنے لگتا ہے۔ ہندوستان میں عربی ماحول نہ ہونے سے کوئی عربی ٹھیک بول سکتا نہیں۔

• Simple formula ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں لکھایا پڑھایا جاتا ہے لیکن بات نہیں کی جاتی ہے تو طلبہ لکھنے پڑھنے کے قابل تو ہو جاتے ہیں لیکن بولنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

• 11 تا 1 کے درمیان اس کورس کا Conversation اور Vocabulary آڈیو سنانا نہ بھولیں بلکہ ان کے موبائل میں ڈال کر دیں تاکہ وہ بار بار سنتے رہیں۔

• اس لحاظ سے پہلا سبق تین حصوں پر مشتمل ہوا۔

• theory time = 8:30 تا 6:30

• breakfast + H.W + relax 11:00 تا 8:30

• H.W check+ activity time + memory time 1:00 تا 11:00

نوٹ: طلبہ کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ چارٹس کو بار بار دیکھتے رہیں اور خصوصاً مین چارٹ کو دیکھتے رہیں تاکہ ٹارگیٹ واضح رہے۔

پہلا دن - دوسرا سبق

• 3:00 تا 4:30 دوسرے سبق کی theory لی جائے۔

نوٹ: یاد رہے جب بھی آپ theory لیتے ہیں طلبہ کو نام اور definition میں ہرگز نہ پھنسائیں۔ کیونکہ یہ فطری طریقہ پر کورس بنایا گیا ہے اس لیے کہ بچے دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں کے بارے میں خود سوال کر کے معلوم کر لیتا ہے۔ اس طرح پہلے concept بتایا جائے بعد میں نام اور definition سمجھایا جائے۔

• یہ سبق دیکھنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے، ص: 23 تا 65 تک دوسرا سبق ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ Eligibility میں جو 40 Golden Words ہیں وہ یاد کر لینے کے بعد اسی میں انہیں پہنانا ہے۔

(انہیں مضارع اور امر و نہی کے بنانے کا طریقہ ابھی بتایا نہیں گیا)

• انہیں پہنانے کی کوشش کرائی جائے، غلطی کریں تب بھی کوئی بات نہیں۔ دسویں سبق میں وضاحت آئے گی۔

• چالیس کو چار سو میں convert کرنا بتائیں، عمومی طور پر pattern بدلتا نظر نہیں آئے گا۔

• دوسرے سبق میں بورڈ کے پاس نہ ٹھہریں بلکہ جہاں چارٹ ہے وہاں ٹھہر کر پڑھائیں۔

• طلبہ کو اس چارٹ سے مانوس کر دیں۔ اور یہ خوش خبری دی جائے کہ تم نے تو صرف چالیس ورڈ یاد کیے تھے لیکن یہ چار سو کس آسانی سے آپ

بتانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ طلبہ محسوس کریں کہ کوئی بھی ورڈ دیا جائے وہ چار سو کریں گے۔

• تبدیلیاں: کبھی "ما" آرہا ہے کبھی "سین" کبھی "سوف"، کبھی زیر زبر جزم ہو رہا ہے۔ لیکن عمومی طور پر Pattern وہی رہے گا۔

- طلبہ اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ چالیس ورڈ یاد کر لینے سے چار سو ورڈ بنانے پر گرفت حاصل ہو رہی ہے۔
- طلبہ سے کہا جائے اپنی Vocabulary Book نکالیں اور 100 افعال سے ہر ایک کے چالیس ورڈس بنائیں۔
- اس مختصر کورس میں تبدیلیوں کی وجہ بتلانے کے بجائے وہ صرف تبدیلیوں کو catch کر لیں تو بہتر ہے۔ آگے بڑھ کر بڑے کورس یا self study سے وجہ معلوم ہو جائے گی۔ (حیات باقی تو کام باقی۔ ان شاء اللہ)
- زبر زیر کی غلطی ہو سکتی ہے، طلبہ کو غلطی کرنے کا خوب موقع دیا جائے تاکہ سیکھ سکیں، اسے کہتے ہیں Enquiry یا Self Correct Thinking method۔ بس ان کے ذہن کو کام پر لگایا جائے۔
- آپ نے روز مرہ کی زندگی میں دیکھا ہو گا کہ چنے کھانے کے لیے بھگنے دیا جاتا ہے۔ ایک معنوں میں افعال کی تبدیلیاں ابھی جو بتائی جا رہی ہیں یہ چنے بھگانے کے مترادف ہے۔ 11 اور 12 سبق میں یہ بھگنے چنے کام آئیں گے۔ ان شاء اللہ۔

خوش خبری:

ان سے کہا جائے کہ چالیس word کے ذریعہ انجانے words کو ان میں ڈھالنا آپ سیکھ گئے۔

4:30 تا مغرب :

نماز عصر، Swimming, Games, Relax , H.W، نماز مغرب
یہ ہوم ورک طلبہ کو بھاری گزرے گا لیکن مقصد حل کروانا نہیں قریب کروانا ہے۔ ذہنی طور سے آگے بڑھے گا۔

مغرب سے ایک تا دو گھنٹے :

H.W Check, Activity, Memory Time

Stage پر بلا کر Arabic Conversation کروایا جائے، گروپ بنا کر میموری یاد کرائی جائے، اور قرآن مجید کے مختلف افعال کی گردان کرائی جائے۔
استاذ کو چاہیے کہ قرآن مجید سے مختلف افعال کی مثالیں بیان کریں۔
مختلف افعال کی قرآنی مثالیں sticky board پر لگائی جائیں اور طلبہ کو اس پر غور کرنے لگائیں، افعال کو لال کر دیا جائے۔

دوسرا دن – تیسرا سبق

- بورڈ پر کچھ ورڈ "ال" کے ساتھ اور کچھ بغیر "ال" کے لکھ دیے جائیں۔ طلبہ سے پوچھا جائے دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ تھوڑا سا تقریب فہم، ان میں انکوائری پیدا ہوگی۔
- پھر اس کے بعد معرفہ کی سات قسموں کے ورڈ لکھے جائیں۔ یاد رہے نام اور Definition کا ذکر نہ کریں، جیسے: ابراہیم، ہما ہم، ہو ہما ہم، ذلک۔۔، الذی۔۔، الکتب، کتاب الرجل، یا زید۔

- طلبہ سے پوچھا جائے کہ ان سات میں کیا فرق نظر آرہا ہے، ہم نے یہ کیوں لکھا؟ (Enquiry Mind)، پھر سمجھایا جائے: ایک چیز عام ہوتی ہے اور ایک چیز خاص۔ عربی میں خاص کے لیے یہ سات طریقے ہیں۔
- نام اور definition سے پہلے concept دیا جائے پھر نام اور definition دیا جائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔
- قرآن مجید کی مثالوں کو طلبہ سے پڑھایا جائے۔ اور طلبہ سے پوچھا جائے کہ کونسی قسم کا معرفہ ہے۔ ص: 68 تا 70 سے پڑھایا جائے۔
- نوٹ: آنے والے دو تین سبقوں کا ابھی سے mind بنایا جائے، ٹارگیٹ کلیر کیا جائے، اور مفرد، تثنیہ، جمع کو جاننا کیوں ضروری ہے، مذکر مؤنث کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عربی کے جملے حساس ہوتے ہیں۔
- حروف شمسی اور قمری کی مثالیں بورڈ پر لکھ دی جائیں بغیر نام اور definition کے پھر طلبہ سے پوچھا جائے کہ کیا فرق ہے؟

نوٹ: طلبہ کا بار بار یہ ذہن بنایا جائے کہ معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، مفرد تثنیہ جمع جتنا اچھا سمجھیں گے Sentence بنانے میں آسانی ہوگی کیونکہ جملوں میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ Target دیا جائے، صرف ہوائی یاد کرنا کافی نہ ہوگا۔

- طلبہ سے کہا جائے کہ قرآن سے معرفہ نکرہ پہچاننے کی طاقت پیدا کی جائے۔
- Vocabulary book کھول کر کہا جائے کہ ان میں معرفہ نکرہ کیا ہیں؟
- Word to word Quran کھول کر معرفہ نکرہ کی پہچان کرائی جائے۔
- ص: 71 میں کلاس ورک activity ہے وہ کرائی جائے۔
- 8:30 تا 11:00 کے درمیان ہوم ورک دیا جائے، چارٹس تیار کرنے کے لیے کہا جائے، معرفہ نکرہ کی مثالیں اپنی طرف سے کہیں سے بھی قرآن کھول کر اکٹھا کرنے کے لیے کہا جائے۔
- 11:00 تا 1:00 ہوم ورک چیک کیا جائے، اعادہ کرایا جائے، جو سب سے کامیاب چارٹ ہے اسے sticky board پر لگایا جائے۔
- نوٹ: کلاس ورک اور ہوم ورک اچھی طرح کرایا جائے۔ معرفہ اور نکرہ اچھے طریقے سے ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے۔ کیونکہ یہ turning point ہے۔

دوسرا دن - چوہتا سبق

theory time 3:00 تا 4:30

نماز ظہر اور ظہرانہ سے فارغ ہونے کے بعد

- مذکر اور مؤنث کی پہچان بڑی محنت کے ساتھ کرائی جائے۔ طلبہ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ یہ جملے بناتے وقت آپ کو کام آئیں گے۔ مشابہت اور similarity کام میں آئے گی۔

بغیر کسی مقصد کے بتائیں گے تو وہ بے زار ہو جائیں گے، جس طرح فوجی کو یاد دلایا جاتا ہے۔

- ص: 72 کا چارٹ خود لکھیں یا sticky board پر لگائیں۔ اور مثالوں کے ذریعہ سے پوچھیں کہ کیا فرق نظر آرہا ہے؟ ان میں فرق کرنے کی سوچ اور طاقت پیدا کریں۔ طلبہ جب بتائینگے کہ "ا، اء، ی" کے ساتھ مؤنث سمجھ میں آرہی ہے۔
- طلبہ سے کہا جائے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ پہچان کے علاوہ بنانے میں بھی کام آسکتے ہیں۔
- ساتھ ہی مؤنث کی دو اور قسمیں بھی سمجھائیں۔ وہ یہ کہ علامت کے بجائے معنی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے: اُم، اخت وغیرہ۔
- اور سماعی مؤنث یعنی جو عرب نے کہی، جیسے: نار، حرب، عین، اذن (انسانی اعضاء کے جفت اعضاء)
- آخر میں یہ بھی بتایا جائے کہ مؤنث کی علامت رہ کر بھی مذکر ہوتا ہے۔ جیسے: طلحہ، علامہ، خلیفہ وغیرہ۔

Tip

- اگر تین علامتیں ذہن نشین نہ ہوں تو ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ:
- "ا" کو ربن کی طرح بنادیں، جو عورتیں باندھتی ہیں۔
- "ی" کو اس طرح سمجھا جائے کہ دلہن بیٹھی ہے شرما کر۔
- "اء" چادر بنادیں، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو پہن کر نکلتی ہے۔
- اس طرح symbolized کر کے سمجھایا جاسکتا ہے، کیونکہ مدت کم ہے اس لیے تصویری انداز میں سمجھائیں، اس کے علاوہ بھی logic استعمال کریں۔
- نوٹ: ابھی تک ہم اسم ہی میں چل رہے ہیں، ہمیں اسم اور جملہ اسمیہ سمجھنا ہے اس کے بعد فعل اور جملہ فعلیہ کو سمجھنا ہے۔
- قرآن سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کرائی جائے۔ ان سے بتانے کے لیے کہا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا سمجھ پائے ہیں۔ ص: 74 کلاس ہی میں کرا دیں۔
- Vocabulary سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کرائی جائے۔
- قرآن کے سوروں سے مذکر اور مؤنث کی تقسیم کرائی جائے۔ اسی طرح معرفہ نکرہ کے نام تازہ ہو جائینگے۔

عصر تا مغرب :

Games + Relax + H.W

مغرب تا عشاء:

Memorize + Action + H.W check

- یاد کرنے اور اسٹیج پر آکر conversation کرنے کے لیے کہا جائے تاکہ ڈر نکلے۔ Audio & Video سنایا جائے۔
- ہوم ورک چیک کرنے والوں سے ڈیمو کرایا جائے۔ شوق دلانا نہ بھولیں۔ عربی کی اہمیت بتانا نہ بھولیں۔ چونکہ طلبہ کے اندر سے آہستہ آہستہ شوق جاتا رہتا ہے۔
- آخر میں سورتوں کے معنی بتلا کر مذکر مؤنث وغیرہ پہچاننے لگایا جائے۔ اس طرح شوق بڑھ جاتا ہے، جس طرح تھے سمندر میں موجیں آجاتی ہیں۔ ان شاء اللہ۔
- الغرض دو چیزوں پر زیادہ توجہ دی جائے:
- طلبہ کے شوق اور دلچسپی کو برقرار رکھیں۔

2 . ساتھ ساتھ محنت کرائی جائے۔

• یہ کورس مختصر مدت میں شوق اور محنت کے بغیر مکمل نہیں کیا جاسکتا۔ دعا کریں اور استاذ بھی دعا دے، دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا۔۔۔

Arshad Basheer Madani Notes

تیسرا دن - پانچواں سبق

• طلبہ کو بتایا جائے کہ یہ سبق بہت اہم ہے۔ توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ عام بول چال ہو یا قرآن مجید کے سمجھنے میں یہ بہت کام میں آنے والا سبق ہے۔
• سب سے پہلے چارٹ اتاریں جو ص: 76 پر ہے۔ مذکر اور مؤنث کے مفرد، مثنیہ اور جمع کا چارٹ بنایا جائے۔ definition اور نام بتائے بغیر ان کا enquiry mind جگایا جائے، چاہے آدھا گھنٹہ چلا جائے جلدی نہ کریں، یہاں تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ "مسلم" اصل ہے "ان" اور "ون" بڑھنے سے معنی میں فرق آیا ہے۔

• یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے بعد نام اور definition بتایا جائے۔ (اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو رٹے لگ جاتے ہیں۔)

• یہ وجہ بھی بتائی جائے: جہاں "ان" ہوتا ہے تو کیوں؟ اور "ین" ہوتا ہے تو کیوں؟

• یہ بھی بتایا جائے کہ جمع مؤنث "منفقتاً" کیوں نہیں ہوتا۔ (دو زبر کیوں نہیں آتے)

• ACTIVITY: لفظ بلفظ ترجمہ قرآن سے مفرد، مثنیہ، جمع نکالنے کے لیے کہا جائے۔ یا ان کے پسندیدہ سورۃ سے۔

• پھر ہوم ورک کرنے پر توجہ دلائی جائے۔

• استاذ کو چاہیے کہ مذکورہ چارٹ گردان کی طرح رٹا دیا جائے، امید کہ وہ سمجھ جائیں گے۔

نوٹ: طلبہ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ مفرد، مثنیہ، جمع اسی طرح مذکر، مؤنث اور معرفہ نکرہ کا جاننا

بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جملہ بناتے وقت similarity کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

• جس طرح اردو میں مرد کو عورت کہہ کر جملہ بنایا جائے تو کیا وہ درست ہوگا؟

• Theory class ختم ہونے سے پہلے طلبہ سے کہا جائے کہ حروف جر کے بعد والے اسم پر کیا لگتا ہے؟

• کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف جر کے بعد والے پر جر نظر نہیں آتا۔ بورڈ پر ایسی مثالیں لکھ کر سمجھائیں۔ قرآن میں ایسے لفظ آئے ہیں ان کو

منصرف اور غیر منصرف کہتے ہیں۔

• یاد رہے منصرف اور غیر منصرف یاد نہ بھی ہوں تو بڑا مسئلہ نہیں لیکن علم دینا ضروری تھا۔

تیسرا دن - چھٹا سبق

سبق: 6,7,8 کو ایک ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں۔ اور دہرا دہرا کر پڑھائیں، آخر میں وہ کہیں کہ بس بس بس، سمجھ میں آگیا۔

• اس سبق کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چار قسم کے pattern بورڈ پر لکھے جائیں:

الرجل الکریم، رجل کریم، الرجل کریم، قلم الرجل

• طلبہ سے پوچھا جائے کہ ان چاروں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟

Arshad Basheer Madani Notes

1. دونوں پر "ال" ہے ، 2-دونوں پر نہیں ، 3-پہلے پر ہے دوسرے پر نہیں ، 4-دوسرے پر ہے پہلے پر نہیں ۔
2. ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے معرفہ ، نکرہ ، مذکر ، مؤنث ، واحد ، متنہ ، جمع۔ اب آئیے الفاظ کو جوڑتے ہیں جس سے جملہ بنتا ہے۔ الفاظ کو جوڑنے کی چار صورتیں ہیں ۔ (ابھی نام اور definition نہ بتائیں)۔ عمومی طور پر جملے اس pattern پر آتے ہیں۔
3. یہ سمجھنے کے بعد ص: 80 کے قواعد کو اچھی طرح define کیا جائے۔ نام بھی بتائے جائیں۔
4. ہر قاعدے کے کچھ استثنائیاں ہوتے ہیں ۔ "اقلام طویلہ" میں پہلا جمع دوسرا واحد ہے۔ اس کی وجہ بتائی جائے کہ اس پر قرآن میں کافی آیتیں آئی ہیں ، عرب استعمال کرتے تھے تو قرآن نے ان کا standard باقی رکھا۔

4:30 تا مغرب

H.W + Activities

مغرب تا عشاء

- اب چونکہ جملے سمجھ چکے ہیں conversation میں آسانی ہوگی۔ conversation کے جملے کا اعراب اور conversation کی activity پڑھائی جاتی رہے۔
- ہوم ورک محنت سے کرایا جائے۔ اگر وہ کمزور ہوں تو تھیوری دہرائی جائے۔

چوہتا دن - ساتواں سبق

- پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے۔
- "ال" کا ہی معرفہ معلوم ہے یا دوسرے بھی ہیں؟ اس طرح پھر سے سات قسم کے معرفہ کا revision کرایا جائے۔ مضاف مضاف الیہ خود بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔
- طلبہ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ عربی جملوں کی دو بڑی قسمیں آپ کو شروع میں بتلائی گئی تھیں ۔ ایک ہے جملہ فعلیہ جہاں ہم ابھی نہیں پہنچے ، دوسرا ہے جملہ اسمیہ ، جس کے چار pattern ہم سیکھ رہے ہیں۔ ان چاروں Pattern کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔
- پہلے گروپ کو سمجھنے کی کوشش کریں ۔ "ال" دونوں میں ہے یا دونوں میں نہیں ہے۔ اس وقت بھاری ہورہا ہو تو دلچسپی کے لیے کہا جائے یہ جڑواں بھائیوں کا گروپ ہے ۔ اس گروپ کی دس quality بتائی جائیں۔ ص: 81 کا نقشہ سامنے رکھا جائے اور بتائیں کہ یہ موصوف صفت ہے۔ دوسرا گروپ مبتدا خبر اور مضاف مضاف الیہ کا ہے۔
- یہ نام یاد دلائے جائیں گروپ کی شکل میں :

معرفہ موصوف صفت	نکرہ موصوف صفت مبتدا خبر	مضاف مضاف الیہ
معرفہ موصوف صفت	نکرہ موصوف صفت مبتدا خبر	مضاف مضاف الیہ
معرفہ موصوف صفت	نکرہ موصوف صفت مبتدا خبر	مضاف مضاف الیہ
معرفہ موصوف صفت	نکرہ موصوف صفت مبتدا خبر	مضاف مضاف الیہ

آج کے سبق میں موصوف صفت سمجھانے پر ہی توجہ دیجئے۔

- ہر طالب علم اس نقشہ کو اپنے ہاتھ سے لکھے اور creativity دکھائے، color language میں سمجھائیں اور "ولد صالح" کے اعراب پر گول دائرہ بنایا جائے اسی طرح دیگر تبدیلیوں کو highlight کر کے بتایا جائے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔
- ص: 81 کلاس ورک اچھا گرایا جائے۔ پہچانو، اسی طرح کچھ ورڈ دے کر اپنی نگرانی میں کرائیں۔
- چارٹ ص: 81 کو گردان کی طرح پانچ منٹ اجتماعی طور پر یاد دلایا جائے۔ ہوم ورک کے وقت یہ رٹا ہوا یاد آئے گا۔
- طلبہ سے پوچھا جائے کہ ہم نے مفرد مثنیہ جمع کو کیوں اتنی محنت سے سمجھا، مذکر مؤنث کو سمجھا، ورنہ یہاں کس طرح similarity لاتے؟ ٹارگیٹ واضح رہے۔

اس کے بعد کا وقت: H.W + Relax

طلبہ سے کہیں کہ نئی مثالیں لائیں Vocabulary Book دیکھ کر، Dictionary کی مدد لے کر موصوف صفت بنائیں۔

مضاف مضاف الیہ:

- پہلے یہ سمجھائیں کہ کیا اس میں Ownership کا معنی نہیں پیدا ہو رہا؟ جی ہاں کسی چیز سے تعلق جوڑنے کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔
- "کا، کی، کے" کا معنی ہوتا ہے۔ ابھی نام اور Definition نہ بتایا جائے، ذہن بند کرنے اور Root-learning سے بچائیں، ذہن میں بٹھایا جائے۔
- عمومی طور پر ص: 82 کا نقشہ بورڈ پر اتاریں اور اس کے اندر ان باتوں پر غور کرائیں:
- پہلے کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف الیہ۔
- مضاف الیہ کے آخر میں جر اور مضاف کے آخر میں بدلاؤ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
- ص: 82 پر مختلف شکلیں ہیں فرق پہچانیں۔
- کہیں مضاف الیہ علم ہے، کہیں ضمائر ہے، کہیں مضاف الیہ جملہ بن جاتا ہے، کہیں مضاف جملہ بن جاتا، کہیں دونوں ---
- پہچاننے کا طریقہ: کہیں زیر سے اور کہیں معنی دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔

گزشتہ اسباق کی ترتیب کو سامنے رکھ کر آئندہ اسباق پڑھائے جائیں۔

AskiIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
COURSE 2

المحادثات العربية
مع خزانة الكلمات العربية



AskiIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
**CONVERSATION
BOOK**

1) Basic Level


المرحلة الابتدائية

2) Advance Level

المرحلة المتقدمة

AskiIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



كتاب المحادثات العربية
Arabic Conversation Book

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



Part 1

1 Basic Level - المرحلة الابتدائية

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

قوت محادثہ کے لیے:

- ◆ اچھے لہجے (اصول تجوید)،
- ◆ اچھے کلمات (vocabulary)،
- ◆ اچھے بنے بنائے محادثات،
- ◆ کچھ قواعد نحو و صرف،
- ◆ قرآن و احادیث اور قصص کا فہم ممد و معاون ہوتا ہے۔
- ◆ خاص طور سے بنے بنائے مرتب عربی محادثات و تعبیرات

ان سب کو پڑھنا، یاد کرنا، دہرانا اور اپنا ہی آڈیو سن کر ماحول بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اس کتاب میں محادثات کے لیے ممد و معاون علوم و مبادیات کا بنیادی طور پر ذکر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے

Index



Chapter 1 - أَحْكَامُ التَّجْوِيدِ

Chapter 2 - المفردات مع التصاوير

Chapter 3 - الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

Chapter 4 - الْكَلِمَاتُ الْعَرَبِيَّةُ وَالْمُحَادَثَاتُ

Chapter 5 - حِفْظُ الْأَحَادِيثِ

Chapter 6 - التدریب لِقِرَاءَةِ الْجُمَلِ الْعَرَبِيَّةِ

ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے 6 زاویوں پر توجہ ضروری ہے

انیت یا ماہولیت ہو تو خود بخود نئے زبان سیکھنے پر انیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔

Arshad Basheer Madani Notes



✓ فصاحت و بلاغت کا مرحلہ بہت بعد کا ہے اس کے علاوہ دیگر مذکورہ زاویوں پر ابتدائی سے توجہ دی جائے۔

✓ CD ضرور حاصل کیجیے اور بار بار سنئے اس سے (1) انیت کا احساس ختم ہوگا، (2) انیت پیدا ہوگی، (3) اسلوب کا پتا چلے گا، (4) ماحول قائم ہوگا،

(5) کان کے ذریعہ پردہ احساس و شعور سے گزرتے ہوئے زبان سے جاری ہونا آسان ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ

✓ جو بہرہ ہوتا ہے وہ اکثر گونگا بھی ہوتا ہے لہذا کان کو عربی سننے کا موقع دیجیے۔

✓ بچہ سنتا ہے اور مادری زبان بولنے لگتا ہے۔

✓ ماحول ہونا ضروری ہے، CD سے ماحول بنایا جاسکتا ہے یا خود اپنے موبائل سے ریکارڈ کرے اور سنئے۔

نصیحتیں

Arshad Basheer Madani Notes
9 (کسی بھی زبان میں گفتگو کے لیے)

کسی بھی زبان خصوصاً عربی زبان میں گفتگو سے قبل مندرجہ ذیل نصیحتوں پر توجہ دی جائے تو ان شاء اللہ عربی گفتگو میں کافی مدد ملے گی اور گفتگو میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ان شاء اللہ، باذن اللہ۔

اللہ کی مدد اور اس سے دعا کے بعد ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور پڑھتے رہیں:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. (السلسلة الصحيحة: 2886)

عربی میں گفتگو کی آسانی کے لیے:



1 عام طور پر گرامر پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ زیادہ توجہ سننے (listening power) اور استعمال (practice) کرنے پر دینی چاہیے۔

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes



2 مادری زبان والے گرامر کم جانتے ہیں لیکن گفتگو کر لیتے ہیں لہذا مادری زبان والوں سے بار بار سبق لینا سیکھیں۔



3 اپنے کان کو سنا کر مانوس کریں اور Prepared Phrases کو غور سے سن کر تدریس کرنے کی کوشش کریں۔ خود اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے بار بار سنیں


Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

مرحبا
صباح الخير
صساء الخير
أهلا وسهلا
وداعا
كيف حالك؟

Vocabulary سے زیادہ Phrases یاد کرنے پر توجہ دیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف Vocabulary یاد کرتے ہیں دوسری طرف گرامر لیکھتے ہیں پھر اپنی طرف سے دونوں کو جوڑ کر جملے بنا کر گفتگو کی کوشش کرتے ہیں اس سے ذہن پر بار بہت پڑتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بنے بنائے جملے یاد کر لیں تو آپ جلدی اپنے مافی الضمیر کو ادا کر سکیں گے۔ لوگ بھی سمجھیں گے اور Response بھی ملے گا، بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔

4



اچھی بات کرنے کے لئے Priority کا خیال رکھیے،

5



اکثر دیکھا گیا ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے لکھنے کی exercise تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن بولنے کی exercise پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ نتیجہ میں لکھنے (writing power) میں تو مہارت آ جاتی ہے لیکن بولنے (محادثہ) (speaking power) میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔

6



سننے اور بولنے کا ماحول (Environment) ضرور بنائیے۔

- Headset
- خود کا ریکارڈ کردہ حصہ سنتے رہیے
- Cd's / Mobile
- زبان والوں سے دوستی

ان سب کے ذریعہ چلتے پھرتے سنتے رہیے جو آپ phrases یاد کر رہے ہیں۔

7


- ♦ عرب لوگ اردو میں بات کر لیتے ہیں جب وہ کثرت سے ہندوستانیوں سے ملتے ہیں، اس مثال سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سننے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم ہندوستان میں خطبے نہیں سنتے نہ عربی دروس نہ عربی گفتگو نتیجہ میں عربی میں لکھنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن عربی میں بات کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔
- ♦ آپ جانتے ہیں جو بہرہ ہوتا ہے وہ by default گونگا بھی ہوتا ہے۔ جو سیکھتا ہے نظروں اور تندر و فہم کی مدد سے وہ لکھنے کے قابل بن جاتا ہے اور جو سننے میں powerful ہوتا ہے وہ بولنے میں بھی powerful ہو جاتا ہے۔



8 آپ کو عربی سیکھنے یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کہیں جانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ اپنا ماحول خود بنائیے، اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کیجیے اور ماحول بنائیے جو آپ سے وہی زبان میں بات کریں جس زبان کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا CD کثرت سے سنئے۔

- ♦ صرف انگلش اسکول یا عربی اسکول جانے سے بات کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ ماحول سے بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچہ انگلش یا عربی اسکول بلکہ انگلش یا عربی ملک میں ہوتا ہے لیکن اپنی ہی زبان والوں سے ملتا جلتا ہے تو بات نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلا کہ ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے اور ماحول سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے، جس زبان کے سیکھنے کی ضرورت ہے اس زبان والوں سے بات کرنے کی کوشش کی جائے۔

- ♦ عقل مند جانتا ہے کہ کسی کو بھی راتوں رات کوئی زبان نہیں آ سکتی، پھر عربی سیکھنے میں شرمانے کی کیا وجہ ہے؟ مفید علم کے حاصل کرنے میں شرمانا اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے مترادف ہے اور غیر ضروری شرمیلان انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔



9 Material اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس بارے میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ Practice سے آدمی Perfect بن جاتا ہے لیکن اگر غلط Practice ہو جاتی ہے تو غلط چیز میں Perfect بن جاتا ہے، اس لیے material اچھا ہونا ضروری ہے۔

- ♦ کچھ لوگ نیوز سنتے ہیں آخر میں کچھ ایسے political word استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عام پبلک کے سمجھ کے باہر ہوتے ہیں۔

- ♦ کچھ لوگ غیر مادری زبان والوں سے بات کر کے practice کرتے ہیں جو ایک حد تک صحیح ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیکھنے کی شروعات تو ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے اس فائدہ کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے جس پر کنٹرول کرنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ نئے سیکھنے والے ایک دوسرے کی غلطی کو بھی سیکھ کر عادت میں شامل کر لیتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر material کی تلاش میں رہیں اور اپنے غلطیوں کو کنٹرول کرتے رہیں اور سستی نہ برتیں۔

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



أَحْكَامُ التَّجْوِيدِ

Tajweed Rules

حروف الهجاء مع الأمثلة
Alphabet with examples

حروف تهجي مثالوں کے ساتھ

حروف الهجاء

Alphabet

حروف تهجي

من خارج الحروف
Pronunciation of letters

حروف کے مخارج

الحركات

Vowels

حرکات

عربی حروف تہجی





الفَاظ (Vocabulary)



Translation	ترجمہ	EXAMPLE	ROMAN	عربی	شمار
Allaah	اللہ	الله	Alif	ا	1
Baqarah	گائے	بَقْرَةٌ	Baa	ب	2
Taubah	توبہ	تَوْبَةٌ	Taa	ت	3
Sawaab	ثواب	ثَوَابٌ	Saa	ث	4
Jannah	جنت	جَنَّةٌ	Jeem	ج	5
Haj	حج	حَجٌّ	Haa	ح	6
Khashyah	خشیت	خَشِيَّةٌ	Khaa	خ	7
Dam	خون	دَمٌ	Daal	د	8
Zikr	ذکر	ذِكْرٌ	Zaal	ذ	9
Rajul	آدمی	رَجُلٌ	Raa	ر	10
Zaitoon	زیتون	زَيْتُونٌ	Zaa	ز	11
Sunnah	سنت	سُنَّةٌ	Seen	س	12
Shajarah	درخت	شَجَرَةٌ	Sheen	ش	13
Sabr	صبر	صَبْرٌ	Saad	ص	14
Zau	روشنی	ضَوْءٌ	Zaad	ض	15
Tair	پرندہ	طَيْرٌ	Taa	ط	16
Zahr	کمر	ظَهْرٌ	Zaa	ظ	17
Abd	بندہ	عَبْدٌ	Ayn	ع	18
Ghais	بادل	غَيْثٌ	Ghaen	غ	19
Feel	ہاتھی	فَيْلٌ	Faa	ف	20
Qamar	چاند	قَمَرٌ	Qaaf	ق	21
Kitaab	کتاب	كِتَابٌ	Kaaf	ك	22
Lail	رات	لَيْلٌ	Laam	ل	23
Masjid	مسجد	مَسْجِدٌ	Meem	م	24
Najm	تارہ	نَجْمٌ	Noon	ن	25
Hilaal	چاند	هِلَالٌ	Haa	ه	26
Wajh	چہرہ	وَجْهٌ	Waau	و	27
Yaum	دن	يَوْمٌ	Yaa	ي	28

Vowels حركات

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

(حرکات) بقیہ مکمل کیجیے

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

بَء	اَبْ	اَبَّ	بُ	بِ	بَا	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ
تَء	اَتْ	اَتَّ	تُ	تِ	تَا	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ	تِ
ثَء	اَثْ	اَثَّ	ثُ	ثِ	ثَا	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ	ثِ
جَء	اَجْ	اَجَّ	جُ	جِ	جَا	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ	جِ
حَء	اَحْ	اَحَّ	حُ	حِ	حَا	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ	حِ
خَء	اَخْ	اَخَّ	خُ	خِ	خَا	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ	خِ
																دَ
																ذَ
																رَ
																زَ
																سَ
																شَ
																صَ
																ضَ
																طَ
																ظَ
																عَ
																غَ
																فَ
																قَ
																کَ
																گَ
																نَ
																ہَ
																وَ
																یَ


AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

مخارج الحروف العربية

المخارج الرئيسية للحروف العربية خمسة هي: الجوف والخلق واللسان والشفتان والحشوم


ثانياً **الخلق** وفيه ثلاثة مخارج




أولاً **الجوف**: ويخرج منه حروف المد الثلاثة




ثالثاً **اللسان**: وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً




رابعاً **الشفتان** وفيهما مخرجان



خامساً **الحشوم** مخرج الغنة وتكون تابعة للون والميم



سادساً **الحشوم** مخرج الغنة وتكون تابعة للون والميم



حروف کے مخارج

مخرج کے لغوی معنی ہیں نکلنے کی جگہ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔

حروف	نام	مخارج
ھ، ۶	حُرُوفِ حَلَقِيَّةٌ	حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔
ح، ع	" "	حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔
خ، غ	" "	حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔
ق	حُرُوفِ لَهْوِيَّةٌ	زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔
ك	" "	زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔
ج، ش، ی	حُرُوفِ شَجَرِيَّةٌ	زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔
ض	حَرْفِ حَافِيَّةٌ	زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھیوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔
ل، ن، ر	حُرُوفِ طَرَفِيَّةٌ	زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔
ت، د، ط	حُرُوفِ بَطْنِيَّةٌ	زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔
ث، ذ، ظ	حُرُوفِ لِيثِيَّةٌ	زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔
ز، س، ص	حُرُوفِ صَفِيْرِيَّةٌ	زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔
ف	حُرُوفِ شَفْوِيَّةٌ	اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔
ب	" "	دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔
م	" "	دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔
و	" "	دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔

Arshad Basheer Madani Notes

Pronunciation of letters

The literal meaning of the word *Makhrāj* (Origin) is the place of origin. In terms of *Tajweed* the area of pronunciation for an Arabic letter is known as the *Makhrāj* (Origin).

Letter	Name (of the Group to which the letter belongs)	Origin
ه [Hamzah], ع [Haa]	Huroof Halqiyyah	Pronounced from the bottom part of the throat
ع [A'in], ح [haa]	" "	Pronounced from the middle part of the throat
غ [Ghayn], خ [Khaa]	" "	Pronounced from the top part of the throat
ق [Qaaf]	Huroof Lahwiyyah	Pronounced from the root of the tongue and the soft part of the palate
ك [kaaf]	" "	Pronounced from the root of the tongue and the hard part of the palate
ج [Jeem], ش [Sheen], ي [Yaa]	Huroof Shajariyyah	Pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate
ض [Daad]	Harf Hāfiyyah	Pronounced from the sides of the tongue and the roots of the upper molars
ل [Laam], ر [Raa], ن [Noon]	Huroof Tarfiyyah	Pronounced from the (front) edge of the tongue and the roots of the front teeth ¹ towards the palate
ت [taa], د [Daal], ط [Taaw]	Huroof Nit'iyyah	Pronounced from the tip of the tongue and the roots of the upper front teeth
ث [Thaa], ذ [dzhaal], ظ [Dzhaaw]	Huroof Lithwiyyah	Pronounced from the top of the tongue and the inner edge of the upper front teeth
ز [Zaa], س [Seen], ص [Saad]	Huroof Safeeriyyah	Pronounced from the tip of the tongue and the inner edges of both upper and lower front teeth
ف [Faa]	Huroof Shafawiyyah	Pronounced from the edge of the upper front teeth and the wet part of the bottom lip
ب [Baa]	" "	Pronounced from the wet part of both lips
م [Meem]	" "	Pronounced from the dry part of both lips
و [Wāo]	" "	Pronounced by the rounding of the lips

¹ i.e. the central incisors

مخارج الحروف

الرقم	المخرج العام	عدد مخارجه	المخرج الخاص	الحروف	مسلسل عام
1	الحلق	1	أقصى الحلق أى أخره من جهة الصدر	ء - هـ	1
		2	وسط الحلق	ع - ح	2
		3	أدنى الحلق أى أقربيه من الفم	غ - خ	3
2	اللسان	1	أقصى اللسان قريبا من الحلق	ق	1
		2	أقصى اللسان قريبا من جهة الفم	ك	2
		3	وسط اللسان	ج - ش - ي	3
		4	ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا	ت - ط - د	4
		5	ظهر اللسان مع رؤوس الثنايا العليا	ث - ذ - ظ	5
		6	طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا	ن	6
		7	طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا قريبا من الظهر	ر	7
		8	رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا	ئ - ص - س	8
		9	حافة اللسان أى جانبه مع التصاقه بما يحاذيه من الاضراس العليا	ض	9
		10	حافة اللسان الامامية مع التصاقها بما يحاذيها من الأسنان	ل	10
3	الشفتان	1	ما بين الشفتين	ب - م - و	11
		2	الشفة السفلى مع رؤوس الثنايا العليا	ف	12
		1	ي - و	أ -	13
5	الأنف	2	الخيشوم	الغنة	14

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Color	رنگ	الوان	01
The Numerals	گنتی	الاعداد	02
Parts of Body	اعضاء جسمانی	اعضاء الجسم	03
Food	غذا	المواد الغذائية	04
Animals	حيوانات	الحيوانات	05
House	گھر	البيت	06
Objects	چیزیں	الاشياء	07
Universe	کائنات	الكون	08
Season	موسم	الموسم	09
Family	خاندان	الأسرة	10
Words regarding the Breakfast	ناشتے کے الفاظ	كلمات حول الفطور	11
The Meals	کھانا	الوجبات	12

Juice and Salaad	شربت اور سلااد	العصير والسلطة	13
Fruits	میوے / پھل	أَلْفَوَاكِهِ	14
Vegetables	ترکاریاں	الخضروات	15
Household Goods	گھر کی چیزیں	أَلدَوَاتُ الْمَنْزِلِيَّةُ	16
Day and Time	دن اور زمانے	الْيَوْمُ وَالزَّمَنُ	17
The Days and Time	ایام اور اوقات	الْأَيَّامُ وَالْأَوْقَاتُ	18
The Months	مہینے	الشُّهُورُ	19
The Numerals	گنتی	الأَعْدَادُ	20
The Pole	جہتیں	القُطْبُ	21
Words regarding the Journey	سفر سے متعلق الفاظ	كلمات حول السفر وما يتعلق به	22
Countries	ممالک	الْبِلَادُ / الْبُلْدَانُ	23


Arshad Basheer Madani Notes
























Ramadee رَمَادِي	Abyaz أَبْيَضُ	Aswad أَسْوَدُ	Ahmar أَحْمَرُ
Gray سَرْمِي	White سَفِيد	Black كَلَا	Red رَال
Banafsajee بَنَفْسَجِي	Asmar أَسْمَرُ	Akhzar أَخْضَرُ	Azraq أَزْرَقُ
Purple جَامِي	Brown بَهْوَرَا	Green هَرَا	Blue نِيلَا
Faerozi فَيْرُوزِي	Asfar أَصْفَرُ	Burtqailee بُرْتَقَالِي	Wardi وَرْدِي
Turquoise فَيْرُوزَه	Yellow پِيلَا	Orange نَارَنْجِي	Pink گَلَابِي



Arba'ah	أَرْبَعَةٌ	Salaasah	ثَلَاثَةٌ	Isnaan	اِثْنَانِ	Waahid	وَاحِدٌ
Four	چار	Three	ٽين	Two	دو	One	ايڪ
Samaaniyah	ثَمَانِيَةٌ	Sab'ah	سَبْعَةٌ	Sittah	سِتَّةٌ	Khamsah	خَمْسَةٌ
Eight	آڻھ	Seven	سات	Six	ڇھ	Five	پاڻچ
		Asharah	عَشْرَةٌ	Tis'ah	تِسْعَةٌ		
		Ten	دس	Nine	نو		



















sha'r	شَعْرٌ	Ayn	عَيْنٌ
			
Hair	بَال	Eye	آكھ
Ra's	رَأْسٌ	wajh	وَجْهٌ
			
Head	سِر	Face	چہرہ
Fam	فَمٌّ	Sin	سِنٌّ
			
Mouth	مَنہ	Tooth	دانت
Uzun	أُذُنٌ	Anf	أَنْفٌ
			
Ear	كَان	Nose	ناک
Qalb	قَلْبٌ	Me'dah	مِعْدَةٌ
			
Heart	دَل	Stomach	پيٹ
Saaq	سَاقٌ	Ziraa'	ذِرَاعٌ
			
Calf	پنڈلی	Arm	بازو
Qadam	قَدَمٌ	Yad	يَدٌ
			
Foot	پاؤں	hand	ہاتھ

Ziqnun	ذِقْنٌ	Khaddun	خَدٌّ	Lisaanun	لِسَانٌ	Shafatun	شَفَاةٌ
				Arshad Basheer Madani Notes			
Chin	ٹھوڑی	Cheek	گال	Tongue	زبان	Lip	ہونٹ
Haajibun	حَاجِبٌ	Jabhatun	جَبْهَةٌ	Lihyatun	لِحْيَةٌ	Shaaribun	شَارِبٌ
				Arshad Basheer Madani Notes			
Eyebrow	ابرو	Forehead	پیشانی	Beard	داڑھی	Mustache	مونچھ
Surratun	سُرَّةٌ	Sadrun	صَدْرٌ	Mirfaqun	مِرْفَقٌ	Kaffun	كَفٌّ
				Arshad Basheer Madani Notes			
Navel	ناف	Chest	سینہ	elbow	کہنی	Palm	ہتھیلی
Damun	دَمٌ	Mukhkhun	مُخٌّ	Yusra	يُسْرَى	Yumna	يُمْنَى
				Arshad Basheer Madani Notes			
Blood	خون	Brain	دماغ	Left	بائیں	Right	دائیں
Aqibun	عَقِبٌ	Ka'bun	كَعْبٌ	Fakhizun	فَخِذٌ	Rukbatun	رُكْبَةٌ
				Arshad Basheer Madani Notes			
Heel	ایڑی	Ankle	ٹخنہ	Thigh	ران	Knee	کھٹنا
Isba'un	إِصْبَعٌ	Arshad Basheer Madani Notes				Rijlun	رِجْلٌ
							
Finger	انگلی					Leg	ٹانگ



Ashaa'	عَشَاءٌ	Ghadaa	غَدَاءٌ	Futoor	فُطُورٌ	Ghizaa	غِذَاءٌ
Dinner	عشاءية	Lunch	ظہرانہ	Breakfast	ناشۃ	Food	غذاء
Saltah	سَلْطَةٌ	Lahm	لَحْمٌ	Samak	سَمَكٌ	Dajaj	دَجَاجٌ
Salad	سلاد	Meat	گوشت	Fish	مچھلی	Chicken	چکن
Basal	بَصَلٌ	Jubn	جُبْنٌ	Khubz	خُبْزٌ	Shateerah	شَطِيرَةٌ
Onion	پیاز	Cheese	مکھن	Chapati	روٹی	Sandwich	سینڈویچ
Jazar	جَزْرٌ	Halwa	حَلْوَى	Khazrawaat	خَضِرَوَاتٌ	Faakihah	فَاكِهَةٌ
Carrot	گاجر	Sweet	حلوا	Vegetables	ترکاریاں	Fruits	میوے



Baqarah	بَقَرَةٌ	Fa'r	فَأْرٌ	Kalb	كَلْبٌ	Qit	قِطٌّ
							
Cow	گائے	Mouse	چوہا	Dog	کتا	Cat	بلی
Taaer	طَائِرٌ	Arnab	أَرْنَبٌ	Timsaah	تِمْسَاخٌ	Faras	فَرَسٌ
							
Bird	چڑیا	Rabbit	خرگوش	Crocodile	مگر مچھ	Horse	گھوڑا
Zarafah	زَرَافَةُ	Feel	فَيْلٌ	Saqr	صَقْرٌ	Dab	دَبٌّ
							
Giraffe	ژرافہ	Elephant	ہاتھی	Eagle	پیل	Bear	رینچھ
Asad	أَسَدٌ	Hayyah	حَيَّةٌ	Qird	قِرْدٌ	Al-babru	أَلْبَبْرُ
							
Tiger	شیر	Snake	سانپ	Monkey	بندر	Lion	ببر شیر



Naafzah	نَافِذَةٌ	Hammaam	حَمَّامٌ	Ghurfa	عُرْفَةٌ	Bait	بَيْتٌ
							
window	کھڑکی	Bathroom	حمام	Room	کمرہ	House	گھر
Haaet	حَائِطٌ	Matbakh	مَطْبَخٌ	Ghurfatu naum	عُرْفَةُ نَوْمٍ	Mirhaaz	مِرْحَاضٌ
							
Wall	دیوار	Kitchen	بادرچی خانہ	Bedroom	سونے کا کمرہ	Toilet	بیت الخلاء
Mat'am	مَطْعَمٌ	Taabaq	طَبَقٌ	Sath	سَطْحٌ	Saqf	سَقْفٌ
							
Restaurant	ریستوران	Floor	فرش	Roof	چھت	Ceiling	چھت

Minshafah	مِنْشَفَةٌ	Saboon	صَابُونٌ	Shampoo	شَامْبُو	Qubba'ah	قُبْعَةٌ
							
Towel	توليه	Soap	صابن	Shampoo	شامپو	Hat	ہیٹ

























Objects	چیزیں	الاشياء	07
---------	-------	---------	----




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



Qalam Rasas	قَلَمُ رِصَاصٍ	Waraqah	وَرَقَةٌ	Miqas	مِقْصٌ	Soorah	صُورَةٌ
							
Pencil	پنسل	Paper	کاغذ	Scissors	قٹیچی	Picture	تصویر

Jawrab	جَوْرَبٌ	Malaabis	مَلَابِسٌ	Me'taf	مِعْطَفٌ	Satrah	سَاتِرَةٌ
							
Socks	موزے	Clothes	کپڑے	Coat	کوٹ	Jacket	جیکٹ
Sareer	سَرِيْرٌ	Bantaloon	بَنْطَلُوْنٌ	Hizaa	حِذَاءٌ	Mizallah	مِظَلَّةٌ
							
Bed	پٹنگ	Pants	پٹنوں	Shoes	جوتے	Umbrella	چھتری
Koob	كُوْبٌ	Shawkah	شَوْكَةٌ	Furshat ul Asnan	فُرْشَاةُ الْأَسْنَانِ	Majoonul Asnan	مَعْجُوْنُ الْأَسْنَانِ
							
Cup	پیال	Fork	کانٹا	Toothbrush	دانتوں کا برش	Toothpaste	ٹوتھ پیسٹ
Mil'aqah	مِلْعَقَةٌ	Tabaq	طَبَقٌ	Asaas	أَسَاسٌ	Taawilah	طَاوِلَةٌ
							
Spoon	چچ	Plate	پلیٹ	Furniture	فرنیچر	Table	ٹیبیل
Maktab	مَكْتَبٌ	kursee	كُرْسِيٌّ	Sikkeen	سِكِيْنٌ	Sallajah	تَّلَاجَةٌ
							
Desk	میز	Chair	کرسی	knife	چاقو	Refrigerator	فریج
Jawwaal	جَوَّالٌ	Haatif	هَاتِفٌ	Saheefah	صَحِيْفَةٌ	Qalam	قَلَمٌ
							
Mobile	موبائل	Telephone	ٹیلیفون	Newspaper	اخبار	Pen	قلم



Shatee	شَاطِئٌ	Jazeera	جَزِيرَةٌ	Sahraa	صَحْرَاءُ	Jabal	جَبَلٌ												
				Beach	ساحل	Island	جزیره	Desert	ریگستان	Mountain	پہاڑ								
Ghaabah	غَابَةٌ	Shajarah	شَجَرَةٌ	Zahr	زَهْرٌ	Hadeeqah	حَدِيقَةٌ	Forest	جنگل	Tree	جھاڑ	Flower	پھول	Garden	باغ				
				Nahr	نَهْرٌ	Buhairah	بُحَيْرَةٌ	Bahr	بَحْرٌ	Samaa'	سَمَاءٌ	River	نہر	Lake	جھیل	Sea	سمندر	Sky	آسمان
				Shams	شَمْسٌ	Nujoom	نُجُومٌ	Qamar	قَمَرٌ	Arz	أَرْضٌ	Sun	سورج	Stars	ستارے	Moon	چاند	Earth	زمین
																			




Al'Ahwaal Al'Jawwiyyah الأحوال الجوية	Aasif عاصف	Ghaaem غائم	Matar مطر
Weather موسم	Windy آندھی	Cloudy ابر آلود	Rain موسم برسات
Baarid بارد	As'Salju الثَّلْج	Mushmis مُشمِس	Haar حار
Cold سردی	Snow برف	Sunny دھوپ	Hot گرم
Al-khareef الْخَرِيفُ	Ash-Shitaa' الشِّتَاءُ	Ar-Rabee' الرَّبِيعُ	As-Saeef الصَّيْفُ
Autumn موسم خزاں	Winter موسم سرما	Spring موسم بہار	Summer موسم گرما



Father	باپ	Ab	أَب
Mother	ماں	Um	أُمُّ
Husband	شوہر	Zauj	زَوْجٌ
Wife	بیوی	Zaujah	زَوْجَةٌ
Son	بیٹا	Ibn	إِبْنٌ
Daughter	بیٹی	Ibnah	إِبْنَةٌ
Brother	بھائی	Akh	أَخٌ
Sister	بھین	Ukht	أُخْتٌ
Grandfather	دادا	Jad	جَدُّ
Grandmother	دادی	Jaddah	جَدَّةٌ
Uncle	چچا / تایا	Am	عَمٌّ
People	لوگ	An-Naas	الناس



WORDS REGARDING THE BREAKFAST	ناشے کے الفاظ	Kalimaat haulal futoor	کلمات حول الفطور
Coffee	کافی	Al – qahwah	الْقَهْوَةُ
Tea	چائے	Ash – shaay	الشَّاي
Milk	دودھ	Al – laban	اللَّبَنُ
Butter	بٹیر	Az – zubdah	الزُّبْدَةُ
Jam	جام	Al – murabba	المُرَبِّي
Egg	انڈا	Al – baiz	الْبَيْضُ



THE MEALS	کھانے	Al-Wajbaat	الوجبات
Breakfast.	ناشے	Al-Futoor	الْفُطُورُ
Lunch.	ظہرانہ	Al-ghadaa	الْعَدَاءُ
Dinner.	عشائے	Al-ashaa	الْعِشَاءُ

THE MEALS	کھانے	Al-Wajbaat	الوجبات
Breakfast.	ناشتہ	Al-Futoor	الْفُطُورُ
Lunch.	ظہرانہ	Al-ghadaa	الْغَدَاءُ
Dinner.	عشائیہ	Al-ashaa	الْعِشَاءُ



WORDS REGARDING THE JOURNEY	شربت اور سلاڈ	Al-aseer was-saltah	العصير والسلطة
Lemon juice	لیموں کا شربت	Aseeru laimoon	عَصِيرُ لَيْمُونٍ
Watermelon juice	تربوڑ کا شربت	Aseeru bitteekh	عَصِيرُ بَطِيخٍ
Mango juice	آم کا شربت	Aseeru maanju	عَصِيرُ مَانْجُو
Apple juice	سیب کا شربت	Aseeru tuffaahah	عَصِيرُ تُفَّاحَةٍ
Pineapple juice	اناناس کا شربت	Aseeru ananaas	عَصِيرُ أَنْانَاسٍ
Cucumber salad	کھیرا سلاڈ	Saltatu khiyaar	سَلْطَةُ خِيَارٍ
Cabbage salad	گوبھی سلاڈ	Saltatu kurunb	سَلْطَةُ كُرْنَبٍ
Tomato salad	ٹماٹر سلاڈ	Saltatu tamatim	سَلْطَةُ طَمَاطِمٍ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Fruits

الْفَوَاكِهُ



Burtuqaal بُرْتُقَالٌ
Orange سترہ



Maanju مَانْجُو
Mango آم



Shammaam شَمَامٌ (بطلع اسنو)
Muskmelon خربوزہ



Tuffaahah تَفَّاحَةٌ
Apple سیب



Tamr تَمْرٌ
Date بھجور



Mauz مَوْزٌ
Banana موز



Bitteeq بَطِّيخٌ
Watermelon تربوز



Teen Barshoomi تَيْنٌ بَرَشُومِي
Fig انجیر



Mishmish مِشْمِشٌ
Apricot خربالی



Burqooq بُرْقُوقٌ
Plum آلو بخارہ



Inab عِنَبٌ
Grape انگور



At-toot اَلتُّوتُ
Blackberry کایوتیا



Farawila فَرَاوِلَةٌ
Strawberry سٹراویری



Kummisra كُمَّسْرِي
Pear پاشانی

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



Bataatis بطاطس

Potato آلو



Tamatum مَماطُم

Tomato ٹماٹر



Sabaanij سبانیج

Spinach پاک



Khiyaar خییار

Cucumber کھیرا



Jazar جَزَر

Carrot گاجر



Kurunb کُرُنْب

Cabbage گوبی



Soom سُوم

Garlic لہسن



Basal بَسَال

Onion پیاز



Khas خَس

Lettuce کاهو کے پتے



Fool فُول

Beans چنا



Baazinjan باذینجان

Brinjal بیکن



Baazillaa بازِلاا

Peas مٹر



Fulful فُلْفُل

Pepper کالی مرچ



Fuj فُجُل

Radishes مولی



Banjar بَنجَر

Beetroot شامگ



Lift لِفْت

Turnip شامگ



Zurah ذُرَّہ

Corn مکی



Baamiyah بَامِيَّة

Lady finger بھینڈی

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



Mil'aaqah مَلْعَقَةٌ

Spoon چمچا



Shaukah شَوَكَةٌ

Fork کانا



Sikkeen سِكِينٌ

Knife چاقو



Mighrafah مِغْرَفَةٌ

Ladle ڈوئی



Ghalaya Shaaہ غَلَايَةُ شَاہ

Kettle کیٹلی



Ibreeq Qahwah اِبْرَيْقُ قَهْوَةٍ

Coffee pot کافی کا جگ



Tabaq طَبَقٌ

Plate پلیٹ



Tabaq finjaan طَبَقُ فِنْجَانٍ

Saucer طشتری



Saltaniyah سَلْطَانِيَّةٌ

Bowl کؤرا



Qidr قِدْرٌ

Pot ہاڈی



Ghassalah غَسَّالَةٌ

Washing Machine واشنگ مشین



Sallajah سَلَّاجَةٌ

Refrigerator فرج



Boota jaaz بُوْتَا جَااز

Cooker کوکر



Rafful Matbakh رَفُّ الْمَطْبَخِ

Kitchen Stand برتنوں کا اسٹانڈ




Miknasaہ kahrbaayyah مِكْنَسَةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ

Vacuum Cleaner وکیوم کلینر



PORTIONS OF DAY AND TIME	دن اور وقت کی تقسیم	Aqsaamul yaumi waz zaman	أقسامُ الْيَوْمِ وَالزَّمَنِ
Early	جلدی	Mubakkir	مُبَكَّرٌ
Late	تاخیر	Muta'akkhir	مُتَأَخِّرٌ
Day time	دن میں	Fin nahaar	فِي النَّهَارِ
At night	رات میں	Fil lail	فِي اللَّيْلِ
Today	اس دن	Haazal yaum	هَذَا الْيَوْمُ
Tonight	اس رات	Haazihil lailah	هَذِهِ اللَّيْلَةُ
All day	دن بھر	Kullul yaum	كُلُّ الْيَوْمِ
All night	رات بھر	Kullul lailah	كُلُّ اللَّيْلَةِ
Tomorrow	کل	Ghadan	غَدًا
Yesterday Night	کل کی رات	Albaarihah	الْبَارِحَةَ
The day after	آنے والا پرسوں	Ba'da ghad	بَعْدَ غَدٍ
The day before	گزرنا ہوا پرسوں	Qablal baarihah	قَبْلَ الْبَارِحَةِ

Last night	گزری ہوئی رات	Al-lailatul maaziyah	الَلَّيْلَةُ الْمَاضِيَّةُ
Coming night	آنے والی رات	Al-lailatul qaadimah	الَلَّيْلَةُ الْقَادِمَةُ
Everyday	ہر دن	Kullu yaum	كُلُّ يَوْمٍ
Everynight	ہر رات	Kullu lailah	كُلُّ لَيْلَةٍ
Dawn	فجر	Alfajr	الْفَجْرُ
Morning	صبح	As-sabaah	الصَّبَاحُ
Before noon	ظہر سے پہلے	Qablaz zuhr	قَبْلَ الظُّهْرِ
Noon	ظہر	Az-zuhr	الظُّهْرُ
Afternoon	ظہر کے بعد	Ba'daz zuhr	بَعْدَ الظُّهْرِ
Sunset	غروب آفتاب	Ghoorubush shams	غُرُوبُ الشَّمْسِ
Evening	شام	Al-masaa'	الْمَسَاءُ
Night	رات	Al-lail	الَلَّيْلُ
Midnight	آدھی رات	Muntasaful lail	مُنْتَصَفُ اللَّيْلِ
In the morning	صبح میں	Fis-sabaah	فِي الصَّبَاحِ
Early-morning	صبح سویرے	As-sabaahul baakir	الصَّبَاحُ الْبَاكِرُ
In the evening	شام میں	Fil masaa'	فِي الْمَسَاءِ
In a week	ہفتہ میں	Fi usboo'	فِي أُسْبُوعٍ
Last week	گزرا ہوا ہفتہ	Al-usboo'ul maazi	الْأُسْبُوعُ الْمَاضِي
Next week	آنے والا ہفتہ	Al-usboo'ul qaadim	الْأُسْبُوعُ الْقَادِمُ
In a month	مہینہ میں	Fi shahr	فِي شَهْرٍ
Last month	گزرا ہوا مہینہ	Ash-shahrul maazi	الشَّهْرُ الْمَاضِي
Next month	آنے والا مہینہ	Ash-shahrut taali	الشَّهْرُ التَّالِي
In a year	سال میں	Fi sanah	فِي سَنَةٍ
Last year	گزرا ہوا سال	As-sanatul maaziyah	السَّنَةُ الْمَاضِيَّةُ
Next year	آنے والا سال	As-sanatul qaadimah	السَّنَةُ الْقَادِمَةُ
Century	صدی	Qarn	قَرْنٌ
Era / period	دور	Asr	عَصْرٌ
Millennium	ایک ہزار سال	Alf aam	أَلْفُ عَامٍ



THE DAYS AND TIMES	دن اور اوقات	Al-ayyaam wal-auqaat	الْأَيَّامُ وَالْأَوْقَاتُ
Sunday	اتوار	Yaumul-Ahad	يَوْمُ الْأَحَدِ
Monday	پير	Yaumul-Isnain	يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ
Tuesday	منگل	Yaumus-Sulaasaa'	يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ
Wednesday	چار شنبہ	Yaumul-Arbi'aa	يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ
Thursday	جمعرات	Yaumul-Khamees	يَوْمُ الْخَمِيسِ
Friday	جمعہ	Yaumul-Jumu'ah	يَوْمُ الْجُمُعَةِ
Saturday	ہفتہ	Yaumus-Sabt	يَوْمُ السَّبْتِ
Today	آج	Al-yaum	الْيَوْمِ
Yesterday	کل	Al-ams	الْأَمْسِ
The day before yesterday	گزرنا ہوا پر سوں	Qablal ams	قَبْلَ الْأَمْسِ
Tomorrow	آنے والا کل	Ghadan/bukrah	غَدًا / بُكْرَةً
The day after tomorrow	آنے والا پر سوں	Ba'da bukrah	بَعْدَ بُكْرَةٍ
The day after tomorrow	پر سوں	Ba'da ghad	بَعْدَ غَدٍ
Year	سال	Sanah / sanawaath	سَنَةً ج سَنَوَاتٍ
Morning	صبح	Subh/ sabaah	صُبْحًا / صَبَاحًا
Night	رات	Lail / layaal	لَيْلًا ج لَيَالٍ
Day	دن	Yaum / ayyaam	يَوْمًا ج أَيَّامًا

THE MONTHS	مَينِ	Ash-shuhoor	الشُّهُورُ		THE MONTHS	الشُّهُورُ	
January	جنوري	Yanaayir	يَنَايِرُ	1	Muharram	محرم	1
February	فبروري	Fabraeer	فَبْرَايِرُ	2	Safar	صفر	2
March	مارچ	Maaris	مَارِسُ	3	Rabee-ul-Awwal	ربيع الأول	3
April	اپريل	Abreel	أَبْرِيْلُ	4	Rabee-ul-Aakhir	ربيع الاخر	4
May	مئي	Maayu	مَايُو	5	Jumaadul Oola	جمادي الاولي	5
June	جون	Yuniyu	يُونِيُو	6	Jumaadul Ukhra	جمادي الأخرى	6
July	جولائی	Yuliyu	يُولِيُو	7	Rajjab	رجب	7
August	آگست	Aghustus	أَغْصُطُسُ	8	Sha'baan	شعبان	8
September	ستمبر	Sabtambar	سَبْتَمَبَرُ	9	Ramzaan	رمضان	9
October	اکتوبر	Aktoobar	أَكْتُوبَرُ	10	Shawwaal	شوال	10
November	نومبر	Nufimbar	نُوفِمَبَرُ	11	Zul Qa'dah	ذو القعدة	11
December	دسمبر	Disambar	دِيسَمَبَرُ	12	Zul Hajjah	ذو الحجة	12



THE NUMERALS		گنتی	Al-a'daad	الأعداد
One	۱	ایک	Waahid	وَاحِدٌ
Two	۲	دو	Isnaan / isnain	اِثْنَانٍ / اِثْنَيْنِ
Three	۳	تین	Salaasah	ثَلَاثَةٌ
Four	۴	چار	Arba'ah	أَرْبَعَةٌ
Five	۵	پانچ	Khamsah	خَمْسَةٌ
Six	۶	چھ	Sittah	سِتَّةٌ
Seven	۷	سات	Sab'ah	سَبْعَةٌ
Eight	۸	آٹھ	Samaaniyah	ثَمَانِيَةٌ
Nine	۹	نو	Tis'ah	تِسْعَةٌ
Ten	۱۰	دس	Asharah	عَشْرَةٌ
Eleven	۱۱	گیارہ	Ahada ashar	أَحَدَ عَشَرَ
Twelve	۱۲	بارہ	Isna ashar – isnai ashar / isnata asharah – isnatai asharah	اِثْنَا عَشَرَ - اِثْنِي عَشَرَ / اِثْنَتَا عَشْرَةَ - اِثْنَتَايَ عَشْرَةَ
Thirteen	۱۳	تیرہ	Salaasata ashar	ثَلَاثَةَ عَشَرَ
Fourteen	۱۴	چودہ	Arba'ata ashar	أَرْبَعَةَ عَشَرَ
Fifteen	۱۵	پندرہ	Khamsata ashar	خَمْسَةَ عَشَرَ
Sixteen	۱۶	سولہ	Sittata ashar	سِتَّةَ عَشَرَ
Seventeen	۱۷	سترہ	Sab'ata ashar	سَبْعَةَ عَشَرَ
Eighteen	۱۸	اٹھارہ	Samaaniyata ashar	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
Nineteen	۱۹	انیس	Tis'ata ashar	تِسْعَةَ عَشَرَ

Twenty	٢٠	بیس	Ishroon/ ishreen	عِشْرُونَ / عِشْرِينَ
Thirty	٣٠	تیس	Salasoon/ salaseen	ثَلَاثُونَ / ثَلَاثِينَ
Fourty	٤٠	چالیس	Arba'oon / arba'een	أَرْبَعُونَ / أَرْبَعِينَ
Fifty	٥٠	پچاس	Khamsoon/ khamseen	خَمْسُونَ / خَمْسِينَ
Sixty	٦٠	ساٹھ	Sittoon/ sitteen	سِتُّونَ / سِتِّينَ
Seventy	٧٠	ستر	Sab'oon / sab'een	سَبْعُونَ / سَبْعِينَ
Eighty	٨٠	اسی	Samanoon / samaneen	ثَمَانُونَ / ثَمَانِينَ
Ninety	٩٠	نوسے	Tis'oon / tis'een	تِسْعُونَ / تِسْعِينَ
One hundred	١٠٠	سو	Mi'ah	مِائَةٌ
Two hundred	٢٠٠	دو سو	Mi'ataan / mi'atain	مِائَتَانِ / مِائَتَيْنِ
Three hundred	٣٠٠	تین سو	Salaasu mi'ah	ثَلَاثُ مِائَةٍ
Four hundred	٤٠٠	چار سو	Arba'u mi'ah	أَرْبَعُ مِائَةٍ
Five hundred	٥٠٠	پانچ سو	Khamsu mi'ah	خَمْسُ مِائَةٍ
Six hundred	٦٠٠	چھ سو	Sittu mi'ah	سِتُّ مِائَةٍ
Seven hundred	٧٠٠	سات سو	Sab'u mi'ah	سَبْعُ مِائَةٍ
Eight hundred	٨٠٠	آٹھ سو	Samaanu mi'ah	ثَمَانُ مِائَةٍ
Nine hundred	٩٠٠	نو سو	Tis'u mi'ah	تِسْعُ مِائَةٍ
One thousand	١٠٠٠	ہزار	Alf	أَلْفٌ
One fourth	١/٤	چوتھائی	Rub'un	رُبْعٌ
One half	١/٢	آدھا	Nisfun	نِصْفٌ
One third	١/٣	ایک تہائی	Sulusun	ثُلُثٌ
One and a half	١ ١/٢	دبڑھ	Wahid wa nisf	وَاحِدٌ وَنِصْفٌ

The Numerals

گنتی

الأعداد

20




THE POLES	جہتیں	Alkhutub	القُطْبُ
East	مشرق	Ash-sharq	الشَّرْقُ
West	مغرب	Al-gharb	الْغَرْبُ
North	شمال	Ash-shimaal	الشِّمَالُ
South	جنوب	Al-junoob	الْجُنُوبُ

التحل: 22	إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ	١	وَاحِدٌ
المائدة: 106	اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ	٢	اِثْنَانِ
الكهف: 22	سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلِمَتٌ	٣	ثَلَاثَةٌ
البقرة: 260	قَالَ فَخَذُوا مِنْهُ مِنَ الطَّيْرِ	٤	أَرْبَعَةً
الكهف: 22	وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلِمَةً رَّجَمًا بِالْغَيْبِ	٥	خَمْسَةٌ
الأعراف: 54	إِنَّ رِبْكَمَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	٦	سِتَّةٌ
التبأ: 12	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا	٧	سَبْعَةٌ
الزمر: 6	وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ	٨	ثَمَانِيَةٌ
النمل: 48	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ	٩	تِسْعَةٌ
البقرة: 196	تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ	١٠	عَشْرَةٌ
يوسف: 4	يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ	١١	أَحَدَ عَشَرَ
التوبة: 36	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ	١٢	إِثْنَا عَشَرَ
المدثر: 30	لَوْ آخِذَةٌ لِلْبَشَرِ عَلِيمًا تِسْعَةَ عَشَرَ	١٩	تِسْعَةَ عَشَرَ
الأنفال: 65	إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ	٢٠	عِشْرُونَ
الأحقاف: 15	وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا	٣٠	ثَلَاثُونَ
البقرة: 51	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ	٤٠	أَرْبَعُونَ
العنكبوت: 14	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا	٥٠	خَمْسُونَ
المجادلة: 4	فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامِ سِتِّينَ مَسْكِينًا	٦٠	سِتُّونَ
الحاقة: 32	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ	٧٠	سَبْعُونَ
النور: 4	فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا	٨٠	ثَمَانُونَ
ص: 23	إِنَّ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ	٩٩	تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
البقرة: 259	قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ	١٠٠	مِائَةٌ
الأنفال: 66	فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ	٢٠٠	مِائَتَانِ
الكهف: 25	وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا	٣٠٠	ثَلَاثُ مِائَةٍ

البقرة: 92	يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	١٠٠٠	أَلْفُ
الأنفال: 66	وإن يكن منكم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ	٢٠٠٠	الْفَانِ
آل عمران: 124	أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ	٣٠٠٠	ثَلَاثَةُ آلَافٍ
آل عمران: 125	بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَسومِينَ	٥٠٠٠	خَمْسَةُ آلَافٍ
المعارج: 4	فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ	٥٠٠٠٠	خَمْسُونَ أَلْفًا
الصفات: 147	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ	١٠٠٠٠٠	مِائَةُ أَلْفٍ
الاعداد الترتيبية في القرآن الكريم			
الزُّمَرُ: 12	وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ	I	الأوَّلُ
الأعلى: 18	إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى	I	الأُولَى
التوبة: 40	إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ	II	الثاني
يس: 14	إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرسلُونَ	III	الثالث
المجادلة: 7	ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابِعُهُم	IV	الرابع
النور: 7	وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ	V	الخامسة
الكهف: 22	ويقولون خمسة سادسُهُم كَلْبُهُم رَجْمًا بِالْغَيْبِ	VI	السادس
الكهف: 22	ويقولون سبعة وثامنُهُم كَلْبُهُم	VIII	الثامن
التساء: 3	فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ		مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
أعداد الكسورات في القرآن الكريم			
النساء: 12	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ	١/٢	النِصْفُ
النساء: 11	وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ	١/٣	الثُّلُثُ
النساء: 11	فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ	٢/٣	الثُّلُثَانِ
النساء: 12	فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ	١/٤	الرُّبْعُ
النساء: 11	فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ	١/٦	السُّدُسُ
النساء: 12	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ	١/٨	الثُّمُنُ
الأنفال: 41	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ	١/٥	الخُمُسُ
سبأ: 45	وَمَا بَلَّغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ	١/١٠	المِعْشَارُ



WORDS REGARDING THE JOURNEY	سفر سے متعلق الفاظ	Kalimaat haulas safar wama yata'allaqu bih	کلمات حول السفر وما يتعلق به
Landing	لینڈنگ	Huboot	هُبُوْطٌ
Arrival	آمد	Qudoom – Wusool	قُدُوْمٌ – وُصُوْلٌ
Departure	روانگی	Iql'aa	إِقْلَاعٌ
Pilot	پائلٹ	Rubbaanut taa'erah	رُبَّانُ الطَّائِرَةِ
Destination	رخ سفر	Jihatus safar	جِهَةُ السَّفَرِ
Steward	جہاز کا منتظم	Muzeefut tayyarah	مُضَيِّفُ الطَّيَارَةِ
Stewardess	جہاز کی منتظمہ	Muzeefatut tayyarah	مُضَيِّفَةُ الطَّيَارَةِ
Plane crew	جہاز کا عملہ	Taaqim tayyarah	طاقم الطَّيَارَةِ



Countries	ممالک	Al-bilaad/ al-buldaan	اَلْبِلَادُ / اَلْبُلْدَانُ
India	ہندوستان	Al – hind	اَلْهِنْدُ
China	چین	As-seen	اَلصِّينُ
Malaysia	ملیشیا	Maaleeziya	مَالِيزِيَا
Indonesia	انڈونیشیا	Indonesia	اِنْدُونِيسِيَا
Italy	اطلی	Eetaaliya	اِيطَالِيَا
Saudi Arabia	سعودی عرب	Al-Mamlakah Al-Arabiya As-sa'oodiyyah	اَلْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السَّعُودِيَّةُ
Japan	جاپان	Al-yaabaan	اَلْيَابَانَ
Spain.	ہسپانیہ / اسپین	Isbaniya	اِسْبَانِيَا
Sudan	سوڈان	As-soodan	اَلسُّوْدَانُ
Egypt	مصر	Misr	مِصْرُ
Turkey	ترکی	Turkiya	تُرْكِيَا
America	امریکہ	Amrica	اَمْرِيكَا
England	انگلینڈ	Injiltira	اِنْجِلْتِرَا
France	فرانس	Faransa	فَرَنْسَا
Germany	جرمنی	Almaaniya	اَلْمَانِيَا
Iran	ایران	Iraan	اِيرَانَ
Yemen	یمن	Al-yaman	اَلْيَمَنُ
Singapore	سنگاپور	Singhafoora	سِنْغَافُورَا

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



القَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

Introduction of Noun, Verb and Preposition	تعريف الاسم والفعل والحرف	اسم، فعل اور حرف کی تعریف	01
Identification of Noun, Verb and Preposition	معرفة الاسم والفعل والحرف	اسم، فعل اور حرف کی پہچان	02
Detached Pronoun	الضمائر المنفصلة	ضمائر منفصلہ	03
Attached Pronoun	الضمائر المتصلة	ضمائر متصلہ	04
Demonstrative Pronounstrative Pronoun for Near Distance	أسماء الإشارة للقريب	اسماء اشارہ برائے قریب	05
Demonstrative Pronounstrative Pronoun for Far Distance	أسماء الإشارة للبعيد	اسماء اشارہ برائے بعید	06
Relative Pronouns	أسماء الموصولة	اسماء موصولہ	07
Sun Letters	الحروف الشمسية	حروف شمسیہ	08
Moon Letters	الحروف القمرية	حروف قمریہ	09
Adverb of Time	ظرف الزمان	ظرف زمان	10
Adverb of Place	ظرف المكان	ظرف مکان	11
Prepositions	حروف الجر	حروف جر	12
Co-ordination Conjunctions	حروف العطف او حروف الربط	حروف عطف	13
Table of Past Tense	التصريف لفعل الماضي	گردان فعل ماضی	14
Table of Present & Future Tense	التصريف لفعل المضارع	گردان فعل مضارع	15
Table of Imperative Verb	التصريف لفعل الامر	گردان فعل امر حاضر	16
Table of Interdiction Verb	التصريف لفعل النهي	گردان فعل نہی حاضر	17

الكلمة : Word

تعریف: وہ لفظ جو معنی والا ہو اور مفرد ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

A Word is a unit of spoken or written language. There are three kinds of words:


الحرف Particle	الفعل Verb	الاسم Noun
<p>وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے۔</p> <p>مثال: (لی) تک، (من) سے۔</p> <p>Is a word which gives meaning to a sentence only when it is used with verb or a noun.</p> <p>example: from-من to / towards-الی</p>	<p>وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ مثال: فَعَلَ، سَمِعَ۔</p> <p>A Verb denotes action in relation to past, present or future tense.</p> <p>example: he did-فعل he heard-سمع</p>	<p>وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، جانور، جگہ یا چیز کا نام بتائے اور اس میں تینوں زمانے (ماضی حال اور مستقبل) نہ پائے جائیں۔</p> <p>مثال: أَسَدٌ، هَذَا، جَبَلٌ۔</p> <p>A Noun is the name of a person, animal, place or thing. example: Asad, Woodpecker, Mountain...</p>

حرف	فعل	اسم
یاد کر لیجیے۔ حروف جر اور حروف عطف	یاد کر لیجیے - 40 صیغے	توین (مِء) - رجل، رجل، رجلاً
No sensible meaning, no tenses	معنی - (sensible meaning with tenses)	زیر - الرجل
		معنی - (sensible meaning without tenses)
		"ال" - الرجل

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
قَالَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (الإخلاص: 1)	He	وه	Huwa	هُوَ	
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. (التوبة: 40)	They (both)	وه دونوں	Humaa	هُمَا	
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرة: 4)	They (all)	وه سب	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. (التوبة: 40)	She	وه	Hiya	هِيَ	
هُمَا سَيِّدَاتَانِ	They (both)	وه دونوں	Humaa	هُمَا	
هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ. (البقرة: 187)	They (all)	وه سب	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (البقرة: 32)	You	آپ	Anta	أَنْتَ	
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْعَالِبُونَ. (القصص: 35)	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمْ	
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة: 91)	You (all)	آپ سب	Antum	أَنْتُمْ	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. (البخاري: 4850)	You	آپ	Anti	أَنْتِ	
أَنْتُمْ طَالِبَاتَانِ	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمْ	
أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ	You (all)	آپ سب	Antunna	أَنْتُنَّ	
		1st Person Male/Female		متكلم مذکر و مؤنث	
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الانعام: 79)	I	میں	Ana	أَنَا	
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. (الصف: 14)	We	ہم	Nahnu	نَحْنُ	

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. (التغابن: 1)	His	اس کا	Hu	هُ	
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. (القصص: 19)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا	
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (البقرة: 7)	Their (all)	ان سب کا	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
لَهَا مَا كَسَبَتْ. (البقرة: 134)	Her	اس کا	Haa	هَا	
فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ. (النساء: 176)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا	
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. (البقرة: 29)	Their (all)	ان سب کا	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. (آل عمران: 35)	Yours	آپ کا	Ka	كَ	
وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا. (القصص: 35)	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُهَا	
أَجَلَ لَكُمْ الظِّبْيَاتِ. (المائدة: 4)	Yours (all)	آپ سب کا	Kum	كُهم	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
اقْنَبِي لِرَبِّكِ. (آل عمران: 43)	Yours	آپ کا	Ki	كِ	
أَبوكُما مُهْنِدِش	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُهَا	
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. (النساء: 11)	Yours (all)	آپ سب کا	Kunna	كُنَّ	
		1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
وَإِنِّي فَاتَّقُونِ. (البقرة: 41)	My	میرا	Yi	ي	
رَبِّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. (البقرة: 127)	Our	ہمارا	Naa	نَا	

Near Distance/ أسماء الإشارة للقريب

English	اردو	Roman	مثالیں	عربی	Sl.No.
This	یہ	Haaza	هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ. (ال عمران: 138)	 هَذَا	1
These (both)	یہ دونوں	Haazaani	هَذَيْنِ تَخْصِنِ احْتَصِمُوا فِي رَيْبِهِمْ. (الحج: 19)	 هَذَانِ	2
These (all)	یہ سب	Haa'ulaae	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَیْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ. (الحجر: 68)	 هَؤُلَاءِ	3
This	یہ	Haazihi	هَذِهِ تَأْقَةُ اللَّهِ. (هود: 64)	 هَذِهِ	4
These (both)	یہ دونوں	Haataani	هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ. (ابن ماجه: 2216)	 هَاتَانِ	5
These (all)	یہ سب	Haaulaae	قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ. (هود: 78)	 هَؤُلَاءِ	6

That	وہ	Zaalika	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (البقرة: 2)	 ذَلِكَ	1
Those (both)	وہ دونوں	Zaanika	ذَانِكَ يَوْمَانِ يُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. (النساء: 2357)	 ذَانِكَ	2
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (البقرة: 5)	 أُولَئِكَ	3
That	وہ	Tilka	تِلْكَ أُمَّةٌ. (البقرة: 134)	 تِلْكَ	4
Those (both)	وہ دونوں	Taanika	تَانِكَ الْمُرْتَدَانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّيْبِذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ. (المعجم الكبير، مصنف عبد الرزاق)	 تَانِكَ	5
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	أُولَئِكَ النِّسَاءُ	 أُولَئِكَ	6

Who, That, Which	وہ شخص جو	Allazi	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. (الكهف: 1)	الَّذِي	1
Who, That, Which	وہ دو شخص جو	Allazaani	وَالَّذِي يَأْتِيهَا مِنْكُمْ. (النساء: 16)	الَّذَانِ	2
Who, That, Which	وہ سب لوگ جو	Allazeena	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْمُؤُونَ. (المعارج: 23)	الَّذِينَ	3
Who, That, Which	وہ عورت جو	Allati	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (ال عمران: 131)	الَّتِي	4
Who, That, Which	وہ دو عورتیں جو	Allataani	الْإِمْرَأَتَانِ اللَّعَانُ تَنْظِفَانِ الْبَيْتَ.	الَّتَانِ	5
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaati Allaee	وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ. (النساء: 23) وَالَّتِي يَكْسِنُ مِنَ الْمَجِيضِ. (الطلاق: 4)	الَّتِي الَّتِي	6

حواله	مثال	حروف	حواله	مثال	حروف
(يس: 77)	يَرَ الْإِنْسَانَ	أ	(النساء: 17)	إِنَّمَا التَّوْبَةُ	ت
(الرعد: 12)	يُرِيكُمْ الْبَرْقَ	ب	(محمد: 15)	كُلِّ الثَّمَرَاتِ	ث
(البقرة: 273)	يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ	ج	(الفاتحه: 4)	يَوْمَ الدِّينِ	د
(الاحزاب: 35)	وَالْحَافِظِينَ	ح	(يوسف: 13)	يَأْكُلُهُ الذَّنْبُ	ذ
(البقرة: 219)	عَنِ الْخَمْرِ	خ	(آل عمران: 151)	كَفَرُوا الرَّعْبَ	ر
(التوبة: 117)	سَاعَةَ الْعُسْرَةِ	ع	(البقرة: 43)	وَأَتُوا الزَّكَاةَ	ز
(المائدة: 56)	هُمْ الْغَالِبُونَ	غ	(الحجر: 16)	فِي السَّمَاءِ	س
(الاعراف: 64)	فِي الْفُلْكِ	ف	(القصاص: 44)	مِنَ الشَّاهِدِينَ	ش
(الحجر: 55)	مِنَ الْقَانِطِينَ	ق	(الحج: 41)	أَقَامُوا الصَّلَاةَ	ص
(يونس: 1)	آيَاتِ الْكِتَابِ	ك	(الفاتحه: 7)	وَلَا الضَّالِّينَ	ض
(النساء: 103)	عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	م	(النحل: 79)	إِلَى الطَّيْرِ	ط
(الشعراء: 136)	مِنَ الْوَاعِظِينَ	و	(الفرقان: 45)	مَدَّ الظِّلَّ	ظ
(النمل: 20)	لَا أَرَى الْهَيْدَةَ	هـ	(مؤمنون: 3)	عَنِ اللَّغْوِ	ل
(هود: 43)	لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ	ي	(البقره: 257)	مِنَ النُّورِ	ن

اللام الشمسية : هي اللام التي تكتب ولا تُلْفِظ أثناء القراءة . خالية من أي حركة . ويأتي الحرف الذي يليها مُشَدِّدًا .

ومثل قوله تعالى : «وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ» . (الطارق:1)

اللام القمرية : هي اللام التي تُكْتَبُ وتُلْفِظ ، دائما تكون ساكنة . ويكون الحرف الذي بعدها غير مُشَدِّد .

مثل قوله تعالى : «وَالْقَمَرِ» . (الشمس:2)

English	اردو	Roman	عربی
Now	اب	Al'aana	الآن
Tomorrow	کل (آنے والا)	Ghadan	غداً
Yesterday	کل (گزرا ہوا)	Amsi	أمس
Before	پہلے	Qablu	قَبْلُ
Then	بعد میں	Ba'du	بَعْدُ
Today	آج	Al-yaumu	الْيَوْمُ
Day after tomorrow	پرسوں (آنے والا)	Ba'da ghad	بَعْدَ غَدٍ
Day before yesterday	پرسوں (گزرا ہوا)	Qablal ams	قَبْلَ الْأَمْسِ
Winter	موسم سرما	Shitaa'	شِتَاءُ
Summer	موسم گرما	Saif	صَيْفُ
Spring	موسم بہار	Ar-Rabee'	الرَّبِيعُ
Autumn	موسم خزاں	Al-Khareef	الْخَرِيفُ

Above	اوپر	Fauqa	فَوْقَ
Under	نیچے	Tahta	تَحْتَ
Here	یہاں	Huna	هُنَا
Beyond	آگے	Quddaam	قُدَّامَ
Behind	پچھے	Khalfa	خَلْفَ
Near	قریب	Lada	لَدَى
There	وہاں	Hunaak	هُنَاكَ
Behind	پچھے	Waraa'a	وَرَاءَ
Before	آگے	Amaama	أَمَامَ
Right	دائیں	Yameen	يَمِينُ
Left	بائیں	Yasaar	يَسَارُ
East	مشرق	Ash-sharq	الشَّرْقُ
West	مغرب	Al-gharb	الْغَرْبُ
North	شمال	Shimaal	شِمَالُ
South	جنوب	Junoob	جُنُوبُ

In/with	کے ساتھ	Baa	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - (سورة النحل: ۳۰)	ب	1
Swear	قسم	Taa	تَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَنَا اَصْنَامُكُمْ - (سورة الانبياء: ۵۴)	ت	2
Like/as	کی طرح، کے جیسا	Kaaf	مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ - (سورة النور: ۳۵)	ک	3
For/to	کے لیے	Laam	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - (سورة الفاتحه: ۱)	ل	4
Swear	قسم	Waow	وَالْعَصْرِ - (سورة العصر: ۱)	و	5
Since	جب سے	Munzu	مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ	مُنْذُ	6
Since	جب ، سے	Muz	مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ	مُنْذُ	7
Except	سوائے	Khalaa	جَاءَ فِي الْقَوْمِ خَلَا زَيْدٍ	خَلَا	8
Sometimes	کبھی کبھی	Rubba	رُبَّ مُبَلِّغٍ اَوْ عَمِيٍّ مِنْ سَامِعٍ - (صحیح البخاری: ۱۴۳۱)	رُبَّ	9
Except	سوائے	Haashaa	جَاءَ فِي الْقَوْمِ حَاشَا زَيْدٍ	حَاشَا	10
From/than	سے	Min	وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ الْیَّكُ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ - (سورة البقرة: ۲)	مِنْ	11
Except	علاوہ	Ada	جَاءَ فِي الْقَوْمِ عَدَا زَيْدٍ	عَدَا	12
In	میں	Fee	وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - (سورة الذاریات: ۲۲)	فِي	13
From/about	سے	An	وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا - (سورة البقرة: ۳۸)	عَنْ	14
On/upon	پر	Ala	وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا - (سورة ال عمران: ۹۷)	عَلَى	15
Until	تک	Hatta	سَلَامٌ هِيَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ - (سورة القدر: ۵)	حَتّٰی	16
To/towards	تک ، کی طرف	Ilaa	اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِيَ اَحْسَنُ - (سورة النحل: ۱۲۵)	اِلٰی	17

تعریف : حروف جر یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسماء کو جر دینے والے۔

شعر: باء وتاء وكاف ولام و واؤ ومنذ و مذ خلا : رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No
And	اور	Waa	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. (الفاتحة: 5)	و	1
So	پس	Faa	أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَتْهُ. (عبس: 21)	ف	2
Or	یا	Aw	فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. (بقرة: 74)	أَوْ	3
Or	یا	Am	ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ السَّمَاءُ بِنُهَا. (النازعات: 27)	أَمْ	4
When, then	جب	Izan	إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. (البقرة: 145)	إِذَا	5
So, then	پھر	Summa	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَقْوَامًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (بقرة: 28)	ثُمَّ	6
Until	یہاں تک کہ	Hattaa	وَأَذُقْتُمْ بِمُوسَى لَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. (بقرة: 55)	حَتَّى	7
Some	کچھ	Ammaa	قُلْ إِنَّ الدَّارِ الْكَرِيمِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ. (انعام: 143)	أَمَّا	8
Either	یا تو	Immaa	قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ مَحْنُ الْمُلْقِينَ. (اعراف: 115)	إِمَّا	9

تعریف: حروفِ عطف وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔

شعر: أَمَّا إِمَّا ثُمَّ أَوْ حَتَّى أَمْ - إِذَا وَفَا إِذَا وَفَا إِذَا وَفَا

3rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-lat	فَعَلَتْ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلْنَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-al-na	فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tu-maa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tum	فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
you did	تم نے کیا	Fa-al-ti	فَعَلْتِ
you (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tumaa	فَعَلْتُمَا
you (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tunna	فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-al-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم نے کیا	Fa-al-naa	فَعَلْنَا

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is doing / He will do	وہ کرتا ہے یا کرے گا	Yaf-a-lu	يَفْعَلُ
they (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-laa-ni	يَفْعَلَانِ
they (all) are doing / they will do	وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-loona	يَفْعَلُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is doing / She will do	وہ کرتی ہے یا کرے گی	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
they (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتی ہیں یا کریں گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
they (all) are doing / they will do	وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی	Yaf-al-na	يَفْعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
you are doing / you will do	تم کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
you (both) are doing / you will do	تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
you (all) are doing / you will do	تم سب کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-loona	تَفْعَلُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
you are doing / you will do	تم کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-leena	تَفْعَلِينَ
you (both) are doing / you will do	تم دونوں کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
you (all) are doing / you will do	تم سب کرتی ہو یا کرو گی	Taf-al-na	تَفْعَلْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am doing / I will do	میں کرتا ہوں یا کروں گا	Af-a-lu	أَفْعَلُ
we are doing / we will do	ہم کرتے ہیں یا کریں گے	Naf-a-lu	نَفْعَلُ

Arshad Basheer Madani Notes

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You do	تم کرو	If-al	إَفْعَلْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	إَفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-a-loo	إَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You do	تم کرو	If-a-lee	إَفْعَلِيْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	إَفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-al-na	إَفْعَلْنَ

Arshad Basheer Madani Notes

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-al	لَا تَفْعَلْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-aloo	لَا تَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-alee	لَا تَفْعَلِيْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-alna	لَا تَفْعَلْنَ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

الكلمات العربية والمجاذبات

Vocabulary & Phrases

Arshad Basheer Madani Notes

Arabic words

مفید الفاظ و معانی

الكلمات العربية

01

School

اسکول

المدرسة

أ

In the office

آفس کے اندر

في المكتب

ب

Professions / Occupations

پیشہ / مہارت

مہن / وظائف

ج

Inside the Airport

ایئر پورٹ کے اندر

داخل المطار

د

In the town

شہر میں

في المدينة

ه

The Train

ریل گاڑی

القطار

و

Useful expressions

مفید تعبیرات

تعبیر مفيدة

02

Useful Arabic words for daily usage

روز مرہ بات چیت میں استعمال
ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

الكلمات العربية المستخدمة
اليومية - 1

03

Useful Arabic words for daily usage

روز مرہ بات چیت میں استعمال
ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

الكلمات العربية المستخدمة
اليومية - 2

04

Greetings

سلام و نما

التحيات

أ

Farewell Expressions

وداعی کلمات

تعبیر الوداع

ب

Wishes

مبارکبادیاں

الأمنیات

ج

How to Introduce Yourself

ذاتی تعارف

كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

د

Solving a Misunderstanding

بدگمانی دور کرنا

حَلُّ سُوءِ تَفَاهُمٍ

ه

Asking for Directions

سمت کی دریافت اور مدد کا سوال

السُّؤَالُ عَنِ الْأَتِّجَاهَاتِ وَ
طَلْبُ الْمَسَاعِدَةِ

و

Emergency

ایمر جنسی

الطَّوَارِئِ

ز

Hotel, Restaurant and Travel Phrases

ہوٹل، ریسٹورنٹ اور سفر

الْفَنَادِقِ وَ الْمَطَاعِمِ وَ
السَّفَرِ عُمُومًا

ح

Daily Expressions

روزانہ کی گفتگو

إِسْتِخْدَامُ يَوْمِي

ط

At the time of not comfortable

پریشانی کے وقت پر بولے جانے والے کلمات

الْكَلِمَاتُ عِنْدَ الْأِزْجَاعِ

ی

Writing a Letter

خط و کتابت

الْمُرَامَلَةُ

ی

Comparison Words

موازناتی کلمات

الكلمات المقارنة

05

Explication

مساعد الفاظ (عربی کے تکیہ کلام)

الكلمات المساعدة والمساندة

06


Qualities and her opposites

صفات اور ان کی ضدوا

الصفات و اضدادها

07

الكلمات العربية



School	اردو	اسکول	المدرسة	عربي
ENGLISH	اردو	ROMAN		عربي
Kindergarten	زرری اسکول	Rauzatul atfaal		رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
School	اسکول	Madrasah		مَدْرَسَةٌ
Primary school	پرائمری اسکول	Madrasah ibtidaiyyah		مَدْرَسَةٌ اِبْتِدَائِيَّةٌ
Middle school	مڈل اسکول	Madrasah e'daadiyyah		مَدْرَسَةٌ اِعْدَادِيَّةٌ
High school	ہائی اسکول	Madrasah saanawiyyah		مَدْرَسَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
College	کالج	Kulliyyah		كُلِّيَّةٌ
University	یونیورسٹی	Jaamiah		جَامِعَةٌ
Institute	انسٹی ٹیوٹ	Ma'had		مَعْهَدٌ
Class	کلاس	Fasl		فَصْلٌ
Tutor/ teacher	استاذ	Mu'allim		مُعَلِّمٌ
Teacher	مدرس	Mudarris		مُدْرِسٌ
Professor	پروفیسر	Ustaaz		اُسْتَاذٌ
Student	طالب علم	Taalib		طَالِبٌ
Student	شاگرد	Tilmeez		تَلْمِيذٌ
Headmaster	ہیڈ ماسٹر / مہتمم، ڈائریکٹر	Mudeer		مُدِيرٌ
Chancellor	چانسلر	Raees		رئيسٌ

الكلمات العربية

Dean/ principal	ڈین / پرنسپل	Ameed	عَمِيدٌ
Inspector	انسپیکٹر	Mufattish	مُفَتِّشٌ
Registrar	رجسٹرار	Musajjil	مُسَجِّلٌ
Primary	ابتدائی (پرائمری)	Ibtidaee	إِبْتِدَائِيٌّ
Preparatory	اعدادی	E'daadi	إِعْدَادِيٌّ
Secondary	ثانوی	Saanawi	ثَانَوِيٌّ
School library	اسکول لائبریری	Maktabatul madrasah	مَكْتَبَةُ الْمَدْرَسَةِ
Laboratory	لیبارٹری	Ma'mal	مَعْمَلٌ
Technical institute	ٹیکنیکی ادارہ	Ma'had fanni	مَعْهَدٌ فَنِّيٌّ
Academy	اکیڈمی	Majma' ilmi	مَجْمَعٌ عِلْمِيٌّ
Register	رجسٹر	Sijil	سِجِلٌ
Note book	نوٹ بک / کاپی	Kurraasah	كُرَّاسَةٌ
Fountain pen	فائونٹین پین	Qalamu hibrin saaelin	قَلَمٌ حَبْرِيٌّ سَائِلٌ
Ball point pen	بال پوائنٹ پین	Qalamu hibrin naashifin	قَلَمٌ حَبْرِيٌّ نَاشِفِيٌّ
Pencil	پنسل	Qalamu rasaas	قَلَمٌ رَصَاصِيٌّ
Scale	اسکیل	Mistarrah	مِسْطَرَةٌ
Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ
Dictionary	ڈکشنری	Qaamoos	قَامُوسٌ
Rubber/ Eraser	ربر	Mimhaah/ mahhaayah	مِمْحَاةٌ \ مَحَايَةٌ
Pencil sharpener	قلم تراش	Barraayah	بَرَّايَةٌ
Inkpot	دوات	Mihbarah	مِحْبَرَةٌ
Ink	روشنائی	Hibr	حَبْرٌ
Blotter - Blotting	سیاہی چوس، جاذب	Nashshaafah	نَشَافَةٌ

الكلمات العربية

Slate	سليٲ	Lauhu hajar	لَوْحٌ حَجَرٍ
Black board	تختة سياه	Sabboorah	سَبُّورَةٌ
Chalk	چاك	Tabshoor	طَبَشُورٌ (طَبَاشِيرٌ)
Bench	بنچ	Maq'ad	مَقْعَدٌ
Map	نقشه	Khareetah	خَرِيْطَةٌ
Globe	گلوب	Al-kuratul arziyyah	الْكُرَّةُ الْأَرْضِيَّةُ
Shelf	شيف	Raff	رَفٌّ
Paper	كاند	Waraqah	وَرَقَةٌ
Line	سطر	Satr	سَطْرٌ
Margin	كتاب كا حاشيه	Haamish	هَامِشٌ
Practice – exercise	مشق	Tamreen / Tadreebun	تَمْرِيْنٌ / تَدْرِيبٌ
Volume	جلد – نسخہ	Mujallad – nusqah	مُجَلَّدٌ - نُسْخَةٌ
Preface	مقدمہ	Muqaddimah	مُقَدِّمَةٌ
Index/ contents	فہرست	Fehris	فِهْرِيْسٌ
Programme	پروگرام	Barnaamaj	بَرْنَامَجٌ
Language	زبان	Lughah	لُغَةٌ
Illiterate	جاہل	Jaahil	جَاهِلٌ
Unlettered	بے لکھا پڑھا	Ummiy	أُمِّيٌّ
Success	کامیابی	Najaah	نَجَاحٌ
Failure (in examination)	ناکامی (امتحان میں)	Rusoob	رُسُوْبٌ
Lesson	سبق	Dars	دَرْسٌ
Sentence	جملہ	Jumlah	جُمْلَةٌ
Letter, preposition	کلمہ ، حرف	Kalimah, harf	كَلِمَةٌ، حَرْفٌ


الكلمات العربية

Grammar	گرامر / قواعد	Qawaaed	قَوَاعِدُ
Reading	مطالعة	Qiraa'ah	قِرَاءَةٌ
Literature	ادب	Adab	أَدَبٌ
History	تاریخ	Tareekh	تَارِيخٌ
Drawing	ڈرائنگ / نقش نگاری	Rasm	رَسْمٌ
Poetry	شاعری	She'r	شِعْرٌ
Music	موسیقی، میوزک	Mauseeqi / Maazif	مَوْسِيقِي / مَعَارِيفٌ
Science of law	علم قانون	Ilmul huqooq	عِلْمُ الْحُقُوقِ
Mathematics	علم ریاضی	Riyaziyyaat	رِیَاضِيَّاتٌ
Chemistry	علم کیمیا	Ilmul kimiyyaa'	عِلْمُ الْكِيمِيَاءِ
Geography	علم جغرافیہ	Ilmul joghraafiya	عِلْمُ الْجُغْرَافِيَا
Philosophy	فلسفہ	Falsafah	فَلَسَفَةٌ
Gymnastics	جسمانی ورزش	Riyazah badaniyyah	رِیَاضَةُ بَدَنِيَّةٌ
Botany	علم نباتات	Ilmun nabaat	عِلْمُ النَّبَاتِ
Mineralogy	علم معدنیات	Ilmul ma'aadin	عِلْمُ الْمَعَادِنِ
Biology	بیالوجی / علم حیاتیات	Ilmul ahyaa'	عِلْمُ الْأَحْيَاءِ
Zoology	زولوجی / علم حیوانات	Ilmul hayawaan	عِلْمُ الْحَيَوَانَ
Geology	علم ارضیات	Ilmu tabaqaatil arz	عِلْمُ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ
Sociology	عمرانیات / علم سماجیات	Ilmul ijtimaa'	عِلْمُ الْإِجْتِمَاعِ
Addition	جمع	Jama'	جَمْعٌ
Subtraction	تفریق	Tarh	طَرْحٌ
Multiplication	ضرب	Zarb	ضَرْبٌ
Division	تقسیم	Qismah	قِسْمَةٌ

الكلمات العربية

Science	سائنس	Uloom	عُلُومٌ
Records/ Archives	ریکارڈ (پرانے کاغذات) آرکائیوز	Mahfuzaat	مَحْفُوظَاتٌ
Documents	دستاویزات	Muṣṭanadaat / wasaaeq	مُسْتَنَدَاتٌ / وَثَائِقٌ
Translation	ترجمہ	Tarjamah	تَرْجَمَةٌ
Dictation	املا نویسی	Imlaa'	إِمْلَاءٌ
Permission	اجازت	Izn	إِذْنٌ
Interval/ Break	وقفہ آرام	Fatrah istiraahah	فَتْرَةٌ إِسْتِرَاحَةٍ
Maximum	زیادہ سے زیادہ	An-nihaayatul uzma	النِّهَايَةُ الْعُظْمَى
Minimum	کم سے کم	An-nihaayatus sughra	النِّهَايَةُ الصَّغْرَى
Written	تحریری	Tahreeri	تَحْرِيرِيٌّ
Punctuality	پابندی	Muwaaazabah	مُوَاطَبَةٌ
Discipline	نظم و ضبط	Nizaam	نِظَامٌ
Guardian	طالب علم کا سرپرست	Waliyyu amrit - tilmeez	وَلِيٌّ أَمْرٍ التِّلْمِيذِ
Record book	ریکارڈ	Daftaru qaid	دَفْتَرُ قَائِدٍ
Expenditure book	دفتر اخراجات	Sijillul masroofat	سِجِلُّ الْمَصْرُوفَاتِ
Librarian	لائبریرین	Ameenu maktabah	أَمِينُ مَكْتَبَةٍ
Holiday	چھٹی	Utlah	عُطْلَةٌ
Marks	نمبرات	Alaamaat	عَلَامَاتٌ
Reward/ prize	انعام	Mukaafaah	مُكَافَأَةٌ
Punishment/ penalty	سزا	Iqaab	عِقَابٌ / غَرَامَةٌ
Bell	گھنٹی	Jaras	جَرَسٌ
Home work	گھر کا کام (ہوم ورک)	Waajibaat manziliyyah	وَاجِبَاتٌ مَنْزِلِيَّةٌ

الكلمات العربية



In the office

آفس کے اندر

في المكتب



ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Table	میز	Maktab	مَكْتَبٌ
Telephone	ٹیلیفون	Haatif – tilfoon	هَاتِفٌ - تِلْفُونٌ
Typewriter	ٹائپ رائٹر	Aalatu kaatibah	آلَةُ كَاتِبَةٍ
Calculator	کیلکولیٹر	Aalatu haasibah	آلَةُ حَاسِبَةٍ
Diary	ڈائری	Mufakkirah	مُفَكِّرَةٌ
Punch	پنچ	Kharraamah	خَرَامَةٌ
Stapler	اسٹپلر	Dabbaasah	دَبَّاسَةٌ
Paper clip	کلپ	Mishbak lil auraaq	مِشْبَكٌ لِلْأَوْزَاقِ
Sheet/ paper	کاغذ کی شیٹ	Waraqah	وَرَقَةٌ
File	فائل	Malaf	مَلَفٌ
File cabinet	فائلوں رکھنے کی الماری	Khizaanatu malaffaat	خِزَانَةُ مَلَفَّاتٍ
Carbon - paper	کاربن پیپر	Waraqah karboon	وَرَقٌ كَرْبُونٍ
Note book	نوٹ بک	Daftaru mulaahazaat	دَفْتَرٌ مُلَاَحَظَاتٍ
paper tray	کاغذات رکھنے کی ٹری	Sallatu rasaael	سَلَّةٌ وَسَائِلٍ
Wastepaper- basket	ردی کی ٹوکری	Sallatu Muhammalaat	سَلَّةٌ مُهْمَلَاتٍ
Telephone operator	ٹیلیفون آپریٹر	Aamilu baddaalatit tilfoon	عَامِلٌ بَدَالَةِ التِّلْفُونِ
Calendar	کیلنڈر	Taqweem	تَقْوِيمٌ

الكلمات العربية



Professions / Occupations	پیشہ / مہارت	مہن / وظائف	عربي
ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Engineer	انجینئر	Muhandis	مُھَنْدِسٌ
Civil Engineer	سول انجینئر	Muhandis Madani	مُھَنْدِسٌ مَدَنِيٌّ
Mechanical Engineer	میکانیکل انجینئر	Muhandis mikaaniki	مُھَنْدِسٌ مِيكَانِيكِيٌّ
Electrical Engineer	الیکٹریکل انجینئر	Muhandis kahrbaae	مُھَنْدِسٌ كَهْرَبَانِيٌّ
Chief Editor	چیف ایڈیٹر	Raeesu tahreer	رَبِيسُ تَحْرِيرٍ
Editor	ایڈیٹر	Mudeeru tahreer	مُدِيرُ تَحْرِيرٍ
Correspondent	نامہ نگار	Muraasil sahabi	مُرَاسِلٌ صَحْفِيٌّ
Journalist	صحافی	Sahafi	صَحَافِيٌّ، صَحْفِيٌّ
Clerk	کلرک	Kaatib	كَاتِبٌ
Author/ Writer	مقالہ نگار / رائٹر	Kaatib	كَاتِبٌ
Author/ Compiler	مصنف - مؤلف	Mu'allif	مُؤَلِّفٌ
Translator	مترجم	Mutarjim	مُتَرْجِمٌ
Teacher	استاد	Mudarris	مُدَرِّسٌ
Lady Teacher	استانی	Mudarrisah	مُدَرِّسَةٌ
Tutor	استاذ	Mu'allim	مُعَلِّمٌ

الكلمات العربية

Lecturer	لیکچرر	Muhaazir	مُحَاضِرٌ
Professor	پروفیسر	Ustaaaz	أُسْتَاذٌ
Doctor	ڈاکٹر	Tabeeb	طَبِيبٌ
Surgeon	سرجن	Jarraah	جَرَّاحٌ
Dentist	دانتوں کا ڈاکٹر	Tabeebu asnaan	طَبِيبُ أَسْنَانٍ
General Physician	جنرل فزیشن	Tabeebu aam	طَبِيبٌ عَامٌّ
Eye- specialist	آنکھوں کا ڈاکٹر	Tabeebu uyoon	طَبِيبٌ عَيْنُونَ
Veterinary doctor	مویشیوں کا ڈاکٹر	Tabeebu baitari	طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ
Nurse	نرس	Mumarrizah	مُمَرِّضَةٌ
Specialist	اسپیشلسٹ	Akhsaaee	أَخْصَايِيٌّ
Accountant	اکاؤنٹینٹ	Muhaasib	مُحَاسِبٌ
Book- Keeper	بک کیپر	Maasiku dafaatir	مَاسِكُ دَفَاتِرٍ
Auditor	آڈیٹر	Mudaqqiqu hisaabaat	مُدَقِّقُ حِسَابَاتٍ
Judge	جج	Qaazi	قَاضٍ (الْقَاضِي)
Chief justice	چیف جسٹس	Raeesul quzaah	رَبِيسُ الْقَضَاةِ
Advocate/ Lawyer	وکیل	Muhaami	مُحَامٍ (الْمُحَامِي)
Draftsman	نقشہ نویس	Rassaam	رَسَّامٌ
Actor	اداکار	Mumassil	مُمَثِّلٌ
Actress	اداکارہ	Mumassilah	مُمَثِّلَةٌ
Photographer	فوٹو گرافر	Musawwir	مُصَوِّرٌ
Producer	پروڈیوسر	Mukhrij	مُخْرِجٌ
Cameraman	کیمرامین	Musawwir	مُصَوِّرٌ (سِينَمَايِيٌّ)
Soldier	فوجی	Jundi	جُنْدِيٌّ

الكلمات العربية

Policeman	پولیس	Shurti	شُرْطِيّ
Announcer	اناؤنسر	Muzee'	مُذْبِع
Businessman	تاجر	Taajir	تَاجِرٌ
Magician	جادوگر	Saahir-musha'wiz	سَاحِرٌ - مُشْعُوذٌ
poet	شاعر	Shaaer	شَاعِرٌ
Bank clerk	بنک کا ملازم	Muwazzaf fil masraf	مُؤَظَّفٌ فِي الْمَصْرَفِ
Contractor	ٹھیکیدار	Muqaawil	مُقَاوِلٌ
Book binder	جلد ساز	Mujallidul maktab	مُجَلِّدُ الْمَكْتَبِ
Pharmacist/ chemist	دوا فروخت کرنے والا	Saidali	صَيْدَلِيّ
Politician	سیاستداں	Siyaasi	سِيَّاسِيّ
Landlord	زمیندار	Maalikul arz	مَالِكُ الْأَرْضِ
Novelist/ Story Writer	ناول نگار	Riwaae	رِوَايِيّ
Builder	معمار	Bannaa'	بَنَاءٌ
Greengrocer	سبزی فروش	Baaeu khuzaar	بَايِعُ خُضَارِ
Gardener	باغبان / مالی	Bustaani	بُسْتَانِيّ
Florist	گل فروش	Baaeu azhaar	بَايِعُ أَزْهَارِ
Salesman	سیلز مین	Baae'	بَايِعٌ
Sailor/ Seaman	کشتی بان / ملاح	Bahhaarah	بَحَّارَةٌ
Newspaper vendor	اخبار بیچنے والا	Baaeus suhuf	بَايِعُ الصُّحُفِ
Hawker	پھیری والا	Baaeu mutajawwil	بَايِعُ مُتَجَوِّلٌ
Retailer	خرده فروش / پرچون فروش	Baaeu bittajzi'ah	بَايِعُ بِالتَّجْزِئَةِ
Shoe maker / cobbler	موچی	Iskaaf	إِسْكَافٌ
Blacksmith	لوہار	Haddaad	حَدَّادٌ

الكلمات العربية

Baker	نان بائی	Khabbaaz	خَبَّازٌ
Barber / Hairdresser	نانی	Hallaaq	حَلَّاقٌ
Confection	حلوائی	Halwaani	حَلْوَانِيٌّ
Greengrocer	سبزی فروش	Khuzri	خُضْرِيٌّ
Turner	خرادیہ	Kharraat	خَرَّاطٌ
Watchman/ guard	چوکیدار	Haaris	حَارِسٌ
Butcher	قصابی	Jazaar	جَزَّارٌ
Weaver / knitter	جولاہا	Haaek	حَابِكٌ
Shoe maker	جوتا بنانے والا	Hazzaa'	حَدَّاءٌ
Jeweler	جوہری	Jauhari	جَوْهَرِيٌّ
Servant / Waiter	خادم	Khadim	خَادِمٌ
Treasurer	خزانچی	Khazin	خَازِنٌ
Craftsman / artisan	دستکار	Hirafi	حِرْفِيٌّ
Potter	کھار	Kharraaf	خَرَّافٌ
Coachman	کوچوان	Hoozi	حُوذِيٌّ
Milkman	گوالا	Hallaab – baaeul haleeb	حَلَّابٌ – بَاعِغُ الْحَلِيبِ
Tailor	درزی	Khayyaat	خَيَّاطٌ
Porter	قلی	Hammaal	حَمَّالٌ
Oil Seller	تیلی	Zayyaat	زَيَّاتٌ
Painter	پینٹر	Dahhaan	دَهَّانٌ
Broker/ agent	بروکر ایجنٹ	Simsaar	سِمْسَارٌ
Watchmaker	گھڑی ساز	Saa' aati	سَاعَاتِيٌّ

الكلمات العربية

Plumber	پلمبر	Samkari	سَمَكِرِيٌّ
Butter merchant	گھی فروش	Sammaan	سَمَّانٌ
Driver	ڈرائیور	Saaeq	سَائِقٌ
Dyer	رنگ ریز	Sabbaagh	صَبَّاعٌ
Cobbler	موچی	Saaneu ahziyah	صَانِعُ أَحْذِيَّةٍ
Fisherman	مُجھیرا	Sammaak	سَمَّاكٌ
Locksmith	تالے بنانے والا	Saaneu aqfaal	صَانِعُ أَقْفَالٍ
Shopkeeper	دکاندار	Saahibu matjar	صَاحِبُ مَتْجَرٍ
Postman	ڈاکیہ	Saael bareed	سَاعِيُ الْبَرِيدِ
Goldsmith	سنار، زرگر	Saae'	صَاعٍ
Glassmaker	شیشہ لگانے والا	Zajjaaj	زَجَّاجٌ
Typist	ٹائپسٹ	Zaarib alal aalatil kaatibah	ضَارِبٌ عَلَيَّ الْآلَةِ الْكَاتِبَةِ
Miller	چکی والا	Tahhaan	طَحَّانٌ
Labour	مزدور	Aamil	عَامِلٌ
Seller of perfume	عطر فروش	Attar	عَطَّارٌ
White Washer	سفیدی کرنیوالا	Tarraash	طَرَّاشٌ
Pressman/ printer	چھاپنے والا	Tabbaa'	طَبَّاعٌ
cook	باورچی	Tabbaakh	طَبَّاحٌ
Laundryman	دھوبی	Ghassaal	غَسَّالٌ
Docker	گودی مزدور	Aamilu raseefil meenaa'	عَامِلٌ رَصِيفِ الْمِينَاءِ
Coal miner	کان کن	Aamilun fi manjam	عَامِلٌ فِي مَنْجَمٍ
Welder	ویلڈر	Lihaam	لِحَامٌ

الكلمات العربية

Conductor	کنڈکٹر	Qaatiut-tazaakir	قَاطِعُ التَّذَاكِرِ
Dramatist/ Playwright	ڈرامہ نگار	Kaatib masrahi	کَاتِبُ مَسْرَحِيٍّ
T.T.E	ٹی ٹی ای	Qaatiut-tazaakir fil qitaar	قَاطِعُ التَّذَاكِرِ فِي الْقِطَارِ
Farmer	کسان	Fallaah	فَالَّاحُ
Sweeper	جاروب کش / جھاڑو دینے والا	Kannaas	كَتَّاسٌ
Electrician	الیکٹریشن	Kahrabaae	كَهْرَبَائِيٌّ
Artist	آرٹسٹ	Fannaan	فَنَّانٌ
Waiter	ویٹر	Jarsoon – nidl	جَزْسُونٌ – نِدْلٌ
Carpenter	بڑھئی	Najjaar	نَجَّارٌ
Upholsterer	صوفہ ساز	Munajjid	مُنَجِّدٌ
Vaccinator	چیچک کے ٹیکے لگانے والا	Mulaqqih	مُلَقِّحٌ
Stableman	اصطبل دار	Saaesu khuyool	سَاسِسُ خَيُْولٍ
Sculptor/ carver	سنگ تراش	Nahhaat	نَحَّاتٌ
Mechanic/ operator	مشین آپریٹر	Aamilu mikaaniki	عَامِلٌ مِيكَانِيكِيٌّ
Sailor/ seaman	مانجھی	Nooti	نُوتِيٌّ
Clown/ joker	جوکر۔ مسخرہ	Muharrij	مُهَرِّجٌ

الكلمات العربية



ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Where is the toilet please?	برائے مہربانی بیت الخلاء کہاں ہے (بتلائیے)؟	Aina dauratul miyaah min fazlik?	أَيْنَ دَوْرَةُ الْمِيَاهِ مِنْ فَضْلِكَ؟
Airport.	ہوائی اڈہ	Al-mataar	الْمَطَارُ
The plane.	جہاز	At-taaerah	الطَّائِرَةُ
Flight.	ہوائی سفر	Rihlatu tayaraan	رِحْلَةُ طَيْرَانٍ
Luggage.	سامان سفر (بستے)	Amti'atus-safar (al-hqaaeb)	أَمْتَعَةُ السَّفَرِ (الْحَقَائِبِ)
Baggage.	سامان	Al-amti'atu	الْأَمْتَعَةُ
Hand bag.	ہاتھ والا بستہ	Haqeebatu yad (shantatu yad)	حَقِيبَةُ يَدٍ (شَنْطَةُ يَدٍ)
Bag.	بستہ	Shantah (Haqeebah)	شَنْطَةُ (حَقِيبَةُ)
Arrival.	پہنچنا	Al-wusool	الْوُصُولُ
Departure.	نکلنا	Al-raheel\ al-mughaadarah	الرَّحِيلُ / الْمَغَادَرَةُ
Luggage shelf.	خانہ سامان	Rafful haqaaeb (makhzanul haqaaeb)	رَفُّ الْحَقَائِبِ (مَخْزَنُ الْحَقَائِبِ)
Plane window.	ہوائی جہاز کی کھڑکیاں	Naafizatut-taaerah	نَافِذَةُ الطَّائِرَةِ
Tray meal.	ایک وقت کا کھانا	Al-wajbah	الْوَجْبَةُ
Emergency exit.	ہنگامی جائے خروج ایمر جنسی راستہ	Babut-twaari'	بَابُ الطَّوَارِئِ
No smoking.	سگریٹ نوشی ممنوع ہے	Mamnoo'ut tadmkeen	مَمْنُوعُ التَّدْخِينِ

الكلمات العربية

Departure lounge.	انتظار گاہ	Saalatul mughadarah (Saalatur raheel)	صَالَةُ الْمُعَادَرَةِ (صَالَةُ الرَّحِيلِ)
Flight number.	ہوائی جہاز کا نمبر	Raqamur rihlah (raqamu rihlatit tayaraan)	رَقْمُ الرِّحْلَةِ (رَقْمُ رِحْلَةِ الطَّيْرَانِ)
The plane will take off soon.	ابھی ہوائی جہاز پرواز کرے گا۔	Saufa tuqli'ut taaeratu haalan	سَوْفَ تُقْلِعُ الطَّائِرَةَ حَالًا
Have a good trip.	میں آپ کے اچھے سفر کی تمنا کرتا ہوں	Atamanna laka rihlatan tayyibah Saecedah	أَتَمَنَّى لَكَ رِحْلَةً طَيِّبَةً سَعِيدَةً
Fasten your seat belt.	اپنا سیٹ بٹ لگا لیجیے	Irbit hizaamak	إزْبِطْ حِزَامَكَ
Ticket.	تکٹ	tazkirah	تَذْكِرَةٌ
Runway.	ہوائی جہاز کی اڑان کا راستہ	Mudarrajut taaeraat (mahbitut taaeraat)	مُدَرَّجُ الطَّائِرَاتِ (مَهْبِطُ الطَّائِرَاتِ)
Landing.	ہوائی جہاز کا اترنا۔	Hubootut taaerah	هُبُوطُ الطَّائِرَةِ
Take off.	پرواز	Al-iqlaa'au	الْإِقْلَاعُ
Seat.	نشست	Al-maq'ad	الْمَقْعَدُ
Crew.	ہوائی جہاز کا عملہ	Taaqimut taaerah	طَائِقُ الطَّائِرَةِ
Pilot.	جہاز ران / پائلٹ	Qaaedatut taaerah \ rubbaan \ kaabitan	قَائِدُ الطَّائِرَةِ / رُبَّانُ / كَابِتِن

الكلمات العربية



ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Street.	سڑک	Ash-shaari'au	السَّارِعُ
Shop.	دکان	Ad-dukkaan	الدُّكَّانُ
Traffic light.	ٹرافک لائٹ	Isharatul muroor	إِشَارَةُ الْمُرُورِ
Pavement / Foot path	فٹ پات	Ar-raseef	الرَّصِيفُ
Car.	کار	sayyarah	سَيَّارَةٌ
Taxi.	کرایہ کی کار	Sayyaratul ujah	سَيَّارَةُ الْأُجْرَةِ
Cafe.	(چائے کی) ہوٹل	Maq'ha	مَقْهَى
Restaurant.	ہوٹل	Mat'am	مَطْعَمٌ
Bus stop.	بس اسٹاپ	Mahattatul utobees	مَحَطَّةُ الْأَتُوبِيسِ
Hotel.	ہوٹل	funduq	فُنْدُقٌ
Bridge.	پل	Jisrun\ kubri	جِسْرٌ / كُبْرِي
Pedestrian crossing.	زیبرا کراسنگ (بیدل چلنے والوں کی کراسنگ)	Uboorul mushaah	عُبُورُ الْمَشَاةِ
Letter box.	ڈاک کا ڈبہ	Sundooqul bareedi	صُنْدُوقُ الْبَرِيدِ
Railway station.	ریلوے اسٹیشن	Mahattatul qitaar	مَحَطَّةُ الْقِطَارِ

الكلمات العربية

Pedestrians.	پیدل چلنے والے	Al-mushaatu	الْمُشَاةُ
City center.	شہر کے بیچ	Wasatul madinah	وَسَطُ الْمَدِينَةِ
Museum.	عجائب گھر	Mut'haf	مُتْحَفٌ
Shopping center / mall.	تجارتی مرکز	Al-markazut tijari	الْمَرْكَزُ التِّجَارِيّ
University.	یونیورسٹی	Al-jamiah	الْجَامِعَةُ
Zoo.	چڑیا گھر	Hadeeqatul hayawaanaat	حَدِيقَةُ الْحَيَوَانَاتِ
Apartment block.	اپارٹمنٹ کی عمارت	Emaaratun sakaniyyah	عِمَارَةُ سَكْنِيَّةٌ
Excuse me, could you Tell me the way to... please?	معذرت خواہ ہوں، کیا مہربانی فرما کر مجھے ایسا راستہ بتا سکتے ہیں جو مجھے ----- تک پہنچا دے۔	Ma'ziratan, hal tukhbiruni anit tareeqil mu'addi ila... min fazlik?	مَعْذِرَةً، هَلْ تُخْبِرُنِي عَنِ الطَّرِيقِ الْمُوَدَّى إِلَيَّ... مِنْ فَضْلِكَ؟
I would like to know.	میں جانا چاہتا ہوں۔	Ureedu an a'rifa	أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ
Where is the police station?	پولیس اسٹیشن کہاں ہے؟	Aina qismush shurtah?	أَيْنَ قِسْمِ الشُّرْطَةِ؟
Where is the tourist office?	سیر و سیاحت کا دفتر کہاں ہے؟	Ainaal maktabus siyaahah	أَيْنَ الْمَكْتَبِ السِّيَاحَةِ؟
Can i get there by bus?	کیا میں وہاں بذریعہ بس جا سکتا ہوں؟	Hal yumkinu an azhaba ila hunaaka bil utoobees?	هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ بِالْأُتُوبِيسِ؟
Where is the nearest bus stop?	قریب ترین بس اسٹاپ کہاں ہے؟	Aina aqrabu mauqifin lil utoobees	أَيْنَ أَقْرَبِ مَوْقِفٍ لِالْأُتُوبِيسِ؟
Is there a public toilet nearby?	کیا یہاں قریب میں بیت الخلاء ہیں؟	Hal yujadu dauraatu miyahin qariban min huna?	هَلْ يُوجَدُ دَوْرَاتُ مِيَاهٍ قَرِيبًا مِنْ هُنَا؟
Where can I get a taxi?	مجھے کرایہ کی کار کہاں مل سکے گی؟	Aina yumkinu an ajida sayyarata ujah?	أَيْنَ يُمَكِّنُ أَنْ أَجِدَ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ؟
Take me to...please.	مجھے امید ہے کہ تم مجھے ----- تک پہنچا دو گے۔	Arju an toosilni ila....	أَرْجُو أَنْ تُوصِلَنِي إِلَى..
How much will it cost?	کرایہ کتنا ہوا؟	Kamil ujah?	كَمِ الْأَجْرَةُ؟

الكلمات العربية

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



The Train	ارو	ریل گاڑی	القطار	9
ENGLISH	ارو	ROMAN	عربي	
Shop window.	انٹرفیس کی دکان	Wajihatul mahal	وَأَجِهَةُ الْمَحَلِّ	
Lamp post.	لیپ پوسٹ	Umoodu inarah	عُمُودُ إِنَارَةِ	
dust bin.	کوڑا دان	Sallatu muhmalaat	سَلَّةُ مُهْمَلَات	
The old town.	پرانہ شہر	Al-madeenatul qadeemah	الْمَدِينَةُ الْقَدِيمَةُ	
He travels	وہ سفر کرتا ہے / کرے گا	Yusaafiru	يُسَافِرُ	
By train.	بذریعہ ریل گاڑی	Bilqitaar	بِالْقِطَارِ	
First class.	فرسٹ کلاس	Ad-darjatul oola	الذَّرَجَةُ الْأُولَى	
Carriage.	ٹرالی	Arabatul qitaar	عَرَبَةُ الْقِطَارِ	
Fare.	کرایہ	Ujratun	أَجْرَةٌ	
Ticket.	ٹکٹ	Tazkiratun	تَذْكِرَةٌ	
Platform.	پلاٹ فام	Raseeful qitaar	رَصِيفُ الْقِطَارِ	
He reaches	وہ پہنچتا ہے / پہنچے گا	Yasilu	يَصِلُ	
Porter.	قلی	Al-hammaal	الْحَمَّالُ	
Delay.	تاخیر کرتا ہے / کرے گا	Yata'akhkharu	يَتَأَخَّرُ	
Suitcase.	سفر کا بستہ	Haqeebatus safar	حَقِيبَةُ السَّفَرِ	

تعاير مفيدة

Useful expressions	مفید تعبيرات	تعاير مفيدة	02
Thank you!	آپ کا شکر یہ	Shukran lak	شُكْرًا لَكَ ١
Please!	برائے مہربانی	Min fazlik	مِنْ فَضْلِكَ ٢
Excuse me!	معاف کیجیے	Saamihni	سَامِحْنِي ٣
All right!	ٹھیک ہے	Tayyib	طَيِّبٌ ٤
That's right	ٹھیک ہے	Hasanan	حَسَنًا ٥
You are welcome.	خوش آمدید	Ahlan bik (ahlan wa sahlani)	أَهْلًا بِكَ (أَهْلًا وَسَهْلًا) ٦
I'm sorry!	مجھے افسوس ہے / میں معذرت خواہ ہوں۔	Aasif	أَسِيفٌ ٧
Never mind!	کوئی بات نہیں	Baset	بَسِيطٌ (لَا يُهْمُكَ) ٨
Perhaps.	کبھی کبھار	Rubbama	رُبَّمَا ٩
Excuse me	میں معافی مانگتا ہوں۔	Afwan	عَفْوًا ١٠
I hope so.	میں امید کرتا ہوں	Aamalul zaalik	أَمَلٌ ذَلِكَ ١١
Of course.	بے شک	Bittab'a\ tab'an	بِالطَّبَعِ / طَبَعًا ١٢
Sure (Surely).	یقیناً (یقین سے)	Bitta'keed	بِالتَّأَكِيدِ ١٣
Right now.	ابھی	Haalan / Al-aan	حَالًا / الْآنَ ١٤
As usual.	ہمیشہ کی طرح	Kal'aadah \Aadatan kalmu'taad	كَالْعَادَةِ / عَادَةً / كَالْمُعْتَادِ ١٥
In general.	عام طور پر	Alal umoom	عَلَى الْعُمُومِ ١٦
At least.	کم از کم	Alal aqal	عَلَى الْأَقْلِ ١٧
Not at all.	بالکل	Itlaaqan	إِطْلَاقًا ١٨
For a while.	تھوڑی دیر کے لیے	Li fatratim maa	لِفَتْرَةٍ مَّا ١٩
By the way.	کسی بھی حال میں	Ala ayyi haal	عَلَى أَيِّ حَالٍ ٢٠
Just a minute.	ایک منٹ	Daqeeqah waahidah	ذَقِيقَةً وَاحِدَةً ٢١
A little bit.	تھوڑا	Qaleelan	قَلِيلًا ٢٢
If necessary.	اگر ضروری ہو تو	Iza kaana zurooriyyan	إِذَا كَانَ ضَرُورِيًّا ٢٣

تعاير مفيدة

Not so fast.	اس رفتار سے نہیں	Laisa bihaazihis sur'ah	لَيْسَ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ	۲۴
Not long ago.	کچھ دیر پہلے	Laisa min zamanin ba'eed	لَيْسَ مِنْ زَمَنٍ بَعِيدٍ	۲۵
Side by side.	پہلو بہ پہلو	Jamban ila jambin	جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ	۲۶
More and more.	زیادہ سے زیادہ	Aksar fa aksar	أَكْثَرُ فَأَكْثَرُ	۲۷
No one else.	کوئی دوسرا نہیں	Ma min ahadin aakhar	مَا مِنْ أَحَدٍ آخَرَ	۲۸
This and that.	یہ اور وہ	Haaza wa zaak	هَذَا وَذَاكَ	۲۹
That's too bad.	برا انجام ہوگا۔	Sayyi'un lil-ghaayah	سَيِّئٌ لِلْغَايَةِ	۳۰
At last.	آخر کار	Akheeran	أَخِيرًا	۳۱
On his way.	راستہ میں	Fi tareeqihi	فِي طَرِيقِهِ	۳۲
On the way back.	واپسی کی راہ میں	Fi tareeqil audah	فِي طَرِيقِ الْعُودَةِ	۳۳
Each other.	ایک دوسرے کے لیے	Ba'zuhum liba'z	بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ	۳۴
Per person.	ایک آدمی کے لیے	Lish-shakhsil wahid	لِلشَّخْصِ الْوَاحِدِ	۳۵
For rent.	کرایہ کے لیے	Lil 'eejaar	لِلْإِيجَارِ	۳۶
For sale.	فروخت کے لیے	Lil-bae'	لِلْبَيْعِ	۳۷
No problem. (It's not a problem).	مشکل کی بات نہیں	Maa fi mushkilah	مَا فِي مُشْكَلَةٍ	۳۸
How exciting!	یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔	Kam haaza mudhish!	كَمْ هَذَا مُدْهِشٌ!	۳۹
Watch out / Look out!	چوکنا ہو جاؤ	Intabih	إِنْتَبِهْ	۴۰
Be careful!	ہوشیار رہو	Ihzar	إِحْذَرْ	۴۱
Don't forget!	مت بھولو	La tansa	لَا تَنْسَ	۴۲
Have a seat!	بیٹھ جائیے	Tafazzal biljuloos / tafazzal ijlis	تَفَضَّلْ بِالْجُلُوسِ / تَفَضَّلْ وَاجْلِسْ	۴۳
Help me!	میری مدد کیجیے	Saa'idni	سَاعِدْنِي	۴۴
Wait for me!	میرا انتظار کیجیے	Intazirnee	إِنْتَظِرْنِي	۴۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Useful Arabic words for daily usage

روزمرہ بات چیت میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

الكلمات العربية المستخدمة اليومية - 1

03

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Who are you?	آپ کون ہیں؟	Man anta?	مَنْ أَنْتَ؟	۱
	What is your name?	آپ کا نام کیا ہے؟	Masmuk?	مَا اسْمُكَ؟	۲
	Come here!	یہاں آئیے!	Ta'aal huna	تَعَالَ هُنَا	۳
	Go there!	وہاں جائیے!	Izhab hunaak	إِذْهَبْ هُنَاكَ	۴
	Where did you come from?	آپ کہاں سے آئے ہیں؟	Min aina ji't?	مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟	۵
	How are you?	آپ کا کیا حال ہے۔	Kaifa haaluk?	كَيْفَ حَالُكَ؟	۶
	Where is your home?	آپ کا گھر کہاں ہے۔	Ayna baituk?	أَيْنَ بَيْتُكَ؟	۷
	sit beside me or sit with me	میرے پاس بیٹھ جائیے۔	Ijlis indi \ udnu minni \ taqarrab ilay	إِجْلِسْ عِنْدِي / اُدْنُ مَعِي / تَقَرَّبْ إِلَيَّ	۸
	Sit properly	اچھی طرح بیٹھیے۔	Ijlis sawiyyan	إِجْلِسْ سَوِيًّا	۹
	Make yourself comfortable	آرام سے بیٹھیے۔	Istarih	إِسْتَرِحْ	۱۰
	Make space for other to sit	کھل کر بیٹھیے۔	Tafassah fil majaanisi	تَفَسَّحْ فِي الْمَجَالِسِ	۱۱
	Where are you going?	آپ کہاں جا رہے ہیں۔	Ayna tazhab \ ayna tarooh	أَيْنَ تَذْهَبُ / أَيْنَ تَرُوحُ	۱۲
	I am thirsty	میں پیاسا ہوں۔	Ana atshaan	أَنَا عَطْشَانُ	۱۳
	Please bring water for me	پانی لائیے۔	Jib maa' \ I'ti bil maa'	جِبْ مَاءً / اِئْتِ بِالمَاءِ	۱۴
	Bring it quickly	جلدی لائیے۔	Jib bisur'ah	جِبْ بِسُرْعَةٍ / اَعْطِنِي بِسُرْعَةٍ	۱۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Bring it chilled water	مجھے ٹھنڈا پانی پلائیے۔	Isqini maa'an baridan	إِسْقِنِي مَاءًا بَارِدًا	۱۶
	Don't give me hot water	مجھے گرم پانی مت پلاؤ۔	La tasqini maa'an hameeman	لَا تَسْقِنِي مَاءًا حَمِيمًا	۱۷
	Give me pure water	تازہ پانی پلائیے۔	Jib maa'an jayyidan\ taazijan	جِبْ مَاءًا جَيِّدًا / طَازِجًا	۱۸
	Don't eat dry bread	سوکھی روٹی مت کھائیے۔	La ta'kul khubzan jaaffan	لَا تَأْكُلْ خُبْرًا جَافًا	۱۹
	I am hungry	میں بھوکا ہوں۔	Ana jaae' \ jau'aan	أَنَا جَائِعٌ / جَوْعَانٌ	۲۰
	Please give me something to eat	مجھے کچھ کھلائیے۔	At'imni shaian	أَطْعِمْنِي شَيْئًا	۲۱
	I am full/my stomach is full.	میں سیر ہو گیا۔	Shabi'tu	شَبِعْتُ	۲۲
	Heat the water	پانی گرم کیجیے۔	Sakkhinill maa'	سَخَّنِ الْمَاءَ	۲۳
	Cool the water	پانی ٹھنڈا کیجیے۔	Barridil maa'	بَرِّدِ الْمَاءَ	۲۴
	The water has been heated	پانی گرم ہو گیا۔	Hummal maa'	حُمَّ الْمَاءَ	۲۵
	Water has been cooled.	پانی ٹھنڈا ہو گیا۔	Baridal maa'	بَرِّدِ الْمَاءَ	۲۶
	Keep quiet. may Allah have mercy on you	اللہ آپ پر رحم کرے ، چپ ہو جائیے۔	Uskut, Allahu yarhamuk	أُسْكُتْ، اللَّهُ يَرْحَمُكَ	۲۷
	Walk slowly	آہستہ چلیے۔	Hawnan hawnan\ ala rislik	هَوِّنَا هَوِّنَا / عَلَي رِسْلِكَ	۲۸
	What are you reading?	آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟	Maaza taqra'?	مَاذَا تَقْرَأُ؟	۲۹
	I am reading my lesson.	میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں۔	Aqra'au darsi	أَقْرَأُ دَرْسِي	۳۰
	Read loudly	بلند آواز سے پڑھیے۔	Iqra bi sautin aalin	اقْرَأْ بِصَوْتٍ عَالٍ	۳۱

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	He ran away when I came.	میرے آنے پر وہ بھاگ نکلا۔	Wa huwa qad farra inda ma ji'tu	وَهُوَ قَدْ فَارَّ عِنْدَ مَا جِئْتُ	۳۲
	What is going on?	کیا ہو رہا ہے؟	Maaza ya'maloon	مَاذَا يَعْمَلُونَ	۳۳
	Don't even ask that!	وہ تو پوچھو ہی مت	Fazlan an zaalik	فَضْلًا عَن ذَلِكْ	۳۴
	You are right	آپ ٹھیک کہتے ہیں۔	Anta saaib	أَنْتَ صَابِبٌ	۳۵
	It is your mistake	آپ غلطی پر ہیں۔	Innaka mukhti'un	إِنَّكَ مُخْطِئٌ	۳۶
	Set it aside	اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔	za'hu jaaniban	ضَعُهُ جَانِبًا	۳۷
	Yes, now you said it right.	جی ہاں، اب آپ نے ٹھیک کہا۔	N'am al'aan qulta sadeedan	نَعَمْ الْآنَ قُلْتَ سَدِيدًا	۳۸
	Like or as	جیسا کہ / چونکہ	Kamaa	كَمَا	۳۹
	Like that	جیسا کہ وہ۔	Kamaa huwa	كَمَا هُوَ	۴۰
	As you wish	جیسے آپ مناسب سمجھیں۔	Kama tara	كَمَا تَرِي	۴۱
	The best opinion	غالباً۔	Alar-raajeh	عَلَى الرَّاجِحِ	۴۲
	At least	کم سے کم۔	Alal aqal	عَلَى الْأَقَلِّ	۴۳
	However it may be possible	جیسے بھی ممکن ہو	Kaifa ma amkan	كَيْفَ مَا أَمْكَنَ	۴۴
	As much as possible	جتنا ہو سکے	Qadra ma amkan	قَدْرًا مَا أَمْكَنَ	۴۵
	As soon as possible	جتنی جلدی ہو سکے۔	Bi-asra' ma yumkin	بِأَسْرَعٍ مَا يُمَكِّنُ	۴۶
	What happen to him?	اسے کیا ہو گیا؟	Ma lahu ?	مَا لَهُ؟	۴۷

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
		خوشگوار مقام۔	Al-makaanul mureeh	أَمَكَانُ الْمُرِيحِ	۴۸
	Pleasant place				
	Be careful next time.	آئندہ احتیاط کیجیے۔	Ihtariz marratan ukhra	إِحْتَرِضْ مَرَّةً أُخْرَى	۴۹
	Don't do it again!	پھر ایسا نہ کرنا۔	La tu'ed marratan ukhra	لَا تُعِدْ مَرَّةً أُخْرَى	۵۰
	Stay away from me! get out of here!	میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔	Ibta'id an amaami	إِبْتَعِدْ عَنِّ أَمَامِي	۵۱
	Come here quickly!	جلدی میرے پاس آؤ۔	Asri' ilay	أَسْرِعْ إِلَيَّ	۵۲
	This rumor is false. Or this is not the reality. Or this news is not correct.	یہ افواہ غلط ہے۔	Hazal khabru maa fish \laa shai/ maa fi haqeeqah	هَذَا الْخَبْرُ مَا فِشْنُ لَا شَيْءٍ مَا فِي حَقِيقَةٍ	۵۳
	I will soon die of starvation.	عنقریب میں بھوکا مر جاؤں گا۔	Sa-amootu jau'an	سَأَمُوتُ جُوعًا	۵۴
	My work can't be done without him.	اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔	Lastu astaghni anhu	لَسْتُ أَتَسْتَغْنِي عَنْهُ	۵۵
	Hold it tightly	اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔	Iqbiz alaihi jayyidan	إِقْبِضْ عَلَيْهِ جَبَدًا	۵۶
	I am too busy in my work.	میں اپنے کام میں بہت مصروف ہوں۔	Ana mashgoolun fi amali	أَنَا مَشْغُولٌ جَدًّا فِي عَمَلِي	۵۷
	I am with you.	میں آپ کے ساتھ ہوں۔	Ana ma'ak	أَنَا مَعَكَ	۵۸
	He is unhappy with you	وہ آپ سے ناراض ہے۔	Huwa saaqitun alaik	هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ	۵۹
	How worthy is it to you?	آپ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟	Bikam yusaawi indak	بِكَمْ يُسَاوِي عِنْدَكَ	۶۰
	I don't know	مجھے اس کا علم نہیں ہے۔	Laisa li bihi ilm	لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ	۶۱
	I am apologizing to you or sorry.	میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔	A'taziru ilaikum	أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ	۶۲
	I regret it	مجھے اس پر افسوس ہے۔	Ana muta-assifun alaih	أَنَا مُتَأَسِّفٌ عَلَيْهِ	۶۳

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	His dealing is not good	وہ بے ادب ہے۔	Rajulun ghairu tayyib	رَجُلٌ غَيْرُ طَيِّبٍ	۶۴
	I don't like his dealing.	مجھے اس کی معاملت داری پسند نہیں۔	La uhibbu wala arza bitta'ammuli m'ahu	لَا أُحِبُّ وَلَا أَرْضُ بِالْتَّعَامِلِ مَعَهُ	۶۵
	I didn't see anything beautiful then this/ nothing is better then this	میں نے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔	Maa ra'aytu shai'an ajmala minhu	مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَجْمَلَ مِنْهُ	۶۶
	Don't get angry	غصہ نہ کیجیے۔	la taghzab	لَا تَغْضَبْ	۶۷
	Don't be jealous of each other	ایک دوسرے سے حسد نہ کیجیے	La tahaasadoo	لَا تَحَاسَدُوا	۶۸
	Thank you sir	میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔	Mashkoorun min fazeelatikum	مَشْكُورٌ مِنْ فَضِيلَتِكُمْ	۶۹
	Beware of places where one can become a victim of false accusations	تہمت کی جگہوں سے بچو۔	Ittaqoo mawaazi'at-tuham	إِتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهْمِ	۷۰
	I am pleased to meet you	مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔	A'jabanee liqaa'ukum	أَعْجَبَنِي لِقَاءُكُمْ	۷۱
	I hope you will forgive me	امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔	Afwan lau samaht	عَفْوًا أَوْ سَمَحْت	۷۲
	You are wrong and I am right	آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔	Anta mukhtiu wa ana museebun	أَنْتَ مُخْطِئٌ وَأَنَا مُصِيبٌ	۷۳
	You deserve a punishment	آپ ملامت کے مستحق ہیں۔	Anta taštahiqullu'ma	أَنْتَ تَسْتَحِقُّ اللُّؤْمَ	۷۴
	He had guests at his place.	اس کے ہاں مہمان آئے۔	Nazala bihiz-zaif	نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ	۷۵
	My brother had fever	میرے بھائی کو بخار ہو گیا۔	Akhi yu'aani bil humma	أَخِي يُعَانِي بِالْحُمَّى	۷۶
	Bring him to me.	اسے میرے پاس لاؤ۔	Alaiyya bihi	عَلَيَّ بِهِ	۷۷
	This is disgraceful for you or this humiliating for you.	یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔	Ala taštahi	أَلَا تَسْتَحِ	۷۸
	I love you from the bottom of my heart.	میں آپ کو تہ دل سے چاہتا ہوں۔	Uhibbuka min a'ma'iqi qalbi	أُحِبُّكَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي	۷۹

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Don't embarrass me in front of other people	لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔	La tu'ayyirni amaaman-naas	لَا تُعَيِّرْنِي أَمَامَ النَّاسِ	۸۰
	This is a calamity	یہ مصیبت ہے۔	Hazihi museebah	هَذِهِ مُصِيبَةٌ	۸۱
	Show me what you brought.	جو آپ لائیں ہیں، وہ مجھے دکھائیے۔	Arini ma ji'ta bihi	أَرِنِي مَا جِئْتَ بِهِ	۸۲
	He is poetical in word or he is eloquent at speech	وہ کتنا شیریں کلام ہے۔	Maa ahlaa kalaamah	مَا أَحْلَى كَلَامَهُ	۸۳
	Avoid negative thoughts about something	بدگمانی سے بچو۔	Ijtaniboo soo'az-zan	اجْتَنِبُوا سُوءَ الظَّنِّ	۸۴
	Give people their due rights humbly.	لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے	Khaaliqinnaasa bikhuluqin hasanin	خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ	۸۵
	I received a letter from my home	مجھے میرے گھر کا خط ملا ہے۔	Wasala ilayya kitaabun min baitee	وَصَلَ إِلَيَّ كِتَابٌ مِنْ بَيْتِي	۸۶
	Do not delay today's work for tomorrow	آج کا کام کل پر مت ڈالو۔	la tu'akhkhir amalal yaumi ilal-ghad	لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ	۸۷
	Whatever you want to do, do it today	جو کرنا ہے آج کرلو۔	E'maloo al-yauma ma shi'tum	اعْمَلُوا الْيَوْمَ مَا شِئْتُمْ	۸۸
	No one knows the unseen except Allah	غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔	La ya'lamul ghaiba illallah	لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ	۸۹
	We don't know what we have to do tomorrow	ہم نہیں جانتے، کل ہم کیا کمائیں گے۔	La nadri maaza naksibu ghadan	لَا نَدْرِي مَاذَا نَكْسِبُ غَدًا	۹۰
	Disclosing privacy is ignorance	راز فاش کرنا نادانی ہے۔	Ifshaa'us-sirri jahlnun	إِفْشَاءُ السِّرِّ جَهْلٌ	۹۱
	Honesty is dear to Allah or Allah loves honesty	سچائی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔	As-sidqu mahboobun ilallaahi ta'aala	الصِّدْقُ مَحْبُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى	۹۲
	I have some important work today	آج مجھے ضروری کام ہے۔	Al-yaumu indi shughlnun haammun	الْيَوْمَ عِنْدِي شُغْلٌ هَامٌّ	۹۳
	Today we had breakfast with one of our friends	آج ہم نے اپنے ایک دوست کے پاس ناشتہ کیا۔	Al-yauma aftarna inda saahibin lana	الْيَوْمَ أَفْطَرْنَا عِنْدَ صَاحِبٍ لَنَا	۹۴
	I have a lot of work	مجھے بہت کام ہیں۔	Indi ashghaalun kaseceratun	عِنْدِي أَشْغَالٌ كَثِيرَةٌ	۹۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Don't talk in the masjid	مسجد میں باتیں مت کیجیے۔	La tatakallamoo fil masjid	لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الْمَسْجِدِ	۹۶
	May Allah bless your time with all goodness!	اللہ تمہارے اوقات مبارک کرے۔	As'adallaahu auqaatak	أَسْعَدَ اللَّهُ أَوْقَاتَكَ؟	۹۷
	How is your health?	آپ کی صحت کیسی ہے۔	Kaifa sihhatuk?	كَيْفَ صِحَّتُكَ؟	۹۸
	Thanks to Allah, now I am all right.	اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں۔	Ana tayyibun, Alhamdulillah	أَنَا طَيِّبٌ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ	۹۹
	How is your family?	بال بچے کیسے ہیں؟	Kaifa haalul aaeelah	كَيْفَ حَالُ الْعَائِلَةِ	۱۰۰
	The weather has become bad.	موسم خراب ہو گیا۔	Saaral jawwu radee'an	صَارَ الْجَوُّ رَدِيئًا	۱۰۱
	I am shivering from cold	میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔	Arta'idu minal baradi	أَزْتَعِدُ مِنَ الْبَرْدِ	۱۰۲
	Today's night would be a moonlight night bi-iznillah	آج کی رات چاندنی رات ہوگی۔ باذن اللہ	Hazihil lailatu takoonu muqmiratan bi-iznillah	هَذِهِ اللَّيْلَةُ تَكُونُ مُقْمِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ	۱۰۳
	Read out your lesson to me	مجھے اپنے اسباق سنائیے۔	Sammi'ooni duroosakum	سَمِّعُونِي دُرُوسَكُمْ	۱۰۴
	I write with a pen	میں قلم سے لکھتا ہوں۔	Aktubu bilqalami	أَكْتُبُ بِالْقَلَمِ	۱۰۵
	This paper is rough	یہ کاغذ کھردرا ہے۔	Haazal qirtaasu khushnun	هَذَا الْقِرْطَاسُ خُشْنٌ	۱۰۶
	Hold this pencil.	پنسل پکڑیے۔	Khuz qalamar-rasaasi	خُذْ قَلَمَ الرَّصَاصِ	۱۰۷
	The bell rang	گھنٹی بج گئی۔	Duqqal jarasu	دُقَّ الْجَرَسُ	۱۰۸
	I stayed up all night	میں ساری رات جاگا۔	Sahirtul laila kullaha	سَهَرْتُ اللَّيْلَ كُلَّهَا	۱۰۹
	He wakes up early in the morning	وہ صبح سویرے جاگتا ہے۔	Huwa yastaiqizu mubakkiratan	هُوَ يَسْتَيْقِظُ مُبَكِّرَةً	۱۱۰
	You wake up after sunrise.	تم سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہو۔	Tastaiqizu ba'da tuloo'ish-shams	تَسْتَيْقِظُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ	۱۱۱

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Remember Allah while standing, sitting or lying down	کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیجیے۔	Uzkurullaaha ta'aala qiyaaman wa qu'oodan wa ala junoobikum	أَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ	۱۱۲
	Summer season is over.	موسم گرما گزر گیا۔	Maza faslus-saif	مَضَى فَصْلُ الصَّيْفِ	۱۱۳
	I have no relation to this	اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔	Haza la yata'allaqu bi	هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِي	۱۱۴
	These things are all cheap	چیزیں پوری سستی ہیں۔	Al ashyaa'au kulluha rakheesah	الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا رَخِيصَةٌ	۱۱۵
	How much have you bought it for?	آپ نے یہ کتنے میں خریدا ہے؟	Bikam ish'taraita haza	بِكَمْ إِشْتَرَيْتَ هَذَا	۱۱۶
	Everything is expensive	ہر چیز مہنگی ہے۔	Kullu shai'in ghaali jiddan	كُلُّ شَيْءٍ غَالِي جِدًّا	۱۱۷
	I would return back to my family very soon	عزیزوں میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں گا۔	Saufa arji'au ila ahlee	سَوْفَ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي	۱۱۸
	What you said has not been understand by me	آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔	La afhamu kalaamak	لَا أَفْهَمُ كَلَامَكَ	۱۱۹
	I did not understand what you said	میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔	Ma fahimtu kalaamak	مَا فَهِمْتُ كَلَامَكَ	۱۲۰
	I want bread	میں روٹی چاہتا ہوں۔	Ureedul khubz	أُرِيدُ الْخُبْزَ	۱۲۱
	What is your occupation?	آپ کیا کام کرتے ہیں؟	Maa Mihnatuk	مَا مِهْنَتُكَ	۱۲۲
	I have been in this city since a month.	مجھے اس شہر میں ایک مہینہ ہو گیا	Shahrn kaamil qad maza fi hazal makaan	شَهْرًا كَامِلًا قَدْ مَضَى فِي هَذَا الْمَكَانِ	۱۲۳
	I don't have money.	اب اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔	Maa Indi Maal	مَا عِنْدِي مَالٌ	۱۲۴
	I was searching this one only.	میں یہی تلاش کر رہا تھا۔	Wa kuntu abhasu haaza huwa munzu zamaan	وَكُنْتُ أَبْحَثُ هَذَا هُوَ مُنْذُ زَمَانٍ	۱۲۵
	Thank you very very much	آپ کا بہت بہت شکریہ / اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے	Jazakallaahu khairan	جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا	۱۲۶
	I have a good opinion about you	آپ سے متعلق میرا گمان بہت اچھا ہے۔	Anta saalihun fi husni zanni	أَنْتَ صَالِحٌ فِي حُسْنِ ظَنِّي	۱۲۷

التحيات

روز مرہ بات چیت میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے


welcome

Greetings	سلام دعا	التحيات		
Optional	English	اردو	Roman	عربي
وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ	May The peace mercy and blessings of Allaah subhanahu wata'aala be up on you, welcome	تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، خوش آمدید	Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Ahlan Wa sahlan wa Marhaba	السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا
كَيْفَ حَالُكَ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ؟	Good morning!	صبح بخیر	Kaifa Asbahta? Sabaahal Khair?	كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ صَبَاحَ الْخَيْرِ
	Good afternoon!	گڈ آفٹرنون	Nahaaruka saeed	نَهَارُكَ سَعِيدٌ
	Good evening!	شب خیر	Kaifa Amsaita? Masaa'al Khair	كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ مَسَاءَ الْخَيْرِ
أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا أَهْلًا يَا شَيْخَ / يَا شَيْخَةَ	Welcome! (to greet someone)	خوش آمدید	Marhaba	مَرْحَبًا
أَهْلًا يَا أَخِي / يَا أُخْتِي	Welcome my friend!	خوش آمدید اے دوست	Ahlan ya sadiqi	أَهْلًا يَا صَدِيقِي
كُلُّ تَمَامٍ / زَيْنٍ / أَيُّشْ أَحْبَابِكَ؟	How are you? (polite)	آپ کیسے ہیں؟	Kaifa Haalukum	كَيْفَ حَالُكُمْ؟
	How are you? (friendly)	تم کیسے ہو؟	Kaifa Haaluk	كَيْفَ حَالُكَ؟
	I'm fine, thank you!	میں ٹھیک ہوں، شکریہ!	Ana Bikhair , Ashkuruk	أَنَا بِخَيْرٍ، أَشْكُرُكَ
	And you? (friendly)	اور آپ کیسے ہیں؟	Wa Anta?	وَ أَنْتَ؟

التحيات

	And you? (polite)	اور آپ کیسے ہیں؟	Wa Antum?	وَ أَنْتُمْ؟
وَأَنَا بِخَيْرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ / وَأَسْعَدَكَ شُكْرًا (جَزِيلاً)	Good	خیریت سے ہوں۔	Bikhair	بِخَيْرٍ
	Not so good	ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ (کچھ ٹھیک نہیں ہوں کا اشارہ)	Al Hamdulillaahi Ala kulli haal	الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيِّ كُلِّ حَالٍ
أَيْنَ كُنْتَ يَا أَخِي؟	I have not seen you since long time.	بہت دنوں سے آپ کا دیدار نہیں ہوا۔	Lam Narak Munzu waqtin taweel / Munzu zamaan ma shufnaak, maa liya laa araaq? maa lak laa ta'teenaa? Laish laa ta'teenaa?	لَمْ نَرَكَ مُنْذُ وَقْتٍ طَوِيلٍ ، مُنْذُ زَمَانٍ مَا شَفْنَاكَ ، مَا لِي لَا أَرَاكَ؟ مَا لَكَ لَا تَأْتِينَا؟ لَيْشَ لَا تَأْتِينَا؟
	I missed you a lot	ہم نے آپ کو کافی یاد کیا۔	Faqadnaak/ tazakkarnaak/ maa nasainaak,	فَقَدْنَاكَ / تَذَكَّرْنَاكَ / نَسِينَاكَ
	What's new?	کیا حال چال ہیں؟ کیا نئی خبر ہے؟	Aish al jadeed minal Akhbaar? Aish Akhbaruk?	أَيْشُ الْجَدِيدِ مِنَ الْأَخْبَارِ؟ أَيْشُ أَخْبَارِكَ؟
كَيْفَ الْأَهْلُ؟ كَيْفَ الْأَوْلَادُ؟ كَيْفَ الْأُسْرَةَ؟ كَيْفَ أُمُّكَ وَأَبُوكَ؟ كَيْفَ شُغْلُكَ كُلِّ تَمَام؟	Nothing new	کوئی خاص نہیں	Maa fee jadeed, Maa Fish	مَا فِي جَدِيدٍ، مَا فِيْشُ
جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا / بَارَكَ اللَّهُ أَخِي	Thank you (very much!)	شکریہ (بہت بہت)	Shukran (jazeelan)	شُكْرًا (جَزِيلاً)
لَا أُرِيدُ أَطْوَلَ عَلَيْكَ / مَا لَيْشَ أَرَعَجْتُكَ / سَامِحِي / لَا بَأْسَ	You're welcome! (for "thank you")	کوئی بات نہیں۔	Afwan	عَفْوًا
مَا قَصَّرْتُ / لَعَلِّي أَرَعَجْتُكَ / لَا لَا يَا شَيْخَ أَبَدًا	My pleasure	یہ میرا فرض تھا۔	Haaza min Waajibaati ,min Husni Sa'aadati	هَذَا مِنْ وَاجِبَاتِي، مِنْ حُسْنِ سَعَادَتِي
فَضَّلْ يَا شَيْخَ	Come in! (or: enter!)	تشریف لائیے۔	Tafazzal	تَفَضَّلْ
خُذْ رَاحَتَكَ؟ اِسْتَرِحْ	Make yourself at home!	اسے اپنا ہی گھر سمجھیے	Al-baitu baituk	الْبَيْتُ بَيْتُكَ؟

تَعَايِيرُ الْوَدَاعِ



Farewell Expressions

وداعی کلمات

تَعَايِيرُ الْوَدَاعِ



Optional	English	اردو	Roman	عربی
	Have a nice day!	آپ کا دن اچھا گزرے۔ ان شاء اللہ	Atamanna laka nahaaran saeedan – In Shaa Allaah	أَتَمَنِّي لَكَ نَهَارًا سَعِيدًا – إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فُرْصَةٌ سَعِيدَةٌ	Good night!	شب بخیر	Lailatun Saeedah	لَيْلَةٌ سَعِيدَةٌ
نِمْتُ جَيِّدًا/ خُدْ رَاحَتَكَ	Good night and sweet dreams!	شب بخیر	Lailatun saeedah Wa ahlaam as'adu	لَيْلَةٌ سَعِيدَةٌ وَ أَحْلَامٌ أَسْعَدُ
	See you later!	ان شاء اللہ پھر ملیں گے	Araaka feema ba'd In Shaa Allaah	أَرَاكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
نَلْتَقِي قَرِيبًا/ قَرِيبٌ قَرِيبٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ	See you soon!	ان شاء اللہ بہت جلد ملاقات ہوگی	Araaka qareeban In Shaa Allaah	أَرَاكَ قَرِيبًا _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
إِذَا عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَلْتَقِي طَيِّبٌ؟	See you tomorrow!	ان شاء اللہ کل ملتے ہیں	Araaka ghadan In Shaa Allaah	أَرَاكَ عَدَا _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
نَبْقِي عَلَيَّ الْإِتِّصَالَ/ نَتَوَاصَلُ مَعَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ	Good bye!	ان شاء اللہ پھر ملتے رہیں گے۔	Ilal liqaa In Shaa Allaah	إِلَى الْإِلْقَاءِ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فُرْصَةٌ سَعِيدَةٌ/ اللَّهُ يَحْفَظُكَ	Have a good trip!	ان شاء اللہ آپ کا سفر مبارک رہے	Rehlah saeeda In Shaa Allaah	رِحْلَةٌ سَعِيدَةٌ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لَا بُدَّ/ لَا زِمَ السَّفَرُ/ لَا زِمَ رُحْ	I have to go	مجھے جانا پڑے گا	Laabudda an arhal In Shaa Allaah	لَا بُدَّ أَنْ أَرْحَلَ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَرِيبُ الْيَنْكِ/ أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَكَ/ أَنَا أَيْضًا آتِي	I will be right back!	میں ابھی لوٹ آؤنگا	sa-a'oodu qareeban ilaika In Shaa Allaah	سَأَعُودُ قَرِيبًا إِلَيْكَ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَوَدِّعُكَ مَنْ لَا تَصْنَعُ وَدَائِعِهِ	I entrust to Allaah your religion, your belongings and your final deeds.	میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارے انجام کار کو	Astaudi'ullaaha deenak wa amaanatak wa khawateema amalik	أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

الأمنيات



Wishes	مبارکبادیاں	الأمنيات	ج	
Optional	English	اردو	Roman	عربي
	May Allah bless you	مبارک	Mubarak , BarakAllaah	مُبَارَكَ، بَارَكَ اللهُ
	Ramadan Mubarak!	رمضان مبارک	Ramzan Mubarak wa-taqabbalallaahu minnaa wa-minkum	رَمَضَانَ مُبَارَكَ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ
	Happy Eid Al-adha!	عيد الاضحى مبارک	Eedul azhaa saeed wa Mubarak wa-taqabbalallaahu minnaa wa-minkum	عِيدُ الْأَضْحَى سَعِيدٌ وَمُبَارَكٌ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ
	Congratulations!	مبارک	Mubarak	مُبَارَكَ
	Healthy and safety	صحت و عافیت کے ساتھ	Bis-sehhah wal-aafiyah	بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ
	All praises for Allah May Allah have mercy on you May Allah guide you and render sound your state of affairs	اللہ تم پر رحم کرے	Al Hamdulillaah Yarhamukallah, Yahdikumullaah	الْحَمْدُ لِلَّهِ، يَرْحَمُكُمْ اللهُ، يَهْدِيكُمْ اللهُ
	Best wishes!	نیک تمناؤں کے ساتھ	M'a atyabit-tahiyyaat, m'a asdaqit-tahaani wat-tamanniyaat	مَعَ أَطْيَبِ التَّحِيَّاتِ، مَعَ أَصْدَقِ التَّهَانِي وَالْتَمَنِّيَّاتِ
	Take care of your health	صحت کا خیال رکھیے	Bisehhatik	بِصِحَّتِكَ
	Accept my best wishes	میری نیک تمناؤں کو قبول کیجیے	Taqabbal atyaba tamanniyaati	تَقَبَّلْ أَطْيَبِ تَمَنِّيَّاتِي
	Healthy and safety	صحت و عافیت کے ساتھ	Bis-sehhah wal-aafiyah	بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ

كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



How to Introduce Yourself

ذاتی تعارف

كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

د

Optional	English	اردو	Roman	عربی
اِسْمُكَ اَيْش؟	What's your name?	آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟	Masmukal kareem	مَا اِسْمُكَ الْكَرِيمِ؟
	My name is ...	میرا نام --- ہے۔	Ismee...	اِسْمِي...
مَسْرُورٌ جَدًّا / سُرْرَتْ بِلِقَائِكَ / سُرْرْنَا بِلِقَائِكَ	Nice to meet you!	آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی	Saeedun biliqaaik	سَعِيدٌ بِلِقَائِكَ
مِنْ فَيِّن؟ / اَصْلُ مِنْ فَيِّن؟ / جَنَسِيَّتُكَ اَيْ؟ / اَيْش جَنَسِيَّتُكَ؟	Where are you from?	آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟	Min ayyi baladin ant?	مِنْ اَيِّ بَلَدٍ اَنْتُ؟
	I'm from India	میرا تعلق ہندوستان سے ہے	Ana min al-Hind	اَنَا مِنْ الْهِنْدِ
	I'm Indian	میں ہندوستانی ہوں	Ana Hindiyyun	اَنَا هِنْدِيٌّ
فَاَيْنَ سَاكِنَ اَنْتُ؟	Where do you live?	آپ کہاں رہتے ہیں؟	Ayena taskun?	اَيْنَ تَسْكُنُ؟
	I live in India	میں ہندوستان میں رہتا ہوں	Ana a'eeshu fil Hind	اَنَا اَعِيشُ فِي الْهِنْدِ
اَعْجَبَكَ اَمْ لَا؟ نَعَمْ اَعْجَبَنِي اَنْتَ مُرْتَاخٌ هِنَا؟ نَعَمْ مُرْتَاخِيْنُ	How do you feel to be here?	آپ کو یہاں رہ کر کیسا لگ رہا ہے؟	Hal yu'jibukal makaan hina? Kullu tamaam Kaifa tajidu nafsak?	هَلْ يُعْجِبُكَ الْمَكَانُ هِنَا ؟ كُلُّ تَمَامٍ كَيْفَ تَجِدُ نَفْسَكَ؟
	India is a beautiful country	ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے	Al-Hindu baladun jameelah	الْهِنْدُ بَلَدٌ جَمِيْلَةٌ
	What do you do for a living?	آپ کی مصروفیت کیا ہے؟	Maaza ta'mal?maa shughluk?	مَاذَا تَعْمَلُ؟ مَا شُغْلُكَ؟

كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

شُعَلِي أَنَا مُهَنْدِس	I'm a (teacher/ student/ engineer)	میں ٹیچر / انجینئر / طالب علم ہوں۔	A'malu (mudarrisan- muhandisan)(ana taalib)	أَعْمَلُ (مُدْرِسًا / مُهَنْدِسًا)، أَنَا طَالِبٌ
عَرَبِي مَعْلُوم؟ أَمْ لَا/ مَا فِي مَعْلُوم؟	Do you speak (English/ Arabic)?	کیا آپ انگریزی / عربی میں تھنکو کر پاتے ہیں	Hal tatahaddas (al-injleziyah, al- arabiyyah)	هَلْ تَتَحَدَّثُ (الْأَنْجَلِيْزِيَّةَ - الْعَرَبِيَّةَ)
مَعْلُومُ إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَّاصٌ لَا بَأْسَ / مَا لَيْشَ / يَمَشِي / مَا شِي هَذَا	Just a little	تھوڑا تھوڑا	Qaleelan	قَلِيلًا
	I like Arabic Language	میں عربی زبان سے محبت رکھتا ہوں	Ohibbul loghatal arabiyyah	أُحِبُّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
أَتَعَلَّمُ سُوِي / دَجِين سُوِي بَعْدَيْن كَثِير إِنْ شَاءَ اللهُ	I'm trying to learn Arabic	میں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔	Ohaawilu ta'allumal loghatil arabiyyah, ohavilu shuwai Shuwai	أُحَاوِلُ تَعَلُّمَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، أُحَاوِلُ سُوِي سُوِي
صَعْبٌ جَدًّا لَكِنْ سُوِي سُوِي / إنا أَكْذَرُ أَفْهَمُ سُوِي سُوِي	It's a very hard language	یہ بڑی کٹھن زبان ہے۔	Innaha lughatun sa'bah	إِنَّهَا لُغَةٌ صَعْبَةٌ
لَا شَيْخَ سُوِي سُوِي فِي الْبِدَايَةِ بَعْدَيْن تَكْذَرُ تَكْذَرُ / أُمُورٌ سَهْلَةٌ / بِإِذْنِ اللهِ / أَمْرٌ بَسِيطٌ	It's an easy language	یہ تو آسان زبان ہے	Innaha lughatun sahlah	إِنَّهَا لُغَةٌ سَهْلَةٌ
اللهُ يُعْطِيكَ الْعَافِيَةَ / اللهُ يَهْدِيكَ الْخَيْرَ	Oh! That's good!	سبحان الله! یہ تو بڑی اچھی بات ہے	Subhan-Allaah! Hasan, jayyid jayyid	سُبْحَانَ اللهِ ! حَسَنٌ ، جَيِّدٌ جَيِّدٌ
سَامِحِي / أَنَا أَيْضًا مَعَكَ أُرِيدُ التَّدْرِيْبَ	Can I practice with you?	کیا میں آپ کے ساتھ مشق کر سکتا ہوں	Hal yumkinu li an atadarraba ma'ak?	هَلْ يُمَكِّنُ لِي أَنْ أَتَدْرَبَ مَعَكَ ؟
أَنَا مُسْتَعِدٌ / لَا أَتَعَبُ / أَنَا مُجْتَهِدٌ	I will try my best to learn	میں یہ سیکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرونگا	Saufa abzulu qusaara johdi litta'allum	سَوْفَ أَبْذُلُ قُضَايَ جُهْدِي لِلتَّعَلُّمِ

كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

	How old are you?	آپ کی عمر کیا ہے؟	Kam umruk?	كَمْ عُمْرُكَ ؟
	I am twenty years old	میں بیس سال کا ہوں	Ablughu minal umuri ishreena aaman/ umri ishroon	أَبْلُغُ مِنَ الْعُمْرِ عَشْرِينَ عَامًا / عُمْرِي عَشْرُونَ
	It was nice talking to you!	آپ سے بات کر کے اچھا لگا	As'adani kalaamuka ma'ee	أَسْعَدَنِي كَلَامُكَ مَعِي
	It was nice meeting you!	آپ سے مل کر خوشی ہوئی	Laqad sa'ettu jiddan biliqaaik	لَقَدْ سَعِدْتُ جِدًّا بِإِلْقَائِكَ
	Mr.../ Mrs...	محترم / محترمة	Assayyid- Assayyidah	السَّيِّدُ ... - السَّيِّدَةُ ..
	This is my wife	یہ میری بیوی ہے	Hazihi zaujati	هَذِهِ زَوْجَتِي
	This is my husband	یہ میرے شوہر ہیں	Hazaa zauji	هَذَا زَوْجِي
	Say hi to... for me	میرا سلام سنائیے	Sallimoo alaa ikhwaanikum wa sallim alaihi minni wa abligh assalaama anni	سَلِّمُوا عَلَيَّ إِخْوَانِكُمْ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ مِنِّي وَأَبْلِغُ السَّلَامَ عَنِّي


AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

حَلُّ سُوءِ تَفَاهُمٍ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



Solving a Misunderstanding

بدگمانی دور کرنا

حَلُّ سُوءِ تَفَاهُمٍ

۵

Optional	English	اردو	Roman	عربی
سَامِحْنِي مَا سَمِعْتِكَ	Sorry! (or: I beg your pardon!)	معاف کرنا میں آپ کو صحیح نہیں سنا، آپ کی آواز پست ہے	Saamehni lam asma'ka jayyidan, sautuka ghairu waazeh	سَامِحْنِي لَمْ أَسْمَعَكَ جَيِّدًا ، صَوْتُكَ غَيْرُ وَاضِحٍ
مَا لَيْش	Sorry (for a mistake)	معاف کرنا	Aasif	آسِفٌ
	No problem!	کوئی بات نہیں	Maa fi mushkilah, laisat mushkilah	مَا فِي مُشْكِلَةٍ ، لَيْسَتْ مُشْكِلَةٌ
	Can you repeat please?	برائے مہربانی کیا آپ دہرا سکتے ہیں؟	Fazlan hal yumkinukal e'aadah? Fazlan lau tu'eed	فَضْلًا ! هَلْ يُمَكِّنُكَ الْإِعَادَةُ؟ فَضْلًا لَوْ تُعِيدُ
بِالْهُدُوءِ بِالْهُدُوءِ يَا شَيْخُ / لَيْشَ أَنْتَ مُسْتَعْجِلٌ / خُذْ رَاحَتَكَ / اِنْتَظِرْ شَيْئًا أَنَا آتِي إِلَيْكَ	Can you speak slowly?	جلد بازی مت کیجیے، سکون کے ساتھ گفتگو کیجیے، آہستہ آہستہ پورے اطمینان سے۔	Laa tasta'zil wa kallim alaa raahatik wa mahlan mahlan wa alaa rislik?	لَا تَسْتَعْجِلْ وَكَلِّمْ عَلَيَّ رَاحَتِكَ وَمَهْلًا مَهْلًا وَعَلَيَّ رِسْلِكَ؟
	Can you write it down?	کیا آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔	Hal yumkinuka kitabatuhaa?	هَلْ يُمَكِّنُكَ كِتَابَتُهَا؟

حَلُّ سُوءِ تَفَاهُمٍ

<p>هَلْ تَفْهَمُ كَلَامِي أَوْ لَا؟ / لَوْ سَمَّخْتُ / هَلْ فَهَمْتُ كَلَامِي؟ / فَهَمْتَنِي؟ / اِسْمَعْ يَا شَيْخَ</p>	<p>Did you understand what I said?</p>	<p>کیا آپ سمجھ گئے جو میں نے ابھی کہا؟ سمجھے یا نہیں؟ جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے پہلے اچھی طرح سمجھ جاؤ۔</p>	<p>Hal fahimta ma qultuhu al-aan? Fahimta aw laa? Ifham jayyidan awlaa maa aqool?</p>	<p>هَلْ فَهَمْتُ مَا قُلْتُهُ الْآنَ ؟ فَهَمْتُ أَوْ لَا؟ اِفْهَمُ جَيِّدًا أَوْ لَا مَا أَقُولُ</p>
<p>لَا مَا لَيْشَ أَنَا فَهَمْتُ / كُنْتُ مَسْغُورًا / كَلَامَكَ غَيْرَ وَاضِحٍ</p>	<p>I don't understand!</p>	<p>میں نہیں سمجھا</p>	<p>Maa fahimtu</p>	<p>مَا فَهَمْتُ</p>
<p>لَا اَنَا مَا اَعْرِفُ / اَنَا مَا اَعْرِفُ / لَيْسَ لَدِي أَيُّ خَبَرٍ</p>	<p>I don't know!</p>	<p>میں نہیں جانتا</p>	<p>Laa a'rifu</p>	<p>لَا اَعْرِفُ</p>
<p>شَسْمُ هَذَا؟ كَيْفَ تَدْعُونَ هَذَا فِي لُغَتِكُمْ؟</p>	<p>What's that called in Arabic?</p>	<p>عربی میں اس کا معنی کیا ہے؟</p>	<p>Ma ma'na haza bil arabiyyah? Aish haaza fil- arabiyyah wamaaza tusammoona haaza bil-arabiyyah?</p>	<p>مَا مَعْنَى هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ ؟ اَيْشُ هَذَا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَاذَا تُسَمُّونَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ ؟</p>
<p>اَيْشُ مَعْنَى بِالْاِنْجِلِيزِيَّةِ؟</p>	<p>What does that word mean in English?</p>	<p>اس لفظ کا انگریزی میں کیا معنی ہے؟</p>	<p>Ma ma'na hazihil kalimah bil- injleziyyah</p>	<p>مَا مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِالْاِنْجِلِيزِيَّةِ ؟</p>
<p>How do you say "thank you" in Arabic?</p>	<p>آپ "thank you" میں کیسے کہیں گے؟</p>	<p>آپ "thank you" میں کیسے کہیں گے؟</p>	<p>Kaifa taqool "thank you" bil arabiyyah?</p>	<p>كَيْفَ تَقُولُ "thank you" بِالْعَرَبِيَّةِ ؟</p>
<p>اَيْشُ هَذَا؟</p>	<p>What is this?</p>	<p>یہ کیا ہے؟</p>	<p>Maa haaza?</p>	<p>مَا هَذَا ؟</p>
<p>عَرَبِي مَا فِي / مَا فِي كُؤُبُرِ</p>	<p>My Arabic is weak</p>	<p>میری عربی ٹھیک نہیں</p>	<p>Laa a'rifu al- arabiyyah jayyidah? Laa as'tatee'au an atakallama al- arabiyyah jayyidah</p>	<p>لَا اَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ جَيِّدَةً؟ لَا اَسْتَطِيعُ اَنْ اَتَكَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ جَيِّدَةً</p>
<p>خَلَاصَ مَا فِشْ / خَلِّ بِالْكَ / اَللّٰهُ يُعْطِيكَ الْعَافِيَةَ / لَيْشَ اَنْتَ حَزَنْتَ / اَللّٰهُ يُعْطِيكَ الْعَافِيَةَ / قَدَّرَ اللهُ / خَلِّ بِاشْ</p>	<p>Don't worry! Be Happy</p>	<p>پریشان مت ہو جائیے، زندگی سے لطف اٹھائیے</p>	<p>Laa taqliq walaa tahzan wastamte' hayaatak</p>	<p>لَا تَقْلِقْ وَلَا تَحْزَنْ وَاسْتَمْتِعْ حَيَاتَكَ</p>

	I agree with you	میں آپ سے متفق ہوں	Ana muttafiqun ma'ak, ana ma'ak	أَنَا مُتَّفِقٌ مَعَكَ ، أَنَا مَعَكَ
صَحِيحٌ هَذَا / وَاللَّهِ / قُلْ وَاللَّهِ!!! أَكِيدُ؟ أَنْتَ مُتَّكِدٌ/ تَضْمَنُ لِي / أَنْتَ تَشْهَدُ؟ أَنْتَ رَأَيْتَ؟ سُفِّتَ؟	Is that right?	کیا یہ درست ہے؟	Hal haaza sahih?	هَلْ هَذَا صَحِيحٌ ؟
	Is that wrong?	کیا یہ غلط ہے؟	Hal haaza khata'?	هَلْ هَذَا خَطَاٌ ؟
أَنْتَ لَا تَفْهَمُ / قُلْتُ لَكَ مِرَاوًا / لَا يُمْكِنُ هَذَا يَا شَيْخَ / تَسْمَعُ كَلَامِي أَوْ لَا؟	What should I say?	مجھے کیا کہنا چاہیے؟	Maaza yajibu an aqool? Mazaa aqoolu lak?	مَاذَا يَجِبُ أَنْ أَقُولَ ؟ مَاذَا أَقُولُ لَكَ ؟
أَحْتَاجُ إِلَى شُؤْيِ تَدْرِيبٍ / نَعَمْ نَعَمْ يَحْتَاجُ إِلَى بَعْضِ الْوَقْتِ / دَجِينُ أَنَا مَا فِي	I just need to practice	مجھے کچھ مشق کی ضرورت ہے	Ana bihaajatin ilaa ba'zit-tadreeb	أَنَا بِحَاجَةٍ إِلَى بَعْضِ التَّدْرِيبِ
جَيِّدٌ جَيِّدٌ / كَلَامُكَ كَوْبِرٌ / عَرَبِيَّتُكَ مُمْتَازٌ	Your Arabic is good	آپ کی عربی زبان بہت اچھی ہے	Loghatukal arabiyyah jayyidah	لُعْتُكَ الْعَرَبِيَّةُ جَيِّدَةٌ
	Your accent is better	آپ کی عربی تعبیر بالکل واضح اور آپ کی زبان بہترین ہے	Ta'beeruka bil-arabiyyati waazihun wa loghatuka mumtaazah	تَعْبِيرُكَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَاضِحٌ وَلُعْتُكَ مُمْتَازَةٌ
مُمْتَازٌ / مَا فِي مُشْكَلَةٍ	Your tone is right	آپ کا تلفظ بالکل درست اور بہتر ہے	Lahjatuka sahihah wa jayyidah	لَهَجَتُكَ صَحِيحَةٌ وَجَيِّدَةٌ

السُّؤَالِ عَنِ الْإِتِّجَاهَاتِ وَطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ



Asking for Directions

سمت کی دریافت اور مدد کا سوال

السُّؤَالِ عَنِ الْإِتِّجَاهَاتِ وَ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ



Optional	English	اردو	Roman	عربی
	Excuse me! (before asking someone)	سینے	Min fazlik	مِنْ فَضْلِكَ
لَوْ سَمَّحْتَ/ يَا شَيْخَ / شَيْخِنَا/ يَا أَخِي/ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ/ يَا حَبِيبِي				
	I'm lost	میں راستہ بھٹک گیا ہوں	Ana zayya'tu at-tareeq	أَنَا ضَلَّيْتُ الطَّرِيقَ
فِي طَرِيقِ مُشْكَلَةٍ/ فِي مُشْكَلَةٍ شَوِي/ سَاعِدْنِي/ فِي مُشْكَلَةٍ يَا شَيْخَ تَعْرِفْ هَذَا الطَّرِيقَ				
	Can you help me?	کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟	Fazlan lau tusa'edni?	فَضْلًا لَوْ تُسَاعِدْنِي؟
تَعْرِفْ هَذَا؟/ مَعْلُومَ أَنْتَ/ فِي عِنْدَكَ عِلْمٌ؟				
	Can I help you?	کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟	Hal yumkinuni musa'adatuk? Hal tasmah li an ausaa'edak	هَلْ يُمَكِّنُنِي مُسَاعَدَتُكَ ؟ هَلْ تَسْمَحُ لِي أَنْ أُسَاعِدَكَ
حَلِّبْنِي أَسَاعِدُكَ/ تَعَالَ/ نَعَمْ أَعْرِفُ/ مَا فِي كِدَا كِدَا رُخْ سِينِدَا/ رُخْ سِينِدَا/ حُشْ كِدَا: شَلْ هَذَا				
	I'm not from here	میں یہاں کا نہیں ہوں، یہاں کے لیے میں اجنبی ہوں	Ana lastu min hina ana jadeed fi hazal- makaan	أَنَا لَسْتُ مِنْ هِنَا أَنَا جَدِيدٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ
أَنَا لَا أَعْرِفُ/ أَنَا جَدِيدٌ / مَا فِي مَعْلُومَ				
	How can i reach there?	میں کیسے یہاں پہنچ سکتا ہوں (اس شہر یا اس جگہ پر)	Kaifa astatee'o an asilu ila hazal makan, hazihil madina	كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصِلَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ؟

السُّؤال عَنِ الْإِتِّجَاهَاتِ وَطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ

Optional	English	اردو	Roman	عربی
	Go straight	سیدھے جائیے	Imshi alaa tool	إِمْسِ عَلِي طُول
رُحْ سَيِّدَهَا	Then	اس کے بعد	Ba'da zaalik	بَعْدَ ذَلِكَ
بَعْدَئِينَ	Turn left	بائیں مڑیے	Khuz shimaalak	خُذْ شِمَالَكَ
	Turn right	دائیں مڑیے	Khuz yameenak	خُذْ يَمِينَكَ
	Can you show me the direction?	کیا آپ مجھے راستہ بتا سکتے ہیں؟	Hal tastatee'u an tariyani (tadulluni) at-tareeq?	هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي (تَدُلُّنِي) الطَّرِيقَ؟
فِي طَرِيقِ مَعْلُومٍ / مُشْكَلَةٍ فِي عُنْوَانِ	I can show you the direction	میں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں	Astatee'o an oriyak at-tareeq	أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرِيكَ الطَّرِيقَ
	Come with me!	میرے ساتھ چلیے	Tafazzal mae	تَفَضَّلْ مَعِيَ
	Take it	اس کو لے لیجیے	Shil ma'ak	شِلْ مَعَكَ
	How long does it take to get there?	وہاں پہنچنے کتنا وقت لگے گا؟	fi kam muddatin tasilu? Kam tastaghriq minal-ayyaam	فِي كَمْ مَدَّةٍ تَصِلُ؟ كَمْ تَسْتَغْرِقُ مِنَ الْإَيَّامِ؟
	Downtown (city center)	شہر کے بیچ	Wasul balad	وَسْطُ الْبَلَدِ
	Historic center (old city)	تاریخی شہر کے بیچ	Wasul madinah attaarikhiyyah	وَسْطُ الْمَدِينَةِ التَّارِيخِيَّةِ
	It's near from here	وہ یہاں سے قریب ہے	Innaha qareebah min hina	إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ هُنَا
قَرِيبٌ جَدًّا / مَا فِي بَعِيدِ	It's far from here	وہ یہاں سے دور ہے	Innaha baeedah an hina	إِنَّهَا بَعِيدَةٌ عَنْ هُنَا
بَعِيدٌ شَوِي				

السؤال عن الاتجاهات وطلب المساعدة

Optional	English	اردو	Roman	عربي
	Is it within walking distance?	کیا میں چل کر جا سکتا ہوں؟	Hal astatee' o an azhaba maashiyan?	هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَذْهَبَ مَاشِيًا؟
	I'm looking for Mr. Bakr	میں جناب بکر صاحب کو تلاش کر رہا ہوں	Ana abhasu anis-sayyid Bakr	أَنَا أَبْحَثُ عَنِ السَّيِّدِ بَكْرٍ
	One minute please!	ایک منٹ رکھیے	Daqiqah waahidah min fazlik	دَقِيقَةً وَاحِدَةً مِنْ فَضْلِكَ / لَحْظَةً لَحْظَةً
	Hold on please! (when on the phone)	لاؤن پر رہیے	Intazir alal khat qalilan min fazlik	إِنْتَظِرْ عَلَى الْخَطِّ قَلِيلًا مِنْ فَضْلِكَ
	He is not here	وہ نہیں ہیں	Innahu ghair maujood, khalaas , intaha	إِنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ، خَلَاصٌ، اِنْتَهَى
	Airport	ایئر پورٹ	Almataar	الْمَطَارُ
	Bus station	بس اسٹیشن	Mahattatul baas	مَحْطَةُ الْبَاصِ
	Railway Station	ریلوے اسٹیشن	Mahattatul qitaar	مَحْطَةُ الْقِطَارِ
	Taxi	ٹیکسی	Taaksi	تَاكْسِي
	Near	قریب	Qareeb	قَرِيبٌ
	Far	دور	Baeed	بَعِيدٌ



Emergency	ايمرجنسی	الطَّوَارِيءُ	ز	
Optional	English	اردو	Roman	عربي
مُمْكِنُ مُسَاعَدَةٍ	Help!	میری مدد کیجیے	Saa'edni	سَاعِدْنِي
اِنْتَقِظْ شُوِي	Stop!	ٹھہریے	Tawaqqaf	تَوَقَّفْ
	Fire!	آگ	Naar	نَارُ
	Thief!	چور	Lis	لِصٌّ
رُحْ مِنْ هُنَا بِسُرْعَةٍ / سُرْعَةٍ	Run!	بھاگو	Ijri / Fir	اِحْرِ / فِرْ
يَا نَابِمْ اِسْتَيْقِظْ	Watch out! (or: be alert!)	چوکتا رہیے	intabih	اِنْتَبِهْ
	Call the police!	پولیس کو فون کیجیے	Ittasil bish-shurtah	اِتَّصِلْ بِالشُّرْطَةِ
	Call a doctor!	ڈاکٹر کو کال کیجیے	Ittasil bit-tabeeb	اِتَّصِلْ بِالطَّبِيبِ
	Call the ambulance!	ایمبولنس کو فون کیجیے	Ittasil bil as'aaf	اِتَّصِلْ بِالْاَسْعَافِ
	Are you ok?	کیا آپ ٹھیک ہیں؟	Hal anta bikhair	هَلْ اَنْتَ بِخَيْرٍ؟
شُوِي تَعْبَانِ / صُدَاعِ / اَلَمْ فِي الرِّاسِ / شُوِي مَرِيضِ	I feel sick	مجھے چکر آ رہا ہے	Ash'oru biddauraan	اَشْعُرُ بِالْاِدْوَارَانِ

الطَّوَارِي

Optional	English	اردو	Roman	عربی
أَبْغِي	I need a doctor	مجھے ڈاکٹر چاہیے	Oreedu tabeeban	أُرِيدُ طَبِيبًا
	Accident	حادثہ	Haadis	حَادِثٌ
	Peace	سلامتی	salamaat	سَلَامَاتٌ
	Food poisoning	زہریلی غذا	Tusammamu ghizaae	تُسَمِّمُ غَدَائِي
	Where is the nearest pharmacy?	سب سے قریب فارمیسی کونسی ہے؟	Ayna aqrab saidaliyyah?	أَيْنَ أَقْرَبُ صَيْدَلِيَّةٍ؟
	Its paining here	یہاں مجھے درد ہو رہا ہے	Hina yu'limuni	هِنَا يُؤْلِمُنِي
مُهْمٌ جِدًّا	It's urgent!	یہ ضروری کام ہے	Innahu amrun haam	إِنَّهُ أَمْرٌ هَامٌ
هَدُوَةٌ هَدُوَةٌ يَا شَيْخُ	Calm down!	پر سکون رہیے	Ehda' min fazlik	إِهْدَأْ مِنْ فَضْلِكَ
	You will be okay!	آپ ٹھیک ہو جائینگے	Saufa takoonu bikhair, la ba'sa tahoor in shaa Allaah	سَوْفَ تَكُونُ بِخَيْرٍ، لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟
مُمْكِنٌ مُسَاعَدَةٌ؟ / لَوْ سَمَّحَتْ	Can you help me?	کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں	Hal yumkinuka musaa'adati?	هَلْ يُمَكِّنُكَ مُسَاعَدَتِي؟
أَنَا مُمَكِّنٌ مُسَاعَدَةٌ	Can I help you?	کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں	Hal yumkinuni musaa'idatuk?	هَلْ يُمَكِّنُنِي مُسَاعَدَتُكَ؟

الْفَنَادِقِ وَالْمَطَاعِمِ وَالسَّفَرِ عُمُومًا



Hotel, Restaurant and Travel Phrases

ہوٹل، ریستورنٹ اور سفر

الْفَنَادِقِ وَالْمَطَاعِمِ وَ
السَّفَرِ عُمُومًا



Optional	English	اردو	Roman	عربی
	I have a reservation (for a room)	میرے پاس بکنگ ہے	Mahjooz indee?	مَحْجُوزٌ عِنْدِي؟
فِي حَجْرٍ مِنْ أَوَّلٍ / فِي حَجْرٍ مَسْبُوقٍ / نَعَمْ حَجْرٌ فِي يَأ سُبْحٍ / عِنْدِي فَاتُورَة				
	Do you have rooms available?	کیا آپ کے ہاں روم مل سکتا ہے	Hal ladaikum ghurafun musta'jirah?	هَلْ لَدَيْكُمْ غُرْفٌ مُسْتَأْجَرَةٌ؟
فِي عِنْدِكَ اسْتِئْجَارًا / فِي عِنْدِكَ غُرْفٌ شَاغِلٌ (فَاضِي) / مَلِيَانٌ؟ / مَا فِي وَاحِدٍ فَاضِي				
	With shower / With bathroom	شاور اور حمام کے ساتھ	Birrash – bilhammaam	بِالرَّشِّ – بِالْحَمَّامِ
	I would like a non-smoking room	میں غیر تمباکو نوشی والا روم چاہتا ہوں	Aureedu ghurfah lighairil mudkhineen	أُرِيدُ غُرْفَةً لِعَيْبِرِ الْمُدْخِنِينَ
أَبْغِي غُرْفَةً مُمْتَازًا / مَا فِي تَدْخِينٍ / سَمِعْتَ كَيْفَ؟ / فَهَمَّتْ كَيْفَ				
	What is the charge per night?	ایک رات کا کتنا کرایہ ہے	Ma taklufa li lailatil waahida?	مَا تَكْلِفَةُ لِلَيْلَةِ الْوَاحِدَةِ؟
	I'm here on business /on vacation	میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں / چھٹیاں گزارنے آیا ہوں	Ana hina lil amal – ana hina fi ijazah	أَنَا هُنَا لِلْعَمَلِ – أَنَا هُنَا فِي إِجَازَةٍ
	Dirty	پراگندہ	Ghairu nazeef	غَيْرُ نَظِيفٍ
	Clean	صاف ستھرہ	Nazeef	نَظِيفٌ
	Do you accept credit cards?	کیا آپ کریڈٹ کارڈس قبول کرتے ہیں؟	Hal tuqabbiloona bitaqaatil-bunook?	هَلْ تَقْبَلُونَ بِطَاقَاتِ الْبُنُوكِ؟
فِي عِنْدِكَ / أَنْتَ لَوْ سَمَحْتَ عِنْدَكَ / بِطَاقَةِ مَقْبُولَةِ أَوْلَا؟				
	I'd like to rent a car	میں ٹیکسی چاہتا ہوں	Oreedu tajeer sayyarah	أُرِيدُ تَأْجِيرَ سَيَّارَةٍ
	How much will it cost?	اس کا کرایہ کتنا ہے؟	Kam at-taklufa?	كَمْ التَّكْلِفَةُ؟
بِكَمْ / كَمْ هَذَا؟				

الْفَنَادِقُ وَالْمَطَاعِمِ وَالسَّفَرِ عُمُومًا

	A table for one / two please!	برائے مہربانی ایک / دو آدمی کے لیے میز چاہیے	Minzadah li shakhsin wahid min fazlik- minzadah li shakhsain min fazlik	مِنْصَدَّةٌ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ فَضْلِكَ - مِنْصَدَّةٌ لِشَخْصَيْنِ مِنْ فَضْلِكَ
فِي حَجَزٍ هُنَا	Is this place occupied?	کیا یہ میز لے لی گئی ہے؟	Hal hazal-kursi mahjooz?	هَلْ هَذَا الْكُرْسِيُّ مَحْجُوزٌ ؟
خَمْرٍ حَرَامٍ	I don't drink alcohol	میں شراب نہیں پیتا	Laa ashrabu alkahuliyaat	لَا أَشْرَبُ الْكَحُولِيَّاتِ
إِيْشٌ هَذَا	What's the name of this dish?	اس ڈش کا نام کیا ہے	Masmu hazat tabaq	مَا اسْمُ هَذَا الطَّبَقِ ؟
تَعَالِ يَا سَيِّدُ / يَا أُخِي	Waiter / waitress!	ویٹر / ویٹرس	Naadil-naadila	نَادِلٌ - نَادِلَةٌ
فِي فَائِزَةٍ / سُرْعَةٍ فَائِزَةٍ	Can we give check?	کیا ہم چیک دے سکتے ہیں	Fazlan ahzirul fatoorah	فَضْلًا أَحْضِرِ الْفَائِزَةَ
لَدِيدٌ / طَيِّبٌ / مَا شَاءَ اللَّهُ / الْحَمْدُ لِلَّهِ / سُبْحَانَ اللَّهِ	It is very delicious!	یہ بہت مزے دار ہے	Innahu lazeezun jiddan	إِنَّهُ لَدِيدٌ جِدًّا
مَا فِي جَدِيدٍ / لَا أَبْغِي هَذَا	I don't like it	مجھے یہ پسند نہیں	Innahu la yu'jibuni	إِنَّهُ لَا يُعْجِبُنِي
فِي شُرُوطٍ	Shopping Expressions	شرائط خریداری	Mustalahaat at-tasawwuq	مُصْطَلَحَاتُ التَّسَوُّقِ
بِكَمْ هَذَا / بِكُمْ رِيَالَاتٍ	How much is this?	یہ کتنے کا ہے؟	Kam saman haaza?	كَمْ تَمَنُّ هَذَا ؟
بَسَّ عَادِيٍّ / شُفِّ فَقَطْ	I'm just looking	میں تو بس دیکھ رہا ہوں	Ana ulqi nazratan faqat	أَنَا أُلْقِي نَظْرَةً فَقَطْ
مَا عِنْدِي فَكَّةٌ / فَكَّةٌ مَا فِي	I don't have change	میرے پاس چلر نہیں	Laisa ladai fukkah	لَيْسَ لَدَيَّ فَكَّةٌ
عَالِي جِدًّا / كَثِيرٌ هَذَا	This is too expensive	یہ بہت مہنگا ہے	Haaza ghaali jiddan	هَذَا عَالِي جِدًّا
Expensive		مہنگا	Ghaali	عَالِي
بَسِيْطٌ / أَمْوَرٌ بَسِيْطَةٌ / أَمْرٌ سَهْلٌ / مُمَكِّنٌ / خَلَّاصٌ هَذَا	Cheap	ستا	Rakhees	رَخِيْصٌ

اِسْتِخْدَامُ يَوْمِي


AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani



Optional	English	اردو	Roman	عربي
	What time is it?	وقت کیا ہوا؟	Kam assaa'ah alaan?	كَمْ السَّاعَةُ الْآنَ ؟
	It's 3 o'clock	تین بجے ہیں	Innaha as-saalisah	إِنَّهَا الثَّلَاثَةُ
	Give me this!	یہ مجھے دیجیے	A'tini haaza	أَعْطِنِي هَذَا
اَكِيد؟	Are you sure?	آپ کو اس بات کا یقین ہے؟	Hal anta muta'akkid	هَلْ أَنْتَ مُتَأَكِّدُ ؟
أَهْلًا أَهْلًا	Take this! (when giving something)	یہ لیجیے	Tafazzal haaza	تَفَضَّلْ هَذَا
جَوُّ جَمِيلٌ	It's freezing (weather)	موسم بہت ٹھنڈا ہے	Innal-jawwa baaridun jiddan	إِنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ جَدًّا
جَوُّ بَارِدٌ	It's cold (weather)	موسم سرد ہے	Innal jawwa baaridun	إِنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ
جَوُّ مُمْتَازٌ	It's hot (weather)	موسم بہت گرم ہے	Innal jawwa haarrun jiddan	إِنَّ الْجَوَّ حَارٌّ جَدًّا
أَعْجَبَكَ؟	Do you like this?	کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟	Hal yo'jibuk?	هَلْ يُعْجِبُكَ ؟
عَجِبْتُ!!	I really like this!	میں اسے واقعی پسند کرتا ہوں	Innahu yojibuni fe'lan	إِنَّهُ يُعْجِبُنِي فِعْلًا
جَوْعَانٌ	I'm hungry	میں بھوکا ہوں	Ana jaae'un	أَنَا جَائِعٌ
ظَمَانٌ/عَطْشَانٌ	I'm thirsty	مجھے پیاس لگی ہے	Ash'auru bizzama'	أَشْعُرُ بِالظَّمَا
مُضْحِكٌ! / أَضْحُوكَةً!	He is funny	وہ مزاحیہ ہے	Innahu muzhik	إِنَّهُ مُضْحِكٌ
	In The Morning	صبح کے وقت	Fissabaah	فِي الصَّبَاحِ
	In the evening	شام کے وقت	Fil masaa'	فِي الْمَسَاءِ
	At Night	رات کے وقت	Lailan	لَيْلًا
سُرْعَةً يَا شَيْخَ	Hurry up!	جلدی کیجیے	Asre'	أَسْرِعْ

الْكَلِمَاتُ عِنْدَ الْاِزْعَاجِ



At the time of not comfortable

پریشانی کے وقت پر بولے جانے والے کلمات

الْكَلِمَاتُ عِنْدَ الْاِزْعَاجِ

ی

Optional	English	اردو	Roman	عربی
مَجْنُونٌ أَنْتَ / مُخٌ مَا فِي	He is crazy	یہ پاگل ہے	Haaza majnoon	هَذَا مَجْنُونٌ
	O my lord! O Allah!	اے میرے مالک	Ya ilaahi	يَا إِلَهِي
عَلْطَانُ / مَا لَيْشُ / سَامِخِنِي / عَفْوًا / آسِفِينَ	Oh gosh! (when making a mistake)	افسوس	Aasif jiddan	آسِفٌ جِدًّا
مُؤَلِّمٌ: خَلَّ وَلٍ / خَلَّ بِأَلِكٍ / مُرْتَاخِينُ / حَزْبَانُ / عَظْلَانُ / كَسْلَانُ / تَغْبِيَانُ / مَا جَيِّدٌ	He is really bad	یہ تو بہت برا ہوا	Innahu shaiun sayyeun jiddan	إِنَّهُ شَيْءٌ سَيِّئٌ جِدًّا
	What's wrong with you?	آپ کو کیا ہوا؟	Ma baaluk	مَا بِأَلِكِ ؟
	Are you crazy?	کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟	Hal juninta?	هَلْ جُنِنْتَ ؟
خَلَّ وَلٍ / خَلَّ بِأَلِكٍ / أُسْكُتُ / خَلَاصُ / اِنْتَهِي / بَعْدَيْنِ	Leave me alone!	مجھے تنہا چھوڑ دو	utrunki wahdah	أُتْرِكْنِي وَحْدَةً
خَلَّ وَلٍ / أَشْ دَخَلَكَ أَنْتَ / خَلَاصُ	I'm not interested!	مجھے دلچسپی نہیں	Lastu mohtamman	لَسْتُ مُهْتَمًّا



Optional	English	اردو	Roman	عربی
	Dear Khalid	میرے پیارے خالد	Azeezi Khalid	عَزِيزِي خَالِدُ
	My trip was very nice	میرا سفر بہت بہترین تھا	Kaanat rehlati jayyidatun jiddan	كَانَتْ رِحْلَتِي جَيِّدَةً جِدًّا
	The culture and people were very interesting	میں اس شہر کی تہذیب اور یہاں کے لوگوں سے کافی محظوظ ہوا۔	Laqad istamta'tu haqqan bisaqafati haazal baladi wa sha'abiha	لَقَدْ اسْتَمْتَعْتُ حَقًّا بِثِقَافَةِ هَذَا الْبَلَدِ وَ شَعْبِهَا
	I had a good time with you	میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا	Laqad istamta'tu ma'aka jiddan wa qazaina waqтан tayyiban	لَقَدْ اسْتَمْتَعْتُ بِالْوَقْتِ مَعَكَ جِدًّا وَقَضَيْنَا وَقْتًا طَيِّبًا
	I would like to visit your country again	میں پھر ایک بار آپ کے شہر کا دورہ کرنا چاہتا ہوں	Auhibbu an azoora biladakum marratan saaniyah	أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ بِلَادَكُمْ مَرَّةً ثَانِيَةً
	Don't forget to write me back from time to time	آپ مجھے وقت پر خط لکھنا نہ بھولیں	La tansa an turasiluni min fatratin ila ukhra	لَا تَنْسَ أَنْ تُرَاسِلَنِي مِنْ فَتْرَةٍ إِلَى أُخْرَى

الصفات واصدادها		
صَغِيرٌ	X	كَبِيرٌ
بَعِيدٌ	X	قَرِيبٌ
شَرٌّ	X	خَيْرٌ
فَاسِدٌ	X	حَسَنٌ
فَقِيرٌ	X	غَنِيٌّ
أَخِيرٌ	X	أَوَّلٌ
يَسَارٌ	X	يَمِينٌ
عَذَابٌ / عِقَابٌ	X	ثَوَابٌ
حَيَاةٌ	X	مَوْتٌ
نَاقِصٌ	X	كَامِلٌ
مُتَوَاضِعٌ	X	مُتَكَبِّرٌ
سَيِّئٌ / طَالِحٌ	X	صَالِحٌ
سَاحِجٌ	X	بَارِدٌ
جَافٌ	X	مُجَلِّبٌ
تَحْتَ	X	فَوْقَ
دَاخِلٌ	X	خَارِجٌ
صَعْبٌ	X	سَهْلٌ
مَلِيءٌ / مَشْغُولٌ	X	فَارِغٌ
دَانِي	X	قَاسِي
وَرَاءَ	X	أَمَامَ
دَانِي	X	عَالِي
سَرِيعٌ	X	بَطِيءٌ
فَصِيرٌ	X	طَوِيلٌ
حَيٌّ	X	مَيِّتٌ
قَدِيمٌ	X	جَدِيدٌ
نَجِيفٌ	X	سَمِينٌ
مُغْلَقٌ	X	مُفْتَوِّحٌ
كَثِيرٌ	X	قَلِيلٌ

Comparison Words	
أَصْغَرَ مِنْ ذَاكَ	أَكْبَرُ مِنْ هَذَا
أَسْوَأُ مِنْ ذَاكَ	أَحْسَنُ مِنْ هَذَا
أَذَلُّ مِنْ ذَاكَ	أَفْضَلُ مِنْ هَذَا
نَاقِصٌ مِنْ ذَاكَ	أَكْمَلُ مِنْ هَذَا
صَعْبٌ مِنْ ذَاكَ	سَهْلٌ مِنْ هَذَا

Question Words			
What?	کیا؟	Maaza?	مَاذَا؟
Where?	کہاں؟	Ayna?	أَيْنَ؟
Who?	کون؟	Man?	مَنْ؟
How?	کیسے؟	Kaifa?	كَيْفَ؟
When?	کب؟	Mataa?	مَتَى؟
Why?	کیوں؟	Limazaa?	لِمَاذَا؟

مساعدة الفاظ (عربی کے تکیہ کلام)
وَفِي الْحَقِيقَةِ
أَيُّوَا أَيُّوَا
نَعَمْ نَعَمْ
خَلَاصٌ
يَا أَحْيِي
لَوْ سَمَّحَتْ
لَا بَأْسَ
إِي نَعَمْ
لَا لَا
لَا وَاللَّهِ
جَيِّدٌ جَيِّدٌ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

حفظُ الأحاديث

Arshad Basheer Madani Notes

حوالہ	اردو	English	عربی	
مسلم : 55، ترمذی : 1926، ابوداؤد : 4944	دین خیر خواہی کا نام ہے۔	The deen (religion) is naseehah (advice, sincerity).	الدِّينُ النَّصِيحَةُ	1
صحیح الترمذی : 1987	جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔	Fear Allah wherever you are.	اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ	2
مسلم : 2559	آپس میں حسد نہ کرو۔	Do not be jealous of one another.	لَا تَحَاسَدُوا	3
بخاری : 6013	جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔	He, who is not merciful to others, will not be treated mercifully.	مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ	4
بخاری : 9، مسلم : 35	حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔	The modesty is a branch of Eemaan.	الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ	5
مسلم : 223	پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔	Purity is a part of Eemaan.	الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ	6
مسلم : 223	نماز نور ہے۔	The salah is a light.	الصَّلَاةُ نُورٌ	7
بخاری : 1	اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔	Actions are to be judged only by intentions.	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ	8
صحیح الترغیب : 3160، صحیح الجامع : 97، صحیح الترمذی : 1987	لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔	And behave decently towards people.	خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنِ	9
صحیح الجامع : 4395، مسلم : 38	کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔	Say I believe in Allah — and then be steadfast.	قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ	10
صحیح ابی داؤد : 1479، صحیح الترمذی : 2969، صحیح ابن ماجہ : 3101	دعا عبادت ہے۔	Supplication (du'a') is itself the worship.	الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ	11
صحیح الجامع : 7957، صحیح الترمذی : 2516	جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔	When you ask (for anything), ask it from Allah.	إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ	12
صحیح الترمذی : 1315، صحیح الجامع : 6406	جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔	Whoever cheats, he is not one of us.	مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا	13

Arshad Basheer Madani Notes

الأَحَادِيثُ لِلأَطْفَالِ

بخاری: 7172، مسلم: 2002	ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔	Every intoxicant is unlawful.	كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ	14
صحیح الترمذی: 2516، صحیح الجامع: 7957	اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔	be mindful of Allah and He will protect you	احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ	15
بخاری: 5376، مسلم: 2022	بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔	Mention the Name of Allah and eat with your right hand.	سَمِّ اللّٰهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ	16
صحیح الجامع: 204	اپنی زبان کی حفاظت کرو	Protect your tongue	احْفَظْ لِسَانَكَ	17
السلطۃ الصحیحۃ: 492، صحیح الجامع: 6394	جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔	Whoever hangs an amulet has committed shirk.	مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ	18
صحیح ابی داؤد: 3910	بد شگونی شرک ہے۔	Taking omens is polytheism.	الظِّيرَةُ شِرْكٌ	19
بخاری: 2442، مسلم: 2564	ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔	A Muslim is a brother to a Muslim.	المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ	20
مسلم: 2204	ہر بیماری کا علاج ہے۔	There is a remedy for every malady.	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ	21
السلطۃ الصحیحۃ: 2735	ہر بدعت گمراہی ہے۔	and every innovation is going astray.	كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ	22
مسلم: 2588	صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔	Wealth does not diminish by giving Sadaqah (charity).	مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ	23
صحیح ابی داؤد: 4031	جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔	He who imitates any people (in their actions) is considered to be one of them.	مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	24
بخاری: 2448	مظلوم کی بدعا سے بچو۔	Be afraid, from the curse of the oppressed.	اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ	25
مسلم: 2553	نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔	Virtue is noble behavior.	الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ	26
صحیح الجامع: 3004	ایک دوسرے کو تحفہ دو کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔	Give presents to each other, this will increase love for each other.	تَهَادَوْا تَحَابُّوا	27

الأَحَادِيثُ لِلأَطْفَالِ

صحیح مسلم: 2540، صحیح البخاری: 3673	میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔	Do not revile my Companions.	لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي	28
بخاری: 6116	غصہ نہ کرو۔	Do not get angry.	لَا تَعْصَبْ	29
بخاری: 6056، مسلم: 105	چغلیخوڑ جنت میں نہیں جائے گا۔	A backbiter will not enter Paradise.	لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ	30
بخاری: 6234	چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔	The young should greet the old.	يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ	31
مسلم: 2867	عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔	Seek refuge with Allah from the torment of the grave.	تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ	32
صحیح الترمذی: 2483	موت کی تمنامت کرو۔	None of you should wish for death.	لَا تَمْتُنُوا الْمَوْتَ	33
مسلم: 537	کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔	Don't visit Kahins.	لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ	34
بخاری: 6169	آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا۔	Everyone will be with those whom he loves.	الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ	35
صحیح الجامع: 6678	مجلسیں امانت ہیں۔	Meetings are confidential.	الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ	36
مسلم: 54	اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔	Promote greeting amongst you (by saying As-salaamu alaikum to one another).	أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ	37
بخاری: 6021، مسلم: 1005	ہر نیکی صدقہ ہے۔	Every act of goodness is (considered as) Sadaqah.	كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ	38
بخاری: 3464، صحیح الترمذی: 2669	میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔	Convey from me even an Ayah of the Qur'an.	بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً	39
صحیح الترمذی: 2670	نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے	Whoever leads to good, he is like the one who does it.	أَلَدَّالٌ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ	40
صحیح الجامع: ۴۰۲۷	جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔	When one of you is angry, he should be silent.	إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ	41

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

التدريب لقراءة الجملة العربية

Arshad Basheer Madani Notes

Sl.No	السؤال	الجواب	الدليل من القرآن	الدليل من الحديث
١.	لِمَاذَا خَلَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى؟	خَلَقَنَا اللَّهُ لِنَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا	(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: ٥٦]	(حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) (صحيح البخارى ٦٢٦)
٢.	كَيْفَ نَعْبُدُ اللَّهَ؟	كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَعَ الْإِحْلَاصِ	(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [البينة: ٥]	(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [أبي مردود] (صحيح مسلم ١٧١٨)
٣.	هَلْ نَعْبُدُ اللَّهَ خَوْفًا وَطَمَعًا؟	نَعَمْ نَعْبُدُهُ خَوْفًا وَطَمَعًا	(وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) أَيَّ خَوْفًا مِنْ نَارِهِ وَطَمَعًا فِي جَنَّتِهِ [الأعراف: ٥٦]	(أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ) (صحيح ابن ماجه ٣١١٧)
٤.	مَا هُوَ الْإِحْسَانُ فِي الْعِبَادَةِ؟	مُرَاقَبَةُ اللَّهِ وَحُدَّةَ الَّذِي يَرَانَا	(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: ١] (الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ) [الشعراء: ٢١٨]	(الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) (صحيح البخارى ٤٧٧٧)
٥.	لِمَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ الرَّسُلَ؟	لِلدَّعْوَةِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَنَفْيِ الشِّرْكِ عَنْهُ	(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) [النحل: ٣٦]	(الأنبياء إخوةٌ وديهمٌ واحد) [أي كلُّ الرسل دعوا إلى التوحيد] (متفق عليه)
٦.	مَا هُوَ تَوْحِيدُ الْإِلَهِ؟	إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ كَالدُّعَاءِ وَالنُّذْرِ وَالْحُكْمِ	(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أَيَّ لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ [محمد: ١٩]	(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) [أي إلى أن يوحدوا الله] (متفق عليه)
٧.	مَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟	لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ	(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ) [لقمان: ٣٠]	(مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حُرِّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ) (رواه مسلم ٢٣)
٨.	مَا هُوَ التَّوْحِيدُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ؟	إِثْبَاتُ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ رَسُولُهُ	(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَسُوهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: ١١]	(يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) [نزولاً يليق بجلاله] (صحيح البخارى ١١٤٥)
٩.	مَا هِيَ فَائِدَةُ التَّوْحِيدِ لِلْمُسْلِمِ؟	الْهِدَايَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَمْنُ فِي الْآخِرَةِ	(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام: ٨٢]	(حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) (صحيح البخارى ٢٨٥٦)

عَقِيدَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

<p>١٠. أَيْنَ اللَّهُ؟</p> <p>اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَوْقَ الْعَرْشِ</p>	<p>"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ". (صحيح البخاري ٧٥٥٤)</p> <p>(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (أَيُّ عِلًّا وَارْتَفَعَ كَمَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ) [طه: ٥]</p>
<p>١١. هَلِ اللَّهُ مَعَنَا بِدَاتِهِ أَمْ بِعِلْمِهِ؟</p> <p>اللَّهُ مَعَنَا بِعِلْمِهِ يَسْمَعُنَا وَيَرَانَا</p>	<p>(إِنكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ) [أَيُّ بَعْلَمَهُ يَسْمَعُكُمْ وَيَرَاكُمْ] (صحيح البخاري ٤٢٠٥)</p> <p>(قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى) (أَيُّ بِحَفْظِي وَنَصْرِي وَتَأْيِيدِي) [طه]</p>
<p>١٢. مَا هُوَ أَعْظَمُ الدُّنُوبِ؟</p> <p>أَعْظَمُ الدُّنُوبِ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ</p>	<p>(قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِيهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ.) (صحيح البخاري ٦٨٦١)</p> <p>(يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: ١٣]</p>
<p>١٣. مَا هُوَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ؟</p> <p>هُوَ صَرْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَالدُّعَاءِ</p>	<p>(أَكْبَرُ الْكُفُورِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ) (صحيح البخاري ٦٨٧١)</p> <p>(قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا) [الجن: ٢٠]</p>
<p>١٤. مَا هُوَ صَرْفُ الشِّرْكَ الْأَكْبَرِ؟</p> <p>الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ يُسَبِّبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ</p>	<p>(مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ) (صحيح البخاري ١٢٣٨)</p> <p>(إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ) [المائدة: ٧٢]</p>
<p>١٥. هَلِ يَنْفَعُ الْعَمَلُ مَعَ الشِّرْكَ؟</p> <p>لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ مَعَ الشِّرْكَ</p>	<p>(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرِكُهُ) (صحيح مسلم ٢٩٨٥)</p> <p>(وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: ٨٨]</p>
<p>١٦. هَلِ الشِّرْكَ مَوْجُودٌ فِي الْمُسْلِمِينَ؟</p> <p>نَعَمْ مَوْجُودٌ بِكَثْرَةٍ مَعَ الْأَسْفِ</p>	<p>(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ) (صحيح الترمذي ٢٢١٩)</p> <p>(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: ١٠٦]</p>
<p>١٧. مَا حُكْمُ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ كَالْأَوْلِيَاءِ؟</p> <p>دُعَاؤُهُمْ شِرْكَ يُدْخِلُ النَّارَ</p>	<p>"مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَاءً دَخَلَ النَّارَ" (صحيح البخاري ٤٤٩٧)</p> <p>(فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) (فِي النَّارِ) [الشعراء: ٢١٣]</p>
<p>١٨. هَلِ الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى؟</p> <p>نَعَمْ الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى</p>	<p>(الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) (سنن الترمذي ٣٢٤٧)</p> <p>(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر: ٦٠]</p>
<p>١٩. هَلِ يَسْمَعُ الْأَمْوَاتُ الدُّعَاءَ؟</p> <p>الْأَمْوَاتُ لَا يَسْمَعُونَ الدُّعَاءَ</p>	<p>"إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ" (السلسلة الصحيحة ٢٨٥٣)</p> <p>(إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى) [النمل: ٨٠]</p> <p>(وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [فاطر: ٢٢]</p>

٢٠.	هَلْ نَسْتَعِيْثُ بِالْأَمْوَاتِ أَوْ الْغَائِبِيْنَ؟	لَا نَسْتَعِيْثُ بِهِمْ بَلْ نَسْتَعِيْثُ بِاللّٰهِ	إِذْ تَسْتَعِيْثُوْنَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ [الأنفال: ٩]	كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرِهَ أَمْرًا قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ (صحيح الترمذي ٣٥٢٤)
٢١.	هَلْ تَجُوْزُ الْإِسْتِعَانَةَ بِغَيْرِ اللّٰهِ؟	لَا تَجُوْزُ الْإِسْتِعَانَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ	(إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْبُ) [الفاخرة: ٥]	(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ) (سنن الترمذي ٢٥١٦)
٢٢.	هَلْ نَسْتَعِيْبُ بِالْأَحْبَاءِ الْحَاضِرِيْنَ؟	نَعَمْ، فَيَمَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ	(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سَوَاءًا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدُوَانِ) [المائدة: ٢]	(وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) (صحيح. رواه مسلم ٢٦٩٩)
٢٣.	هَلْ يَجُوْزُ التَّنْذِرُ لِغَيْرِ اللّٰهِ؟	لَا يَجُوْزُ التَّنْذِرُ إِلَّا لِلّٰهِ	(رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَقَبَّلْ مِنِّي) [آل عمران: ٣٥]	(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهُ فَلَا يُعْصِهِ) (صحيح البخاري ٦٦٩٦)
٢٤.	هَلْ يَجُوْزُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللّٰهِ؟	لَا يَجُوْزُ لِأَنَّهُ مِنَ الشَّرْكَ الْأَكْبَرِ	(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ) (أَيِ ادْبَحْ لِلّٰهِ فَقَطْ) [الكوثر: ٢]	(لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ) (صحيح مسلم ١٩٧٨)
٢٥.	هَلْ يَجُوْزُ الطَّوَافُ بِالْقُبُوْرِ؟	لَا يَجُوْزُ الطَّوَافُ إِلَّا بِالْكَعْبَةِ	(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (أَيِ الكعبة) [الحج: ٢٩]	(مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعْتَقِ رَقِيْبَةٍ) (صحيح ابن ماجه ٢٤١١)
٢٦.	هَلْ تَجُوْزُ الصَّلَاةُ وَالْقَبْرِ أَمَاْمًا؟	لَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ إِلَى الْقَبْرِ	(قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (أَيِ استقبال الكعبة) [البقرة: ١٤٤]	(لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) (صحيح مسلم ٩٧٢)
٢٧.	مَا حُكْمُ الْعَمَلِ بِالسِّحْرِ؟	الْعَمَلُ بِالسِّحْرِ مِنَ الْكُفْرِ	(وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ) [البقرة: ١٠٢]	(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ " . قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ " الشَّرْكَ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ) صحيح مسلم ٨٩
٢٨.	هَلْ يَجُوْزُ الذَّهَابُ إِلَى الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ؟	لَا يَجُوْزُ الذَّهَابُ إِلَيْهِمَا	(هَلْ أُنزِلُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنَ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ) [الشعراء: ٢٢١-٢٢٢]	(مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً) (صحيح مسلم ٢٢٣٠)
٢٩.	هَلْ نُصَدِّقُ الْعَرَّافَ وَالْكَاهِنَ؟	لَا نُصَدِّقُهُمَا فِي إِخْبَارِهِمَا عَنِ الْغَيْبِ	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ [النمل: ٦٥]	(مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " (صحيح الجامع: ٥٩٣٩)

عَقِيدَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

٣٠.	هَلْ يَعْلَمُ الْغَيْبَ أَحَدٌ؟	لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ	(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) [الأنعام: ٥٩]	(لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) (حسن رواه الطبراني)
٣١.	بِمَاذَا يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ الْمُسْلِمُونَ؟	يَجِبُ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ	(وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [المائدة: ٤٩]	(الله هُوَ الحكم وإليه المصير) (حسن رواه أبو داود)
٣٢.	هَلْ يَجُوزُ الْحَلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ؟	لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ إِلَّا بِاللَّهِ	(قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعِنُنَّ) [التغابن: ٧]	(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (مسند أحمد: ١٩٩/٧)
٣٣.	هَلْ يَجُوزُ تَعْلِيْقُ الْخِرْزُ وَالْتَّمَائِمُ لِلشِّقَاءِ؟	لَا يَجُوزُ تَعْلِيْقُهَا لِأَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ	(وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) [الأنعام: ١٧]	(من عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ) [التميمة: ١٠/١٢] مَا يَعْلَقُ مِنَ الْعَيْنِ [مسند أحمد]
٣٤.	بِمَاذَا نَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟	نَتَوَسَّلُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ	(وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) [الأعراف: ١٨٠]	(أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ) (مسند أحمد ١٥٣/٦)
٣٥.	هَلْ يَحْتَاجُ الدُّعَاءُ لِرِوَايَةِ مَخْلُوقٍ؟	لَا يَحْتَاجُ الدُّعَاءُ لِرِوَايَةِ مَخْلُوقٍ	(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مَّا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) [البقرة: ١٨٦]	(إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ) [أي بعلمه يسمعكم ويراكم] (صحيح مسلم ٢٧٠٤)
٣٦.	مَا هِيَ وَاسِطَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟	وَاسِطَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ التَّبْلِيغُ	(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: ٦٧]	(اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ اللَّهُمَّ أَشْرَهُدْ) [جواباً لقول الصحابة نشهد أنك قد بَلَّغْتَ] (صحيح مسلم ٢٢١)
٣٧.	مِمَّنْ نَطْلُبُ شَفَاعَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟	نَطْلُبُ شَفَاعَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهِ	(قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) [الزمر: ٤٤]	(اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ) [أي شَفِّعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ] (صحيح ابن ماجه ١١٤٥)
٣٨.	كَيْفَ نُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟	الْمُحِبَّةُ تَكُونُ بِالطَّاعَةِ وَاتِّبَاعِ الْأَمْرِ	(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) [آل عمران: ٣١]	(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (صحيح البخاري ١٥)

عَقِيدَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

٣٩.	هَلْ نُبَالِغُ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟	لَا نُبَالِغُ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ) [الكهف: ١١٠]	(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) (صحيح البخاري ٤٠١: وصححه الألباني)
٤٠.	مَنْ هُوَ أَوَّلُ الْمَخْلُوقَاتِ؟	مِنَ الْبَشَرِ آدَمُ، وَمِنَ الْأَشْيَاءِ الْقَلَمُ	(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ) [ص: ٧١]	(إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ) (صحيح الترمذي ٢١٥٥ وقال حسن صحيح)
٤١.	مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟	خَلَقَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُطْفَةٍ	(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) [غافر: ٦٧]	(إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً) (صحيح مسلم ٢٦٤٣)
٤٢.	مَا هُوَ الْوَلَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ؟	هُوَ الْحُبُّ وَالنَّصْرَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوحَدِينَ	(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة: ٧١]	" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " (صحيح مسلم ٢٥٨٥)
٤٣.	مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ؟	الْوَلِيُّ هُوَ الْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ	(أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) [يونس: ٦٢-٦٣]	(إِنَّمَا وَلِيُّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) (صحيح البخاري ٥٩٩٠)
٤٤.	لِمَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ؟	أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ لِلْعَمَلِ بِهِ	(اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) [الأعراف: ٣]	(إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَاكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ) (رواه أحمد)
٤٥.	هَلْ نَسْتَعِينُ بِالْقُرْآنِ عَنِ الْحَدِيثِ؟	لَا نَسْتَعِينُ بِالْقُرْآنِ عَنِ الْحَدِيثِ	(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤]	(أَلَا إِلَهِي أَوْنَيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) (صحيح أبي داود ٤٦٠٤)
٤٦.	هَلْ نُقَدِّمُ قَوْلًا عَلَى قَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟	لَا نُقَدِّمُ قَوْلًا عَلَى قَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [الحجرات: ١]	" لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " (صحيح البخاري ٧٢٥٧)

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

عَقِيدَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

٤٧.	مَاذَا نَفَعَلُ إِذَا اخْتَلَفْنَا؟	نَعُودُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ	(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) [النساء: ٥٩]	" تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ " (ابن عبد البر - المصدر: التمهيد ٣٣١/٢٤)
٤٨.	مَا هِيَ الْبِدْعَةُ فِي الدِّينِ؟	كُلُّ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ	(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) [الشورى: ٢١]	(مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) [أَيُّ غَيْرِ مَقْبُولٍ] (صحيح مسلم ١٧١٨)
٤٩.	هَلْ فِي الدِّينِ بَدْعَةٌ حَسَنَةٌ؟	لَيْسَ فِي الدِّينِ بَدْعَةٌ حَسَنَةٌ	(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: ٣]	(إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (صحيح أبي داود ٤٦٠٧)
٥٠.	هَلْ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ؟	نَعَمْ، كَالْبَادِي بِفِعْلِ خَيْرٍ لِيُقْتَدَى بِهِ	(وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) (أَيُّ قَدْوَةٍ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ) [الفرقان: ٧٤]	(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ) (صحيح مسلم ١٠١٧)
٥١.	هَلْ يُكْتَفَى الْإِنْسَانُ بِإِصْلَاحِ نَفْسِهِ؟	لَا بُدَّ مِنْ إِصْلَاحِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: ٦]	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُ كُلِّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، أَحْفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ؟) (صحيح الجامع ١١٧٤)
٥٢.	مَتَى يُنْتَصَرُ الْمُسْلِمُونَ؟	إِذَا عَمِلُوا بِكِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصَرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) [محمد: ٧]	(لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مُنْصُورِينَ) (صحيح ابن ماجه ٦)
٥٣.	مَنْ هُمْ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ الرُّسُلِ؟	هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	(وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [التوبة: ١٠٠]	(خَبِرَ النَّاسَ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوتُهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوتُهُمْ) (صحيح البخاري ٣٦٥١)
٥٤.	مَنْ هُمْ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ؟	أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ	(إِلَّا تَنْصَرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) [التوبة: ٤٠]	(فَعَلَيْنَاكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَيَّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ) صحيح أبي داود ٤٦٠٧
٥٥.	مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ بِتَحْرِيفِ الْقُرْآنِ؟	الَّذِي يَقُولُ بِتَحْرِيفِ الْقُرْآنِ كَافِرٌ	(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ) [الحجر: ٩]	" تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ " (ابن عبد البر - المصدر: التمهيد ٣٣١/٢٤)

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



كتاب المحادثات العربية
Arabic Conversation Book



Part 2

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



Index



Page no.

Chapter 1 - الأسماء والأفعال من القرآن المجيد

Chapter 2 - المحادثات

Chapter 3 - القصص العربية

Chapter 4 - الأربعون النووية

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

• الأسماء (من القرآن المجيد)

• الأفعال (من القرآن المجيد)



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:255	2699	Allaah	اللہ	Allaah	اللہ	1
2:126	975	Lord	رب	Rabb	رَبُّ	2
2:11	461	Earth	زمین	Arz	أَرْضُ	3
11:5	383	Folk/ people	قوم	Qaum	قَوْمٌ	4
2:118	382	Verse/ sign	نشانی / آیت	Aayah	آيَةٌ	5
2:116	358	All	سب	Kul	كُلُّ	6
2:87	332	Messenger	رسول	Rasool	رَسُولٌ	7
1:3	325	Day	دن	Yaum	يَوْمٌ	8
2:7	322	Punishment	عذاب	Azab	عَذَابٌ	9
2:19	310	Sky	آسمان	Samaa'	سَّمَاءٌ	10
2:48	295	Soul	نفس / جان	Nafs	نَفْسٌ	11
2:20	283	Thing	چیز	Shay	شَيْءٌ	12
2:2	260	Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ	13
2:42	242	Truth	حق	Haq	حَقٌّ	14
114:1	241	Mankind	لوگ	Naas	نَاسٌ	15
2:4	197	Before	پہلے	Qabl	قَبْلُ	16
2:8	195	Believer	مومن	Mu'min	مُؤْمِنٌ	17
2:108	176	Way	راستہ	Sabeel	سَبِيلٌ	18
2:117	166	Matter	حکم / معاملہ	Amr	أَمْرٌ	19
2:85	157	Part	بعض	Ba'z	بَعْضٌ	20
2:54	148	Best	خیر / بھلائی	Khair	خَيْرٌ	21
2:133	147	God	معبود	Ilaah	إِلَهُ	22
2:17	145	Fire	آگ	Naar	نَارٌ	23
1:7	144	Not / Other	غیر	Ghair	غَيْرٌ	24
2:165	135	Other than	سوائے	Doona	دُونُ	25

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:8	133	Last	آخر	Aakhir	آخِرٌ	26
2:27	133	After	بعد میں	Ba'd	بَعْدُ	27
2:97	132	Heart	دل	Qalb	قَلْبٌ	28
2:221	131	Slave	بندہ	Abd	عَبْدٌ	29
2:126	127	People	اہل	Ahl	أَهْلٌ	30
5:64	120	Hand	ہاتھ	Yad	يَدٌ	31
2:254	119	Disbeliever	کافر	Kaafiroon	كَافِرُونَ	32
2:157	114	Mercy	رحمت	Rahmah	رَحْمَةً	33
2:62	105	Reward	اجر / بدلہ	Ajr	أَجْرٌ	34
2:51	105	Wrongdoer	ظالم	Zaalim	ظَالِمٌ	35
2:32	105	Knowledge	علم	Ilm	عِلْمٌ	36
2:7	104	Great	عظیم / زبردست	Azeem	عَظِيمٌ	37
2:115	101	Knowing	جاننے والا	Aleem	عَلِيمٌ	38
2:35	96	Paradise	جنت	Jannah	جَنَّةٌ	39
2:132	92	Religion	دین	Deen	دِينٌ	40
2:59	92	Word	بات	Qaul	قَوْلٌ	41
6:8	88	Angel	فرشتہ	Malak	مَلَكٌ	42
2:17	87	Example	جیسا کی طرح	Masal	مَثَلٌ	43
23:55	86	Wealth	مال	Maal	مَالٌ	44
4:45	86	Ally	ولی	Wali	وَلِيٌّ	45
2:2	85	Guidance	ہدایت	Huda	هُدًى	46
2:209	84	Wise	حکمت والا	Hakeem	حَكِيمٌ	47
2:64	84	Favor	فضل	Fazl	فَضْلٌ	48
2:3	83	Prayer	نماز	Salaah	صَلَاةٌ	49
2:51	82	Night	رات	Lail	لَيْلٌ	50

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:40	80	Children	بچے	Bani	بَنِي	51
2:36	80	Satan	شیطان	Shaitaan	شَيْطَانٌ	52
2:3	78	Companions	اصحاب / ساتھی	Ashaab	أَصْحَابٌ	53
2:100	78	Most	اکثر	Aksar	أَكْثَرُ	54
3:12	77	Hell	جہنم	Jahannam	جَهَنَّمَ	55
2:86	76	Life	حیات	Hayaat	حَيَاةٌ	56
2:200	76	Remember	ذکر	Zikr	ذِكْرٌ	57
39:6	76	Spouse	جوڑا	Zauj	زَوْجٌ	58
12:77	75	Brother	بھائی	Akh	أَخٌ	59
2:137	75	Same / Like	مثل	Misl	مِثْلٌ	60
3:146	75	Prophet	نبی	Nabi	نَبِيٌّ	61
112:1	74	One	ایک	Ahad	أَحَدٌ	62
47:15	74	Eternally	ہمیشہ رہنے والا	Khalid	خَالِدٌ	63
2:85	74	World	دنیا	Dunya	دُنْيَا	64
2:47	73	Worlds	جہانوں	Aalameen	عَالَمِينَ	65
2:10	72	Painful	درد ناک	Aleem	أَلِيمٌ	66
4:91	72	Clear	واضح	Mubeen	مُبِينٌ	67
11:9	71	Man	انسان	Insaan	إِنْسَانٌ	68
5:90	71	Work	عمل	Amal	عَمَلٌ	69
2:112	71	Face	وجہ	Wajh	وَجْهٌ	70
2:85	70	Resurrection	قیامت	Qiyaamah	قِيَامَةٌ	71
2:125	65	House	گھر	Bait	بَيْتٌ	72
16:48	65	Right	دائیں	Yameen	يَمِينٌ	73
2:133	64	Fathers / Forefathers	باپ دادا	Aabaa	آبَاءٌ	74
2:128	64	Nation	امت	Ummah	أُمَّةٌ	75

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:87	63	Son	بیٹا	Ibn	ابن	76
2:220	63	Exalted in Might	عزت والا	Azeez	عَزِيزٌ	77
4:43	63	Water	پانی	Maa'	مَاءٌ	78
2:25	62	Righteous deeds	نیک	Saalihaat	صَالِحَاتٌ	79
2:173	62	Forgiving	بخشنے والا	Ghafoor	غَفُورٌ	80
2:41	61	First	پہلا	Awwal	أَوَّلٌ	81
2:23	59	Truthful	سچا	Saadiq	صَادِقٌ	82
4:1	59	Women	عورتیں	Nisaa'	نِسَاءٌ	83
2:119	58	Warner	ڈرانے والا	Nazeer	نَذِيرٌ	84
15:88	57	Eye	آنکھ	Aen	عَيْنٌ	85
2:58	57	Town	گاؤں	Qaryah	قَرْيَةٌ	86
2:164	56	Day	دن	Nahaar	نَهَارٌ	87
3:47	56	Child	لڑکا	Walad	وَلَدٌ	88
6:157	55	Clear evidence	واضح نشانی	Bayyinah	بَيِّنَةٌ	89
2:60	55	Provision	رزق	Rizq	رِزْقٌ	90
54:54	54	River	نہر	Nahar	نَهْرٌ	91
3:103	53	All	سب	Jamee'	جَمِيعٌ	92
6:2	52	Stipulated time	معیّن وقت	Ajal	أَجَلٌ	93
23:17	52	Creation	مخلوق	Khalq	خَلْقٌ	94
4:110	50	Bad	برا	Soo'	سُوْءٌ	95
2:19	50	Death	موت	Maut	مَوْتٌ	96
2:40	50	Favor	نعمت	Ni'mah	نِعْمَةٌ	97
2:97	49	Enemy	دشمن	Aduw	عَدُوٌّ	98
2:3	49	Unseen	غیب	Ghaib	غَيْبٌ	99
2:2	49	Cautious	پرہیزگار	Muttaqeen	مُتَّقِينَ	100

افعال (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:8	1618	Said	کہا	Qaala	قَالَ	1
2:10	1358	Was	تھا	Kaana	كَانَ	2
2:196	537	Believed (with acceptance)	ایمان لایا	Aamana	ءَامَنَ	3
2:13	382	Knew	جانا	Alima	عَلِمَ	4
2:19	340	Made	بنایا	Ja'ala	جَعَلَ	5
2:6	289	Disbelieved/ Rejected	کفر کیا، انکار کیا	Kafara	كَفَرَ	6
2:71	278	Came	آیا	Jaa'a	جَاءَ	7
2:25	276	Worked / Acted	عمل کیا	Amila	عَمِلَ	8
9:19	271	Gave	دیا	Aataa	آتَى	9
2:55	271	Saw	دیکھا	Ra'aa	رَأَى	10
2:23	264	Came	آیا	Ataa	أَتَى	11
2:20	236	Wished	چاہا	Shaa'a	شَاءَ	12
2:21	184	Created	پیدا کیا	Khalaqa	خَلَقَ	13
17:105	183	Revealed	اتارا	Anzala	أَنْزَلَ	14
2:10	176	Denied	جھٹلایا	Kazzaba	كَذَّبَ	15
2:23	170	Invited / Prayed	بلایا / دعا کیا	Da'aa	دَعَا	16
2:201	166	Became Righteous	تقویٰ اختیار کیا	Ittaqaa	إِتَّقَى	17
2:143	144	Guided	ہدایت دیا	Hada	هَدَى	18
2:26	139	Intended / Desired	ارادہ کیا	Araada	أَرَادَ	19
2:38	136	Followed	اتباع کیا	Ittaba'a	إِتَّبَعَ	20
9:33	130	Sent	بھیجا	Arsala	أَرْسَلَ	21
3:81	127	Seized / Hold	پکڑا	Akhaza	أَخَذَ	22
2:51	124	Made	بنایا	Ittakhaza	إِتَّخَذَ	23
1:5	122	Worshipped	عبادت کیا	Abada	عَبَدَ	24
2:54	110	Oppressed	ظلم کیا	Zalama	ظَلَّمَ	25

افعال (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:61	106	Asked	پوچھا	Sa'ala	سَأَلَ	26
2:96	106	Found	پایا	Wajada	وَجَدَ	27
2:74	99	Brought forth/ Drive out	نکالا	Akhraja	أَخْرَجَ	28
2:35	93	Ate / Consumed	کھایا	Akala	أَكَلَ	29
2:113	89	No	نہیں	Laisa	لَيْسَ	30
2:24	88	Did	کیا	Fa'ala	فَعَلَ	31
2:50	87	Seen / Looked	دیکھا	Nazara	نَظَرَ	32
2:40	84	Remembered	یاد کیا	Zakara	ذَكَرَ	33
2:18	83	Became Afraid	ڈرا	Khaafa	خَافَ	34
2:54	83	Killed	قتل کیا	Qatala	قَتَلَ	35
2:18	79	Returned	لوٹا	Raja'a	رَجَعَ	36
2:75	78	Heard / Listened	سنا	Sami'a	سَمِعَ	37
9:123	78	Turned away	مٹھ پھیرا	Tawallaa	تَوَلَّى	38
2:27	77	Ordered / Commanded	حکم دیا	Amara	أَمَرَ	39
2:58	76	Entered	داخل ہوا	Dakhala	دَخَلَ	40
2:48	73	Compensated	بدلہ دیا	Jazaa	جَزَى	41
4:64	72	Obeded	اطاعت کی	Ataa'a	أَطَاعَ	42
4:163	72	Revealed	وحی کی	Auhaa	أَوْحَى	43
2:96	71	Associated a Partner	شُرک کیا	Ashraka	أَشْرَكَ	44
2:20	71	Casted / Thrown / Inserted	ڈالا	Alqaa	أَلْقَى	45
2:268	70	Promised	وعدہ کیا	Wa'ada	وَعَدَ	46
3:16	68	Spent	خرچ کیا	Anfaqa	أَنْفَقَ	47
2:58	65	Forgave	بخش دیا	Ghafara	غَفَرَ	48
2:165	64	Loved / Liked	چاہا	Ahabba	أَحَبَّ	49
2:156	64	Stroked / Bestowed	لاحق ہوا	Asaaba	أَصَابَ	50

افعال (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:108	64	Misleded / Sent astrayed	گمراہ کیا	Azalla	أَضَلَّ	51
2:37	63	Repented / Turned	توبہ کیا	Taaba	تَابَ	52
2:79	62	Earned	کمایا	Kasaba	كَسَبَ	53
17:105	62	Revealed slowly/ Revealed in stages	تھوڑا تھوڑا اتارا	Nazzala	نَزَّلَ	54
2:44	61	Recited	تلاوت کیا	Talaa	تلا	55
2:3	61	Bestowed	رزق دیا	Razaqa	رَزَقَ	56
2:117	59	Judged / Decided	فیصلہ کیا	Qazaa	قَضَى	57
2:48	59	Helped	مدد کیا	Nasara	نَصَرَ	58
2:61	58	Patience Showed	صبر کیا	Sabara	صَبَرَ	59
2:61	57	Flowed	جاری ہوا	Jaraa	جَرَى	60
2:80	56	Touched	چھوا	Massa	مَسَّ	61
2:26	55	Beat/ Struck	مارا	Zaraba	ضَرَبَ	62
2:54	54	Killed	قتل کیا	Qaatala	قَاتَلَ	63
2:20	54	Established	ٹھہرایا	Aqaama	أَقَامَ	64
2:74	53	Departed / Left	نکلا	Kharaja	خَرَجَ	65
2:108	53	Astrayed / Lost	گمراہ ہوا	Zalla	ضَلَّ	66
2:56	52	Sent	بھیجا	Ba'asa	بَعَثَ	67
7:25	51	Gave life	زندہ کیا	Ahyaa	أَحْيَا	68
2:40	51	Remembered	یاد کیا	Tazakkara	تَذَكَّرَ	69
4:176	51	Destroyed	ہلاک کیا	Ahlaka	أَهْلَكَ	70
60:176	50	Invented a lie	بہتان باندھا	Iftaraa	إِفْتَرَى	71
2:10	49	Increased	زیادہ ہوا	Zaada	زَادَ	72
2:44	49	Understood	سمجھا	Aqala	عَقَلَ	73
2:79	49	Wrote	لکھا	Kataba	كَتَبَ	74
2:46	47	Thought / Assumed	گمان کیا	Zanna	ظَنَّ	75

افعال (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:52	46	Thanked	شکر کیا	Shakara	شَكَرَ	76
3:15	46	Informed	خبر دی	Nabba'a	نَبَّأَ	77
2:113	45	Judged	فیصلہ کیا	Hakama	حَكَمَ	78
2:71	40	Left / Forsaken	چھوڑا	Taraka	تَرَكَ	79
2:214	44	Thought	گمان کیا	Hasiba	حَسِبَ	80
2:84	44	Witnessed/Testified	گواہی دی	Shahida	شَهِدَ	81
4:3	44	Possessed/Owned	مالک ہوا	Malaka	مَلَكَ	82
68:21	44	Called	پکارا	Naada	نَادَى	83
2:270	44	Warned	ڈرایا	Anzara	أَنْذَرَ	84
2:58	42	Admitted	داخل کیا	Adkhala	أَدْخَلَ	85
21:33	42	Glorified	تسبیح کی	Sabbaha	سَبَّحَ	86
4:64	42	Became able	استطاعت رکھا	Ista'taa'a	إِسْتَطَاعَ	87
2:248	41	Carried	اٹھایا	Hamala	حَمَلَ	88
2:284	41	Punished	عذاب دیا	Azzaba	عَذَّبَ	89
2:13	41	Taught	سکھایا	Allama	عَلَّمَ	90
2:126	40	To be wretched	ذلیل ہوا	Bi'sa	بِئْسَ	91
2:196	40	Reached	پہنچا	Balagha	بَلَغَ	92
2:17	40	Left	چھوڑا	Taraka	تَرَكَ	93
2:150	40	Feared	ڈرا	Khashiya	خَشِيَ	94
2:55	40	Showed	دکھایا	Araa	أَرَى	95
2:58	40	Asked Forgiveness	بخشش طلب کیا	Istaghfara	إِسْتَغْفَرَ	96
4:6	40	Became Arrogant	غرور و تکبر کیا	Istakbara	إِسْتَكْبَرَ	97
2:26	40	Received guidance	ہدایت پا گیا	Ihtadaa	إِهْتَدَى	98
3:122	40	Trusted	بھروسہ کیا	Tawakkala	تَوَكَّلَ	99
2:173	39	Forbade	حرام کیا	Harrama	حَرَّمَ	100

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Index المحتويات

Arshad Basheer Madani Notes

Introducing Each Other	تعارف	التعارف	01
Talk about Salah between two visitors	دو ملاقاتیوں میں نماز کے متعلق گفتگو	المحادثة عن الصلاة بين الزائرين	02
Family	خاندان	الأسرة	03
Visiting ill	مزاج پر کسی	عيادة المريض	04
Going to the Doctor	ڈاکٹر کی طرف روانگی	الذهاب الي الطبيب	05
Going to the School	مدرستہ کی طرف روانگی	الذهاب الي المدرسة	06
Taxi	ٹیکسی	التاكسي	07
Job Interview	انٹرویو برائے ملازمت	المقابلة للوظيفة	08
A Business Meeting	کاروباری ملاقات	لقاء تجاري	09
Passport	پاسپورٹ	جواز السفر	10
Currency Exchange	کرنسی کا تبادلہ	تغيير العملة	11
Marriage	نکاح	النكاح	12
Hajj & Umrah	حج اور عمرہ	الحج والعمرة	13



التعارف

Introducing Each Other

تعارف

السلام عليكم

اردو

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

عربی

May peace be on you

English

Assalaamu Alaikum

Roman

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ

عربی

اردو

وعلیکم السلام

Roman Wa Alaikumus salaam

English

And may peace be on you too

آپ کا نام کیا ہے؟

اردو

مَا اسْمُكَ؟

عربی

What is your name?

English

Masmuk?

Roman

اِسْمِي رَاشِدٌ

عربی

اردو

میرا نام راشد ہے

Roman Ismee Rashid

English

My name is Rashid.

آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟

اردو

مَا اسْمُ وَالِدِكَ؟

عربی

What is your father's name?

English

Masmu waalidik?

Roman

اِسْمُ وَالِدِي حَنِيفٌ

عربی

اردو

میرے والد صاحب کا نام حنیف ہے۔

Roman Ismu walidi Haneef

English

My father's name is Haneef

آپ کہاں رہتے ہیں؟

اردو

أَيْنَ تَسْكُنُ؟

عربی


Where do you live?

English


Aina taskun?

Roman


التعارف


عربی **أَسْكُنُ فِي دِلْهِی** اردو میں دہلی میں رہتا ہوں
Roman Askunu fi Delhi English I live in Delhi


عربی مَا هُوَ عُنْوَانُكَ؟ اردو آپ کا پتہ کیا ہے؟
Roman Maa huwa unwaanuk English What is your address?


عربی عُنْوَانِي اردو میرا پتہ ہے
Roman Unwaani... English My address is


عربی كَمْ عُمْرُكَ؟ اردو آپ کی عمر کیا ہے؟
Roman Kam umruk? English What is your age?


عربی عُمْرِي عِشْرُونَ سَنَةً اردو میری عمر بیس سال ہے
Roman Umri ishroona sanah English My age is twenty years.

عربی مَا هِيَ جِنْسِيَّتُكَ؟ اردو آپ کی قومیت کا ہے؟
Roman Maa hiya jinsiyyatuk? English What is your nationality?


عربی أَنَا هِنْدِيٌّ اردو میں ہندوستانی ہوں
Roman Ana hindi English I am an Indian.

عربی مَا دِينُكَ؟ اردو آپ کا مذہب کیا ہے؟
Roman Maa deenuk? English What is your religion?


عربی أَنَا مُسْلِمٌ اردو میں مسلمان ہوں
Roman Ana muslim English I am a Muslim

عربی مَا هِيَ مِهْنَتُكَ؟ اردو آپ کا پیشہ کیا ہے؟
Roman Maa hiya mihnatak? English What is your occupation?

التعارف



عربی

أَنَا تِلْمِيزٌ

میں طالب علم ہوں

Roman

Ana tilmeez

English

I am a student.

آپ یہاں کب سے ہیں؟

اردو

مُنْذُ مَتِي وَأَنْتَ هُنَا؟

عربی

For how long have you been here?

English

Munzu mata wa anta hunaa?

Roman



عربی

أَنَا هُنَا مُنْذُ أُسْبُوعٍ

اردو

میں یہاں ایک ہفتہ سے ہوں

Roman

Ana hunaa munzu usboo

English

I have been here for a week

کیا آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟

اردو

هَلْ هَذِهِ أَوَّلُ زِيَارَةٍ لَكَ؟

عربی

Is this your first visit?

English

Hal haazihi awwalu ziyaaratin lak?

Roman



عربی

لَا، بَلْ قَدْ أَتَيْتُ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ

اردو

نہیں، میں گزشتہ سال بھی آیا تھا

Roman

Laa, bal qad ataetu fis sanatil maaziyah

English

No, I came last year also.

کیا آپ یہاں مزے میں ہیں؟

اردو

هَلْ أَنْتَ مَبْسُوطٌ هُنَا؟

عربی

Are you happy here (enjoying yourself)

English

Hal anta mabsoot hunaa?

Roman



عربی

نَعَمْ هَذِهِ الْمَدِينَةُ تُعْجِبُنِي جِدًّا.

اردو

ہاں! یہ شہر مجھے بہت پسند ہے

Roman

Na'am haazihil madeenatu tu'jibuni jiddan

English

Yes, I like this city very much.

آپ کہاں سے آئے ہیں؟

اردو

مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ؟

عربی

From where have you come?

English

Min aina atait?

Roman



عربی

أَتَيْتُ مِنْ حَيْدَرَابَادٍ

اردو

میں حیدرآباد سے آیا ہوں

Roman

Ataitu min Hyderabad

English

I have come from Hyderabad

آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟

اردو

لِمَاذَا أَتَيْتَ هُنَا؟

عربی

Why have you come here?

English

Limaaza ataita hunaa?

Roman

التعارف



عربی

أَتَيْتُ هُنَا لِهَشْغَلِي.

Roman

Ataitu hunaa li shughl

اردو

میں یہاں کام سے آیا ہوں

English

I have come here for some work

کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟

اردو

Do you know me?

English

هَلْ تَعْرِفُنِي؟

عربی

Hal ta'rifuni?

Roman



عربی

نَعَمْ، أَنَا أَعْرِفُكَ

Roman

Na'am, ana a'rifuk

اردو

ہاں! میں آپ کو جانتا ہوں۔

English

Yes, I know you

کیا آپ شادی شدہ ہیں؟

اردو

Are you married?

English

هَلْ أَنْتَ مُتَزَوِّجٌ؟

عربی

Hal anta mutazawwij?

Roman



عربی

نَعَمْ أَنَا مُتَزَوِّجٌ

Roman

Na'am ana mutazawwij

اردو

جی ہاں میں شادی شدہ ہوں

English

Yes, I am married

کیا آپ کے بچے ہیں؟

اردو

Do you have children?

English

هَلْ عِنْدَكَ أَوْلَادٌ؟

عربی

Hal indaka aulad?

Roman



عربی

نَعَمْ، عِنْدِي ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ، ابْنَانِ وَبِنْتٌ

Roman

Na'am indi salaasatu aulad ibnaan wa bint

اردو

ہاں میرے تین بچے ہیں، دو بیٹے اور ایک بیٹی۔

English

Yes, I have three children, two sons and one daughter

أَسْتَأْذِنُكَ الْآنَ

عربی

Roman

Asta'zinukal aan

اردو

اب میں اجازت چاہتا ہوں

English

I take leave of you now

ان شاء اللہ جلد ہی ملاقات ہوگی

اردو

I hope to see you shortly if Allah wills.

English

أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

عربی

Arjoo an araaka qareeban In-Shaa-Allaah

Roman

المحادثة عن الصلاة بين الزائرين

Talk about Salah between two visitors

دو ملاقاتیوں میں نماز کے متعلق گفتگو

المحادثة عن الصلاة بين الزائرين

02



المحادثة عن الصلاة بين الزائرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اردو

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

عربی

May the peace, mercy and blessings of Allah be on you

English

Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Roman

عربی

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Roman

Wa alaikumussalaam wa rahmatullahi wa barakatuh

اردو

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

English

And May the peace, mercy and blessings of Allah be on you

آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں۔

اردو

أَيْنَ تُصَلِّي

عربی

Where do you offer your salah?

English

Ayna tusalli

Roman

عربی

أُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي مَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

Roman

Usalliz-zuhra wal-asra fi Masjidin Nabawi

اردو

میں ظہر اور عصر مسجد نبوی میں ادا کرتا ہوں۔

English

I offer my (prayers) zuhr and asr salah in the Masjid e Nabawi.

عربی

وَأُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

Roman

Wa usallil-maghriba wal ishaa' fi Masjidi Qubaa'

اردو

میں مغرب اور عشاء مسجد قباء میں ادا کرتا ہوں۔

English

I offer my Maghrib and Isha prayers in Masjide Quba

اور آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟

اردو

وَ أَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ؟

عربی

And where do you offer your fajr prayers?

English

wa ayna tusallil-fajr?

Roman

المحادثة عن الصلاة بين الزائرين

عربی میں فجر کی نماز گھر ہی پر ادا کرتا ہوں۔
 أصَلِّي الفَجْرَ فِي البَيْتِ
 Roman Usallil fajra fil bait English I offer my fajr prayers at home?

عربی لِمَاذَا تُصَلِّي الفَجْرَ فِي البَيْتِ؟
 اردو آپ فجر کی نماز گھر پر کیوں پڑھتے ہیں؟
 Why do you offer your fajr prayer at home? English Limaaza tusallil-fajra fil bait? Roman

عربی کیوں کہ مجھے اذان سنائی نہیں دیتی۔
 لِأَنِّي لَا أَسْمَعُ الأَذَانَ.
 Roman Li anni la asma'ul azaan English Because I cannot hear the azaan

عربی هَلْ تَسْتَيْقِظُ مُتَأَخِّرًا؟
 اردو کیا آپ دیر سے اٹھتے ہیں؟
 Do you wake up late? English Hal tastaqizu muta'akhhiran Roman

عربی ہاں میں دیر سے اٹھتا ہوں۔
 نَعَمْ، أَسْتَيْقِظُ مُتَأَخِّرًا
 Roman Na'am , astaiqizu muta'akhhiran English Yes, I wake up late.

عربی أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا؟
 اردو کیا آپ نہیں جانتے کہ نماز مومنون پر مقررہ وقت پر فرض ہے؟
 Don't you know that salah has been made obligatory for momins at fixed times? English Ama ta'rifu annassalaata kaanat alal mu'mineena kitaabam mauqoota? Roman

عربی لَا بُدَّ لَكَ أَنْ تَسْتَيْقِظَ مُبَكَّرًا وَتُصَلِّيَ الفَجْرَ بِالجَمَاعَةِ
 اردو آپ کو لازماً جلدی اٹھنا چاہیے اور نماز فجر باجماعت ادا کرنی چاہیے۔
 You must wake up early and offer the Fajr prayer in congregation. English Laa budda laka an tastaqiza mubakkiran wa tusallil-fajra bil-jamaa'ah Roman

عربی میں ایسا نہیں کر سکتا۔
 لَا أَسْتَطِيعُ
 Roman La astatee'au English I can't do that

عربی لِمَاذَا لَا تَسْتَطِيعُ؟
 اردو آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟
 Why can't you do that? English Limaaza la tастatee'au Roman

المحادثة عن الصلاة بين الزائرين



عربی

لَأَنِّي أَعْمَلُ فِي اللَّيْلِ

اردو

اس لیے کہ میں رات کو کام کرتا ہوں۔

Roman

Li anni a'malu fillail

English

Because I work in the night

نماز باجماعت ادا کرنا رات کو کام کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔

اردو

الصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَلِ بِاللَّيْلِ

عربی

It is more important to offer the prayer in congregation than to work late at night

English

Assalaatu bil-jamaa'ah aula minal amali billail

Roman



عربی

مَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ

اردو

مجھے اذان سنائی نہیں دیتی۔

Roman

Maa asma'ul azaan

English

I cannot hear the azaan

اپنے پاس الارم رکھا کرو۔

اردو

ضِعِ الْمُنْبَةَ بِجَانِبِكَ

عربی

keep an alarm near you

English

Za'il munabbiha bi-jaanibik

Roman



عربی

هَذِهِ فِكْرَةٌ طَيِّبَةٌ

اردو

یہ بڑی اچھی رائے ہے۔

Roman

Haazihi fikratun tayyibah

English

This is a good idea



عربی

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

اردو

اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔

Roman

Jazaakallahu khairan

English

May Allah reward you for this help

آپ کو بھی، سلامتی کے ساتھ۔

اردو

وَأَيَّاكُمْ، مَعَ السَّلَامَةِ

عربی

Same to you, with safety

English

Wa iyyakum Ma'assalaamah

Roman



اللہ حافظ

اردو

أَسْتَوَدِعُكَ اللَّهَ

عربی

I leave you in the care of Allah

English

Astaudi'ukallah

Roman



Family

الأسرة

خاندان

Usrah

Family

خاندان

الأسرة

03

السلام عليكم

اردو

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

عربی

ہندی

May peace be on you.

English

Assalaamu alaikum

Roman



عربی

عربی

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ

اردو

وعلیکم السلام

Roman

wa alaikumus salaam

English

and may peace be on you too.



یہ میرا خاندان ہے

اردو

هذه أُسْرَتِي

عربی

ہندی

This is my family

English

Haazihi usrati

Roman



عربی

عربی

مَا شَاءَ اللَّهُ

اردو

ما شاء اللہ

Roman

Maa-shaa-Allah

English

whatever Allah wishes



عربی

عربی

مَنْ هَذَا؟

اردو

یہ کون ہیں؟

Roman

man haaza?

English

who is this?



یہ میرے والد عدنان ہیں، یہ انجینئر ہیں۔

اردو

هَذَا وَالِدِي عَدْنَانُ وَهُوَ مَهْنَدِسٌ

عربی

ہندی

This is my father Adnan. He is an engineer

English

haaza waalidi Adnan wahuwa muhandis

Roman



عربی

عربی

وَمَنْ هَذِهِ؟

اردو

اور یہ کون ہیں؟

Roman

waman haazihi?

English

and who is this?



الأسرة

یہ میری والدہ سعیدہ ہیں، یہ ایک ڈاکٹر ہیں۔

هذه والِدَتِي سَعِيدَةٌ، هِيَ طَبِيبَةٌ

This is my mother Saeedah. She is a doctor

haazihi waalidati Saeedah, hiya tabeebah.

وَمَنْ هَذَا؟

اور یہ کون ہیں؟

wa man haaza?

and who is this?

یہ میرا بھائی عیسیٰ ہے، یہ طالب علم ہے۔

هَذَا أَخِي عَيْسَى، هُوَ طَالِبٌ

This is my brother Eesa. He is a student

haaza akhi Eesa huwa taalib

وَمَنْ هَذِهِ

اور یہ کون ہیں؟

wa man haazihi?

and who is this?

یہ میری بہن فاطمہ ہے، یہ ٹیچر ہیں۔ اور یہ میرے دادا اور یہ میری دادی ہیں۔

هذه أُخْتِي فَاطِمَةُ، هِيَ مُعَلِّمَةٌ. هَذَا جَدِّي، وَهَذِهِ جَدَّتِي

This is my sister Fatima, She is a teacher, And this is my grandfather and this is my grand mother.

haazihi ukhti Ablah.hiya mu'allimah-haaza jaddi-wa haazihi jaddati.

لِمَاذَا نِسَاءُكَ فِي الْحِجَابِ؟

آپ کی خواتین باحجاب کیوں ہیں؟

Limaaza nisaa'uka fil hijab?

Why your women in hijab?

ہماری خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں کیونکہ اللہ نے ساری خواتین کو حجاب کا حکم دیا ہے۔

نِسَاءُنَا تَهْتَمُّ بِالْحِجَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ جَمِيعَ النِّسَاءِ بِالْحِجَابِ.

Our women wear hijab, because Allah ordered all women to wear hijaab

Nisaa'una tahtammu bilhijaab, li'annallaha amara jamee'an nisaa' bilhijaab.

بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ

اللہ آپ کے خاندان میں برکت دے۔

baarakallahu fi ahlik.

May Allah bless your family



عیادة المريض

Iyadatul Mareez

مزاج پرسی

Visiting ill

بعد السلام والتحية

آپ کیسے ہیں؟

اردو

کیف حالک؟

عربی

How are you?

English

Kaifa haluka?

Roman

الْحَمْدُ لِلَّهِ طَيِّبٌ، وَكَيْفَ أَنْتَ؟

عربی

اردو

الحمد لله بہتر ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟

Alhamdulillah Tayyib, wa kaifa anta?

Roman

English

All praises for Allah Pretty well, and how are you?

ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے

اردو

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

عربی

All praises due to Allah in every situation

English

Alhamdulillah alaa kulli haal

Roman

يَبْدُو أَنَّكَ مَرِيضٌ

عربی

اردو

آپ بیمار لگ رہے ہیں

Yabdoo annaka mareez

Roman

English

You are looking sick

أَلَمْ تَنَمْ جَيِّدًا؟

عربی

اردو

کیا آپ اچھی طرح نہیں سوئے۔

Alam tanam jayyidan?

Roman

English

Didn't you sleep well?

عیادة المريض

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

عربی

أَلَا تَشْعُرُ بِأَلَمٍ؟

اردو

کیا آپ درد محسوس نہیں کرتے ہیں؟

Roman

Ala tash'uru bi-alam?

English

Do you feel any pain?

نہیں میں بس ہلکا سا سرد درد محسوس کرتا ہوں۔

اردو

لَا، إِنَّنِي أَشْعُرُ بِضِدَاعٍ خَفِيفٍ فَقَطْ

عربی

No, I just have a slight headache.

English

la innani ash'uru bisudaa'in khafeefin faqat

Roman

عربی

رُبَّمَا تَكُونُ قَدْ أَكَلْتَ شَيْئًا لَا يُلَاقِيكَ أَوْ رُبَّمَا
قَدْ أَصَابَكَ بَرْدٌ

اردو

کبھی کبھی آپ کچھ ایسا کھالتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا
یا آپ کو کبھی کبھی سردی لگ جاتی ہے۔

Roman

Rubbama takoonu qad akalta shaian la
yulaa'imuka au rubbama qad asaabaka bardun

English

You may have eaten something that is
disagreeable with you or you may have caught
cold

ممكن ہے

اردو

مُمْكِنٌ

عربی

Maybe

English

Mumkin

Roman

عربی

هَلْ حَرَارَتُكَ مُرْتَفِعَةٌ أَوْ سُعَالُكَ شَدِيدٌ؟

اردو

کیا آپ کے بدن کی درجہ حرارت بلند ہے یا آپ کو کھانسی زیادہ ہے؟

Roman

Hal haraaratuka murtafi'atun au su'aaluka shadeed?

English

Is your temperature high or your cough severe?

میں ایسا نہیں سمجھتا، میں ٹھیک ہوں

اردو

لَا أَعْتَقِدُ ذَلِكَ، عَلَيَّ خَيْرٌ مَا يُرَآمُ

عربی

I don't think so, I'm quite alright.

English

La a'taquidu zalika ala khairin maa yuraam

Roman

عربی

أَلَا تَوَدُّ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الطَّبِيبِ؟

اردو

کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے۔

Roman

Ala tawaddu an tazhaba ilat-tabeeb?

English

Wouldn't you like to see a doctor?

میں اسے اتنا ضروری نہیں سمجھتا

اردو

إِنَّنِي لَا أَظُنُّ أَنَّ الْأَمْرَ سَيَبِيءُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ

عربی

I don't think it's serious.

English

Innani laa azunnu annal amra sayyi-un ila
hazihid-darajah.

Roman

الذهاب الى الطبيب

Az-zihab ilat tabeeb

ڈاکٹر کی طرف روانگی

Going to the Doctor



Going to the Doctor

ڈاکٹر کی طرف روانگی

الذهاب الى الطبيب

05

میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔

اردو

إِنِّي لَسْتُ عَلَى مَا يُرَاءُ، أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الطَّبِيبِ

عربی

I am not feeling well. I would like to see the doctor.

English

Innani lastu ala maa yuraam, ureedu an azhaba ilat-tabeeb

Roman

عربی

يُمْكِنُكَ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الدُّكْتُورِ... وَإِلَيْكَ عُثْوَانُهُ...

اردو

آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔۔۔ اور یہ رہا ان کا پتہ

Roman

Yumkinuka an tazhaba ilad-duktoor...wa ilaika unwaanuh.....

English

You may to see the doctor...and here is his address...

عربی

تَفَضَّلْ بِالذُّخُولِ، سَيَرَاكَ الطَّبِيبُ الْآنَ

اردو

برائے مہربانی آپ اندر آجائیں، ڈاکٹر آپ کو ابھی دیکھیں گے۔

Roman

Tafazzal biddukhooli, sayaraakat tabeebu al'aan

English

Please come in. the doctor will see you now.

السلام عليكم ڈاکٹر صاحب۔

اردو

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا طَبِيبَ

عربی

May peace be on you., Doctor!

English

Assalaamu alaikum ya tabeeb

Roman

الذهاب الى الطبيب



عربی

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ يَا سَيِّدِي! اجْلِسْ مِنْ فَضْلِكَ

اردو

برائے مہربانی تشریف رکھیے۔

Roman

wa alaikumus salaam ya sayyidi! Ijlis min fazlik

English

And may peace be on you too. Sir! have a seat please!



عربی

مَاذَا بَكَ يَا سَيِّدِي؟

اردو

آپ کو کیا ہوا ہے جناب؟

Roman

Maaza bika ya sayyidi?

English

What is the matter with you Sir?

میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سخت بخار ہے۔

اردو

أَظُنُّ أَنَّ عِنْدِي حُمَّى شَدِيدَةً

عربی

I think i have a bad fever.

English

Azunnu anna indi humman shadeedah

Roman



عربی

هَلْ حَلْقُكَ مُلْتَهَبٌ أَيْضًا؟

اردو

کیا آپ کے گلے میں بھی سوزش ہے۔

Roman

Hal halquka multahibun aizan?

English

do you have a sore throat?

جی ہاں، میری آواز میں بہت تکلیف ہے۔

اردو

نَعَمْ، صَوْتِي مَبْخُوحٌ جِدًّا

عربی

Yes, my voice is so throaty.

English

Na'am, sauti mabhoohun jiddan

Roman

اور مجھے کھانسی بھی بہت زیادہ ہے۔

اردو

وَعِنْدِي أَيْضًا سَعَالٌ شَدِيدٌ

عربی

and I also have a bad cough.

English

Wa indi aizan su'aalun shadeed

Roman



عربی

كَيْفَ حَالُ شَهِيَّتِكَ؟

اردو

آپ کی بھوک کیسی ہے؟

Roman

Kaifa haalu shahiyyatik?

English

and how is your appetite?

ٹھیک نہیں ہے۔

اردو

لَيْسَتْ عَلَيَّ مَا يُرَامُ

عربی

Not very good.

English

Laisat ala maa yuraam

Roman



عربی

اِحْلَعْ قَمِيصَكَ مِنْ فَضْلِكَ

اردو

برائے مہربانی اپنا کرتا اتاریے۔

Roman

Ikhla' qameesak min fazlik

English

Please take off your shirt!



عربی

دَعْنِي أَفْحَصُكَ جَيِّدًا

اردو

مجھے آپ کی اچھی طرح تشخیص کرنی ہے۔

Roman

Da'ni afhasuka jayyidan

English

Let me examine you thoroughly!

الذهاب الى الطبيب

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



عربی

أرني لسانك، هل تشعُر بِمَرَارَةٍ فِي فَمِكَ؟

اردو

مجھے اپنی زبان دکھائیے، کیا آپ اپنے منہ میں کچھ کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں؟

Roman

Arini lisaanak, hal tash'uru bi maraaratin fi famik?

English

Show me your tongue, do you feel any bitterness in your mouth?

جی ہاں، میرا منہ ہمیشہ کڑوا رہتا ہے۔

اردو

نَعَمْ، دَائِمًا فَمِي مُرٌّ

عربی

Yes, my mouth is bitter always.

English

Na'am, daaeman fami murrun

Roman



عربی

خُذْ رَاحَتَكَ أَنْ الْأَمْرَ لَيْسَ خَطِيرًا

اردو

مطمئن رہیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔

Roman

Khuz rahatak annal amra laisa khateeran

English

Rest assured, it's not dangerous!



عربی

أَنْصَحُكَ بِأَنْ تَسْتَرِيحَ وَتَأْخُذَ الْفَيْتَامِينَاتِ وَتَأْكُلَ الْفَوَاكِهَ وَالْخَضِرَاتِ الطَّازِجَةَ

اردو

میں آپ کو آرام کرنے، وٹا مینس لینے، میوے اور تازہ سبزیاں کھانے کی ہدایت کرتا ہوں۔

Roman

Ansahuka bi-an tastareeha wa ta'khuza al-faitaaminaat wa ta'kul al-fawaakiha wal khazrawaatit-taazijah.

English

I advise you to rest, to take vitamins and eat fresh fruits and vegetables.



عربی

خُذْ هَذِهِ الوَصْفَةَ وَاشْتَرِ الدَّوَاءَ فِي الصَّيْدَلِيَّةِ

اردو

یہ نسخہ لیجیے اور فارمیسی سے دوا خرید لیجیے۔

Roman

Khuz haazihil wasfah washtarid-dawaa' fis-saidaliyyah

English

Take this prescription and buy the medicine in the pharmacy!

شکریہ ڈاکٹر صاحب

اردو

شُكْرًا يَا طَبِيبَ

عربی

Thank you, Doctor!

English

Shukran ya tabeeb

Roman



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

الذَّهَابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

مدرسه کی طرف روانگی

Going to the School



Going to the School

مدرسه کی طرف روانگی

الذَّهَابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

06

آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اردو

إِلَى أَيِّنَ تَذْهَبُ؟ عربی

Where are you going? English

Ila aina tazhab? Roman

أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ عربی

مدرسه جا رہا ہوں۔ اردو

Azhabu ilal madrasah Roman

I'm going to school. English

آپ مدرسہ میں کیا کرتے ہیں؟ اردو

مَاذَا تَعْمَلُ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ عربی

What do you do in school? English

Maaza ta' malu fil madrasah Roman

أَتَعَلَّمُ عربی

تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اردو

Ata'allamu Roman

I learn. English

آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ اردو

فِي أَيِّ مَدْرَسَةٍ تَتَعَلَّمُ؟ عربی

What school do you go to?
(what school do you study at)? English

Fi ayyati madrasatin tata'allamu? Roman

أَتَعَلَّمُ فِي مَدْرَسَةٍ عَرَبِيَّةٍ عربی

میں عربی مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔ اردو

Ata'allamu fi madrasatin arabiyyah Roman

I study in an Arabic school. English

آپ اس مدرسہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اردو

مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ؟ عربی

What do you study in that school? English

Maaza tata'allamu fi tilkal madrasah Roman

الذهاب الى المدرسة



عربی

أَتَعَلَّمُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ وَالْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ

اردو

میں عربی زبان اور دینی علوم پڑھتا ہوں

Roman

Ata'allamu allughatal arabiyah wal-uloom ad-diniyyah

English

I study Arabic language and religious knowledge.

آپ کے استاد کون ہیں؟

اردو

مَنْ أَسْتَاذُكَ؟

عربی

Who is your teacher?

English

Man ustazuk?

Roman



عربی

أَسْتَاذِي وَوَالِدٌ

اردو

میرے استاد ولید ہیں۔

Roman

Ustazi waleed

English

My teacher Is Waleed

مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر کون ہیں؟

اردو

مَنْ مُدِيرُ المَدْرَسَةِ؟

عربی

Who is the headmaster of your school?

English

Man mudeerul madrasah?

Roman



عربی

مُدِيرُ مَدْرَسَتِي ارشادٌ

اردو

میرے مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر ارشد ہیں۔

Roman

Mudeeru madrasati Arshadu

English

The headmaster of my school is Arshad

آپ کا مدرسہ کس سڑک پر واقع ہے؟

اردو

فِي أَيِّ شَارِعٍ تَقَعُ مَدْرَسَتُكَ؟

عربی

Which street is your school in?

English

Fi ayyi shaari' taqa'au madrasatuk

Roman



عربی

مَدْرَسَتِي فِي شَارِعٍ ...

اردو

میرا مدرسہ ---- سڑک پر واقع ہے۔

Roman

Madrasati fi shaari'.....

English

My school is in street...

کیا آپ کا مدرسہ بڑا ہے؟

اردو

هَلْ مَدْرَسَتُكَ كَبِيرَةٌ؟

عربی

Is your school big?

English

Hal madrasatuka kabeerah?

Roman



عربی

نَعَمْ، مَدْرَسَتِي كَبِيرَةٌ

اردو

جی ہاں، میرا مدرسہ بڑا ہے۔

Roman

Na'am madrasati kabeerah

English

Yes, it is.

آپ کے مدرسہ میں کتنے کلاس ہیں؟

اردو

كَمْ فَصْلًا فِي مَدْرَسَتِكَ؟

عربی

How many classes are there in your school?

English

Kam faslan fi madrasatik?

Roman

الذهاب الى المدرسة



عربی

تِسْعَةُ فُصُولٍ

Roman Tis'atu fusool

اردو

نو کلاسیں ہیں۔

English Nine classes.

آپ اسکول کیسے جاتے ہیں؟

اردو

How do you go to school?

English

كَيْفَ تَأْتِي إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟

عربی

Kaifa ta'ti ilal madrasah?

Roman



عربی

أَتِي إِلَى الْمَدْرَسَةِ رَاكِبًا

Roman Aati ilal madrasati raakiban

اردو

میں مدرسہ کو سوار ہو کر جاتا ہوں۔

English I ride to school.

آپ کس کی سواری کرتے ہیں؟

اردو

What do you ride on?

English

مَاذَا تَرْكَبُ؟

عربی

Maaza tarkabu?

Roman



عربی

أَرْكَبُ الدَّرَاجَةَ

Roman Arkabud-darraajah

اردو

میں سائیکل پر سواری کرتا ہوں۔

English I ride on a bicycle.

آپ بس کی سواری کیوں نہیں کرتے؟

اردو

Why don't you go by bus?

English

لِمَاذَا لَا تَرْكَبُ الْأُتُوبِيسَ؟

عربی

Limaaza la tarkabul-Autobees?

Roman



عربی

إِنَّ رُكُوبَ الْأُتُوبِيسِ يُكَلِّفُ أَجْرَةً زَائِدَةً

Roman Inna rukoobal autobees yukallifu ujratan zaaedah

اردو

بس کی سواری زائد کرایہ کی مکلف بناتی ہے۔

English Going by bus will cost more.

آپ پیدل کیوں نہیں جاتے؟

اردو

Don't you walk?

English

أَلَا تَمْشِي؟

عربی

Ala tamshi

Roman



عربی

لَا، أَنَا لَا أَمْشِي

Roman Laa, ana la amshi

اردو

نہیں، میں نہیں چل سکتا۔

English No! I don't walk.

کیوں؟

اردو

Why?

English

لِمَاذَا؟

عربی

Limaaza?

Roman



الذهاب الى المدرسة



عربی

لَوْ ذَهَبْتُ مَاشِيًا لَتَأَخَّرْتُ فِي الْحُضُورِ

اردو

اگر میں پیڈل جاؤں تو کافی تاخیر ہوگی۔

Roman

Lau zahabtu maashiyan la-ta'akkhartu fil huzoor

English

I would be late if I went by foot.

عربی

لِمَاذَا تَتَأَخَّرُ فِي الْحُضُورِ إِذَا مَشَيْتَ؟

اردو

جب آپ پیڈل جائیں گے تو پچھنے میں کیوں دیر کریں گے؟

Why would you be late if you went by foot? English

Limaaza tata'akhar fil huzoori iza mashaita? Roman

Roman



عربی

لِأَنَّ بَيْتِي بَعِيدٌ عَنِ الْمَدْرَسَةِ

اردو

اس لیے کہ میرا گھر مدرسہ سے بہت دور ہے۔

Roman

Li-anna baiti ba'eedun anil madrasah

English

Because my house is far from school.

عربی

لِمَاذَا أَذْخَلَكَ أَبُوكَ هَذِهِ الْمَدْرَسَةَ؟

اردو

آپ کے ابو نے آپ کو اس مدرسہ میں کیوں داخل کیا؟

Why did your father enroll you in this school? English

Limaaza adkhalaka abuka hazihil madrasah? Roman

Roman



عربی

لِأَنَّهَا مَدْرَسَةٌ عَرَبِيَّةٌ وَدِينِيَّةٌ

اردو

اس لیے کہ وہ عربی اور دینی مدرسہ ہے

Roman

Li-annaha madrasatun arabiyyatun wa deeniyyatun

English

Because it is an Arabic and religious school.

عربی

فِي أَيِّ قِسْمٍ تَتَعَلَّمُ؟

اردو

آپ کونے شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟

What department are you studying in? English

Fi ayyi qismin tata'allamu? Roman

Roman



عربی

أَتَعَلَّمُ فِي الْقِسْمِ...

اردو

میں -- شعبہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔

Roman

Ata'allamu fil-qismi.....

English

I'm studying in department....

عربی

مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي قِسْمِكَ؟

اردو

آپ اپنے شعبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟

What do you study in your department? English

Maaza tata'allamu fi qismik? Roman

Roman



عربی

أَتَعَلَّمُ الْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ وَاللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ

اردو

میں دینی علوم اور عربی زبان پڑھتا ہوں۔

Roman

Ata'allamul uloomad-deeniyyah wal lughatal-arabiyyah

English

I study religious knowledge and Arabic language

عربی

كَمْ حِصَّةً تَتَعَلَّمُ فِي الْيَوْمِ؟

اردو

آپ ایک دن میں کتنے گھنٹیاں پڑھتے ہیں۔

How many periods do you attend a day? English

Kam hissatan tata'allamu fil-yaum? Roman

Roman

الذهاب الى المدرسة

عربی

أَتَعَلَّمُ فِي الْيَوْمِ أَرْبَعِ حَصَصٍ

اردو

میں ایک دن میں چار گھنٹیاں پڑھتا ہوں۔

Roman

Ata'allamu fil yaumi arba'a hisas

English

I attend four periods a day.

ایک گھنٹی کے لیے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟

اردو

كَمْ دَقِيقَةً لِلْحِصَّةِ الْوَاحِدَةِ؟

عربی

How long is each period?

English

Kam daqeeqatan lilhissatil waahidah?

Roman

عربی

خَمْسُ وَأَرْبَعُونَ دَقِيقَةً لِكُلِّ حِصَّةٍ

اردو

پینتالیس منٹ ہر گھنٹی کے لیے ہوتے ہیں۔

Roman

Khamsun wa arba'oon daqeeqatan likulli hissatin

English

Forty-five minutes for each period

آپ مدرسہ سے کب واپس ہوتے ہیں؟

اردو

مَتَى تَنْصَرِفُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ؟

عربی

When do you leave from school?

English

Mata tansarifu minal-madrasah?

Roman

عربی

أَنْصَرِفُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ نَهَارًا

اردو

میں دن کے ایک بجے مدرسہ سے واپس ہوتا ہوں۔

Roman

Ansarifu minal-madrasati fis-saa'atil-waahidati nahaaran

English

I leave school at one o'clock.

مدرسہ سے واپس ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ رُجُوعِكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ؟

عربی

What do you do after returning from school?

English

Maaza ta'malu ba'da rujoo'eka minal madrasah?

Roman

عربی

أُصَلِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ

اردو

میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔

Roman

Usalli salaataz-zuhr

English

I pray Zuhar prayer

کیا ظہرانہ نہیں کرتے۔

اردو

أَلَا تَتَعَدَّى؟

عربی

Don't you have lunch?

English

Alaa tataghadda?

Roman

عربی

أَتَنَاوَلُ الْغَدَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ

اردو

میں ظہر کی نماز بعد ظہرانہ تناول کرتا ہوں۔

Roman

Atanaawalul ghadaa ba'das salaah

English

I have lunch after prayer.

آپ ظہرانہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ الْغَدَاءِ؟

عربی

What do you do after lunch?

English

Maaza ta'malu ba'dal ghadaa'?

Roman

الذهاب الى المدرسة

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



عربی

أَسْتَرِيحُ قَلِيلًا

اردو

میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں

Roman

Astareehu qaleelan

English

I take a bit of rest.

آپ آرام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ الْإِسْتِرَاحَةِ؟

عربی

What do you do after the rest?

English

Maaza ta'malu ba'dal istiraahah?

Roman



عربی

أُطَالِعُ وَأَكْتُبُ دُرُوسِي

اردو

میں اپنے دروس کا مطالعہ کرتا ہوں اور لکھتا ہوں۔

Roman

Utaali'au wa aktubu duroosi

English

I read and write my lessons.

آپ کتنے بجے تک دروس کا مطالعہ کرتے ہیں؟

اردو

إِلَى أَيِّ سَاعَةٍ تُطَالِعُ دُرُوسَكَ؟

عربی

Up to what time do you read your lessons?

English

Ila ayyati saa'atin tutaali'au duroosak?

Roman



عربی

أُطَالِعُ إِلَى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مَسَاءً

اردو

میں شام کے چار بجے تک مطالعہ کرتا ہوں۔

Roman

Utaali'au ilas-saa'atir raabi-ati masaa'an

English

I read until four o'clock in the evening.

پھر آپ کیا کرتے ہیں؟

اردو

ثُمَّ مَاذَا تَعْمَلُ؟

عربی

Then what do you do?

English

Summa maaza ta'malu?

Roman



عربی

أَتَوَضَّأُ وَأُصَلِّي الْعَصْرَ

اردو

میں وضو کرتا ہوں اور عصر کی نماز ادا کرتا ہوں۔

Roman

Atawazza'au wa usalli al-asra

English

I take ablution and pray my Asar prayer.

نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟

عربی

What do you do after prayers?

English

Maaza ta'malu ba'das-salah?

Roman



عربی

أَلْعَبُ مَعَ إِخْوَانِي وَأُخَوَاتِي

اردو

اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔

Roman

Al'abu ma'a ikhwaani wa akhawaati

English

I play with my brothers and sisters.



TAXI

Taxi

ٹیکسی

التاكسي

07

کیا یہ ٹیکسی بک کی ہوئی ہے؟

اردو

هَلْ هَذَا التَّكْسِي مَشْغُولٌ؟

عربی

Has this taxi been booked?

English

Hal haazat-taksi mashghoolun

Roman

لا، إِنَّهُ غَيْرُ مَشْغُولٍ

عربی

نہیں، یہ بک شدہ نہیں ہے۔

اردو

Laa, Innahu ghairu mashghool

Roman

No, it's free.

English

اچھا، مجھے ریلوے اسٹیشن لے چلو۔

اردو

حَسَنًا، حُذْنِي إِلَى مَحَطَّةِ الْقِطَارِ

عربی

Ok, please take me to the railway station!

English

Hasanan, khuzni ila mahattatil qitaar

Roman

نَعَمْ، أَيْنَ حَقَائِبِكَ يَا سَيِّدِي؟

عربی

جی اچھا، آپ کا سامان کہاں ہیں جناب؟

اردو

Na'am, aina haqaebuka ya sayyidi?

Roman

Yes, where is your luggage sir?

English

وہ وہاں ہے۔

اردو

هَا هِيَ هُنَاكَ

عربی

It's over there.

English

Ha hiya hunaak

Roman

اسے کار کے اندر رکھ دیجیے۔

اردو

صَعَهَا دَاخِلَ السَّيَّارَةِ

عربی

Put it inside the car.

English

Za'ha dakhilas sayyaarah

Roman

أَجَلْ يَا سَيِّدِي

عربی

ٹھیک ہے جناب

اردو

Ajal ya sayyidi

Roman

Yes sir.

English

اپنی تیزی بڑھائیے کیونکہ مجھ سے تاخیر ہو چکی ہے۔

اردو

زِدْ سُرْعَتَكَ فَإِنَّا مُتَأَخِّرُونَ

عربی

Please hurry because I'm already late!

English

Zid sur'atak fa-ana muta'akhkhir

Roman

التَّاسِي



عربی

وَهُوَ كَذَلِكَ

AskIslamPedia ٹھیک ہے

اردو

Roman

Wa Huwa kazaalik

English

All right.

برائے مہربانی ٹھہر جائیے

اردو

قِفْ مِنْ فَضْلِكَ

عربی

Stop, please!

English

Qif min fazlik

Roman

کتنا کرایہ ہوا؟

اردو

كَمْ الْأَجْرَةَ؟

عربی

What is the fare?

English

Kamil ujah

Roman

عربی

الْأَجْرَةُ مُبَيَّنَّةٌ فِي الْعِدَادِ

اردو

کرایہ میٹر میں واضح ہے۔

Roman

al ujratu mubayyinun fil addaad

English

The fare is shown on the meter.

اچھا، وہ کتنا ہے؟

اردو

طَيِّبٌ، كَمْ سَعْرُهَا؟

عربی

Right, how much?

English

Tayyib, kam se'ruha

Roman

عربی

دِينَارَانِ

اردو

دو دینار

Roman

dinaaraan

English

Two dinars.

قلی! مہربانی کر کے کیا آپ میرا سامان اٹھا کر لے چلیں گے۔

اردو

يَا حَمَّالُ؟ أَلَا تَتَوَلَّى حَمْلَ أَمْتِي مِنْ فَضْلِكَ؟

عربی

Porter! Will you carry my luggage, please?

English

Ya hammaal! ala tatawalla hamla amti'ati min fazlik?

Roman

عربی

إِلَى أَيْنَ يَا سَيِّدِي؟

اردو

کدھر جناب؟

Roman

Ila aina ya sayyidi?

English

Where to, sir?

میری سیٹ تک

اردو

إِلَى مَقْعَدِي

عربی

To my seat.

English

Ila maq'adi

Roman

عربی

حَسَنًا يَا سَيِّدِي.

اردو

اچھا جناب

Roman

Hasanan ya sayyidi.

English

Yes, sir.

Arshad Basheer Madani Notes



المقابلة للوظيفة

Job Interview

انٹرویو برائے ملازمت

اردو السلام علیکم

عربی اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ

English may peace be on you.

Roman Assalaamu alaikum

الْمُرْتَبِعُ



الْمُدْبِرُ

عربی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ

اردو وعلیکم السلام

Roman wa alaikumus salaam

English and may peace be on you too.

الْمُدْبِرُ

عربی اِجْلِسْ مِنْ فَضْلِكَ

اردو تشریف رکھیے

Roman Ijlis min fazlik

English Sit down, please

اردو شکریہ جناب

عربی شُكْرًا يَا سَيِّدِي

English Thank you

Roman Shukran yaa sayyidi

الْمُرْتَبِعُ



المقابلة للوظيفة

الْمُدَبِّرُ



عربی

مَا اسْمُكَ؟

اردو

آپ کا نام کیا ہے؟

Roman

Masmuk?

English

What is your name?

میرا نام علی ہے

اردو

إِسْمِي عَلِيٌّ

عربی

My name is Ali.

English

Ismi Ali

Roman

الْمُرَشِّحُ



الْمُدَبِّرُ



عربی

كَمْ عُمْرُكَ؟

اردو

آپ کی عمر کیا ہے؟

Roman

Kam umruk?

English

What is your age?

میری عمر پچیس سال ہے

اردو

عُمْرِي خَمْسُ وَعِشْرُونَ سَنَةً

عربی

I am twenty five years old.

English

Umri khamsun wa ishroona sanah

Roman

الْمُرَشِّحُ



الْمُدَبِّرُ



عربی

مَا هِيَ مِهْنَتُكَ؟

اردو

آپ کا پیشہ کیا ہے؟

Roman

Maa hiya mihnatak?

English

What is your profession?

میں انجینئر ہوں/ ڈاکٹر ہوں/ میکانک ہوں

اردو

أَنَا مُهَنْدِسٌ /طَبِيبٌ/مِيكَانِيكِيٌّ

عربی

I am an engineer/ a doctor/ a Mechanic

English

Ana muhandis/ tabeeb/ mikaniki

Roman

الْمُرَشِّحُ



الْمُدَبِّرُ



عربی

مَا هِيَ مُؤَهَّلَاتُكَ الْعِلْمِيَّةُ؟

اردو

آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟

Roman

Maa hiya mu'ahhilaatukal ilmiyyah?

English

What are your educational qualifications?

میں نے ایم۔ اے کیا ہے۔

اردو

أَنَا حَائِزٌ عَلَى شَهَادَةِ الْمَاجِسْتِيرِ

عربی

I have the degree of M.A

English

Ana haez ala shahadatil maajisteer

Roman

الْمُرَشِّحُ



الْمُدَبِّرُ



عربی

مِنْ أَيْنَ تَخَرَّجْتَ؟

اردو

آپ نے کہاں سے فراغت حاصل کی ہے؟

Roman

Min aina takharrajta?

English

From where did you graduate?

میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے

اردو

تَخَرَّجْتُ مِنْ جَامِعَةِ لَكْنَآؤ

عربی

I have graduated from lucknow university.

English

Takharrajtu min jaami'ati laknaao

Roman

الْمُرَشِّحُ



المقابلة للوظيفة

الْمُدِيرُ

عربي

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَكَلَّمَ الْإِنْجِلِيزِيَّةَ؟

اردو

کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں؟

Roman

Hal taastateeo an tatakallamal injiliziyah?

English

Can you speak English?



الْمُرَشَّحُ

عربي

جی ہاں جناب میں انگریزی بول سکتا ہوں

اردو

نَعَمْ يَا سَيِّدِي، أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ اللُّغَةَ الْإِنْجِلِيزِيَّةَ



Yes sir, I can speak English.

English

Na'am yaa sayyidi, astateeo an atakallamal lughatal injiliziyah

Roman

الْمُدِيرُ

عربي

خَبْرَةٌ كَمْ سَنَةٍ عِنْدَكَ؟

اردو

آپ کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے؟

Roman

Khibratu kam sanah indak?

English

How many years of experience do you have?



الْمُرَشَّحُ

عربي

میرے پاس پانچ سال کا تجربہ ہے

اردو

عِنْدِي خَبْرَةٌ خَمْسِ سَنَوَاتٍ



Sir, I have the experience of five years.

English

Indi khibratu khamsi sanawaat

Roman

الْمُدِيرُ

عربي

هَلْ جِئْتَ بِشَهَادَاتِكَ؟

اردو

کیا آپ اپنے سرٹیفکیٹ لائے ہیں

Roman

Hal ji'ta bishahaadaatik?

English

Did you bring your certificates?



الْمُرَشَّحُ

عربي

جی ہاں جناب!

اردو

نَعَمْ يَا سَيِّدِي!



yes sir.

English

Na'am yaa sayyidi

Roman

الْمُدِيرُ

عربي

أَيْنَ تَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؟

اردو

آج کل آپ کہاں کام کر رہے ہیں؟

Roman

Aina ta'malu fi haazihil ayyaam?

English

Where are you working these days?



الْمُرَشَّحُ

عربي

میں عبد الکریم اینڈ سنز کے یہاں کام کر رہا ہوں

اردو

أَعْمَلُ لَدَى شَرِكَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَأَوْلَادِهِ



I am working in a firm called "Abdul Kareem & Sons"

English

A'malu lada sharikati Abdil Kareem wa aulaadih

Roman

الْمُدِيرُ

عربي

كَمْ رَاتِبًا تَتَقَااضِي هُنَاكَ؟

اردو

آپ وہاں کتنی تنخواہ پارہے ہیں؟

Roman

Kam raatiban tataqaaza hunaak?

English

How much salary do you get there?



الْمُرَشَّحُ

عربي

مجھے وہاں پانچ ہزار روپے ماہانہ مل رہے ہیں

اردو

أَتَقَااضِي هُنَاكَ خَمْسَةَ أَلْفِ رُوْبِيَّةٍ شَهْرِيًّا



I get there five thousand rupees monthly.

English

Ataqaaza hunaaka khamsata aalaaf rubiyyatan shahriyan

Roman

المقابلة للوظيفة

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

المُتَدَبِّر

عربي

مَتَى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَلْتَحِقَ بِالْعَمَلِ عِنْدَنَا؟

اردو

آپ ہمارے پاس کب سے کام شروع کر سکتے ہیں؟

Roman

Mata tastateeo an taltahiq bil-amali indana?

English

When you can start the work here?



المُرَشَّح

عربي

بَعْدَ شَهْرٍ وَاحِدٍ

اردو

ایک ماہ بعد

After one month.

English

Ba'da shahrin waahid

Roman



المُتَدَبِّر

عربي

هَلْ عِنْدَكَ جَوَازُ سَفَرٍ؟

اردو

کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟

Roman

Hal indaka jawaazu safar?

English

Do you have the passport?



المُرَشَّح

عربي

نَعَمْ يَا سَيِّدِي مَوْجُودٌ

اردو

جی ہاں جناب موجود ہے

Yes sir, I have it.

English

Na'am yaa sayyidi maujood

Roman



المُتَدَبِّر

عربي

سَسُخِّبِرُكَ فِي الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ،
وَالآنَ يُمَكِّنُ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ.

اردو

ہم آپ کو آئندہ ہفتہ اطلاع دیں گے، اب آپ جا سکتے ہیں

Roman

Sanukhbiruka fil usboo'il qaadim, wal-aan yumkinu laka an tazhab.

English

We will inform you the next week, now you can go.



المُرَشَّح

عربي

شُكْرًا جَزِيلًا يَا سَيِّدِي.

اردو

بہت بہت شکریہ جناب!

Thank you very much, sir.

English

Shukran jazeelan ya sayyidi.

Roman



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



A Business Meeting

کاروباری ملاقات

لقاء تجاري

09



عربی

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

اردو

السلام علیکم

Roman

Assalaamu alaikum

English

May peace be on you.



عربی

لَقَدْ حَضَرْتُ لِمُقَابَلَةِ الْمُدِيرِ.

اردو

میں منیجر صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔

Roman

Laqad hazartu limuqaabalatil mudeer

English

I have come to meet the manager.

کیا آپ کا ان کے ساتھ پہلے سے وقت طے ہے

اردو

هَلْ لَكَ مَوْعِدٌ مُسَبِّقٌ مَعَهُ؟

عربی

Do you have an appointment with him?

English

Hal laka mau'idun musabbaqun ma'ahu?

Roman



عربی

نَعَمْ لِي مَوْعِدٌ مَعَهُ وَقَدْ حَضَرْتُ مِنْ قِبَلِ
"عَدْنَانَ وَشُرَكَائِهِ"

اردو

جی ہاں ! میرا ان کے ساتھ وقت طے ہے اور میں عدنان اینڈ
مہینی کی طرف سے آیا ہوں۔

Roman

Na'am li mau'idun ma'ahu waqad
hazartu min qibali "Adnan wa
shurakaaihi"

English

Yes ,I have an appointment with him and
I am from Adnan & co.



عربی

هَاهِي بِطَاقَتِي

اردو

یہ رہا میرا کارڈ۔

Roman

Haa hiya bitaaqati

English

Here's my visiting card.

لِقَاءُ تِجَارِيٍّ



عربی

هَذَا لُطْفٌ مِنْكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَنِي.

اردو

یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرا استقبال کیا۔

Roman

Haaza lutfun minka an tastaqbilani

English

It's kind of you to welcome me.



عربی

هَلْ تَسْمَحُ لِي أَنْ أُرِيكَ كَتَالُوجَ الْبِضَاعَةِ
وَأَسْعَارَهَا وَعَيِّنَاتِهَا؟

اردو

کیا میں آپ کو سامان کا کیٹلاگ، اس کی قیمتیں اور نمونے دکھا سکتا ہوں؟

Roman

Hal tasmahu li an uriyaka kataloojal
biza'ati wa as'araha wa ayyinaatiha?

English

Will you allow to show you the catalogue, prize and the samples of the products,



عربی

شَرِكْتُنَا تَصْنَعُ أَقْمِشَةً مَحْبُوكَةً.

اردو

ہماری کمپنی بنے ہوئے کپڑے تیار کرتی ہے۔

Roman

Sharikatunaa tas'nao aqmishatan
mahmookatan

English

Our company manufactures the knitting.



عربی

نَحْنُ نَبْحَثُ عَنِ الْوُكَلَاءِ

اردو

ہمیں ایجنٹوں کی تلاش ہے

Roman

Nahnu nabhasu anil wukalaa'

English

We are looking for agents



عربی

أَسْعَارُنَا بِالْجُمْلَةِ وَبِالْمُفْرَقِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَذِهِ
الْقَائِمَةِ.

اردو

ہماری ہول سیل (ٹھوک فروشی) اور ریٹیل قیمتیں اس فہرست میں درج ہیں۔

Roman

As'aruna bil jumlah wabil mufarriq
maktoobatun fi haazihil qaa'emah.

English

Our wholesale and retail prices are mentioned in this list.



عربی

إِنَّا نَعْطِي خَصْمًا خَاصًّا إِذَا اشْتَرَيْتُمْ كَمِيَّاتٍ
كَبِيرَةً مِنَ الْبِضَاعَةِ.

اردو

اگر آپ بڑی مقدار میں سامان خریدیں گے تو ہم آپ کو خصوصی چھوٹ دیں گے

Roman

Innana no'tee hasman khaassan izash-
taraitum kamiyyaatin kabeeratan minal
bizaa'ati

English

We'll give you special discount if you buy our products in block.



عربی

تَسْلِيمُ الْبِضَاعَةِ يَتِمُّ بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ تَسْجِيلِ الطَّلَبِ.

اردو

سامان کی ڈیلیوری آرڈر دینے کے ایک ماہ کے بعد ہوتی ہے۔

Roman

Tasleemul bizaa'ati yatimmu ba'da shahrin
min tasjeelit talab

English

Delivery of goods is done after a month of placing the order.

لِقَاءِ تِجَارِي

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

<p>عربی</p> <p>أُرِيدُ أَنْ أَرَى مُنْتَجَاتِكُمْ.</p>	<p>اردو</p> <p>میں آپ کی مصنوعات دیکھنا چاہتا ہوں۔</p>
<p>English</p> <p>I would like to see your products.</p>	<p>Roman</p> <p>Ureedu an ara muntajaatikum</p>
<p>عربی</p> <p>هَلْ عِنْدَكُمْ مَعْرَضٌ لِمُنْتَجَاتِكُمْ فِي الْمَدِينَةِ؟</p>	<p>اردو</p> <p>کیا آپ کے شہر میں کوئی شوروم ہے؟</p>
<p>English</p> <p>Do you have a showroom for your products in the city?</p>	<p>Roman</p> <p>Hal indakum ma'rizun limuntajaatikum fil Madinah?</p>
<p>عربی</p> <p>مَا هِيَ شُرُوطُكُمْ؟</p>	<p>اردو</p> <p>آپ کی شرائط کیا ہیں؟</p>
<p>English</p> <p>what are your conditions?</p>	<p>Roman</p> <p>Maa hiya shurootukum?</p>
<p>عربی</p> <p>هَلْ بِإِمْكَانِكُمْ إِجْرَاءُ تَعْدِيلَاتٍ عَلَى هَذَا النَّمُودَجِ؟</p>	<p>اردو</p> <p>کیا آپ اس ماڈل میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں</p>
<p>English</p> <p>Can you make some alternations in this model?</p>	<p>Roman</p> <p>Hal bi'imkaanikum ijraao ta'deelaatin ala haazan numoozaj?</p>
<p>عربی</p> <p>هَلْ يُمَكِّنُنِي أَنْ أَخَذَ بَعْضَ الْعَيِّنَاتِ؟</p>	<p>اردو</p> <p>کیا میں کچھ نمونے لے سکتا ہوں؟</p>
<p>English</p> <p>Can I take some of the samples?</p>	<p>Roman</p> <p>Hal yumkinuni an aakhuza ba'zal ayyinaat?</p>
<p>عربی</p> <p>هَلْ يُمَكِّنُكُمْ أَنْ تَهْتَمُّوا بِتَعْيِينَةِ الْبَضَائِعِ؟</p>	<p>اردو</p> <p>کیا آپ سامان کی پیکینٹ کر سکتے ہیں؟</p>
<p>English</p> <p>Can you arrange the packing of goods?</p>	<p>Roman</p> <p>Hal yumkinukum an tahtammoo bita'biatil bazaae'?</p>
<p>عربی</p> <p>لَا يُوجَدُ عِنْدَنَا طَلَبٌ كَبِيرٌ لِهَذِهِ الْبِضَاعَةِ</p>	<p>اردو</p> <p>ہمارے یہاں اس سامان کی زیادہ نکاسی نہیں ہے۔</p>
<p>Roman</p> <p>Laa yujadu indana talabun kabeerun lihaazihil bizaa'ati</p>	<p>English</p> <p>There is not big demand for these goods.</p>

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

PASSPORT

پاسپورٹ

جواز السفر

10

Passport

پاسپورٹ

جواز السفر

کیا یورپ کے سفر کے لیے مجھے پاسپورٹ لازم ہے۔

اردو

هَلْ يَلْزَمُنِي جَوَازُ سَفَرٍ لِرِحْلَتِي إِلَى أُوْرُبَيَّا؟

عربی

Do I need a passport for my trip to Europe?

English

Hal yalzamuni jawaazu safarin lirihlati ila aurubba?

Roman

إِذَا كَانَ لَدَيْكَ جَوَازُ سَفَرٍ فِي حِيَاازَتِكَ
فَيُمْكِنُكَ تَجْدِيدُهُ

عربی

اردو

اگر آپ کے پاس پہلے ہی سے پاسپورٹ ہے، تو آپ اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔

Iza kaana ladaika jawaazu safar fi hiyaazatik
fayumkinuka tajdeeduhu

Roman

English

If you already have a passport in your possession, you can have it renewed.

نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔

اردو

لَا، لَيْسَ عِنْدِي

عربی

No, I don't have one.

English

la laisa indi

Roman

إِذَنْ يَلْزَمُكَ جَوَازُ سَفَرٍ مِّنْ جَدِيدٍ

عربی

اردو

تب تو آپ کے لیے نئے پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔

Izan yalzamuka jawaazu safarin min jadeed

Roman

English

then you need to have a new passport.

أَتَحْمِلُ مَعَكَ ثَلَاثَ صُورٍ؟

عربی

اردو

کیا آپ اپنے ساتھ تین فوٹو لائے ہیں؟

A tahmilu ma'aka salaasa suwar?

Roman

English

Did you bring with you three photographs?

جی ہاں، یہ رہے وہ۔

اردو

أَجَلْ، هَا هِيَ ذِي

عربی

Yes, here it is.

English

Ajal, ha hiya zee

Roman

جواز السفر



عربی

املاً هذه الإستمارة وأدفع الرسوم اللازمة من فضلك

اردو

یہ فارم مکمل کیجیے اور برائے مہربانی ضروری فیس ادا کیجیے۔

Roman

Imla' haazihil istimaarah wadfa' ar-rusoomal-laazimah min fazlik

English

Please fill in this form and pay the necessary fees.

کیا میرے لیے ویزا لازم رہے گا۔

اردو

أَتَلْزَمُنِي تَأْشِيرَةَ خُرُوجٍ؟

عربی

Do I need an exit visa?

English

A talzamuni ta'sheerata khurooj?

Roman



عربی

طبعاً

اردو

جی ہاں، بالکل

Roman

Taba'an

English

yes, of course!

ویزا کا حصول کہاں سے ممکن ہوگا؟

اردو

مِنْ أَيْنَ يُمَكِّنُ الْحُصُولَ عَلَى التَّأْشِيرَةِ؟

عربی

Where can I get a visa from?

English

Min ayna yumkinul husoolu alat-ta'sheerah?

Roman



عربی

مِنَ الْقُنْصُلِيَّةِ (سَفَارَةِ)

اردو

قونصل خانہ سے (سفارت خانہ سے)

Roman

Minal qunsuliyah (safaarah)

English

From the consulate. (embassy).

عربی

وَيُمْكِنُكَ أَيضًا أَنْ تَحْصَلَ عَلَى تَأْشِيرَةِ عُبُورٍ فِي الْمَطَارِ حَسَبَ النِّظَامِ الْمُتَّبَعِ

اردو

اور آپ کے لیے ہوائی اڈے پر ٹرانزٹ ویزا کا حصول بھی ممکن ہے، عام قانون کے مطابق۔

Roman

Wa yumkinuka aizan an tahsula ala ta'shirati uboor fil mataar hasban-nizamil mutbi'

English

And also you can get a transit visa in the airport according to normal practice.





Currency Exchange

تغییر العملہ

کرنسی کا تبادلہ

اگر آپ کو دقت نہیں ہے تو میں اس کرنسی کو بدلنا چاہتا ہوں۔

اردو

لَوْ سَمَحْتَ أَوْدُ أَنْ أَصْرِفَ هَذِهِ الْعُمْلَةَ

عربی

If you don't mind, I would like to change this currency.

English

Lau samahta awaddu an asrifa haazihil-umlah

Roman

أَيَّةُ عُمْلَةٍ عِنْدَكَ؟

عربی

آپ کے پاس کونسی کرنسی ہے؟

اردو

Ayyatu umlatin indak?

Roman

What currency do you have?

English

میرے پاس ایک ہزار ڈالر ہیں اور میں اس کو دینار میں بدلنا چاہتا ہوں۔

اردو

لَدَيَّ أَلْفُ دُولَارٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهَا إِلَى دِينَارٍ

عربی

I have a thousand dollars and i want to change it to dinar.

English

Ladayya alfu dulaar wa ana ureedu an asrifahaa ila dinaar

Roman

ایک ڈالر کتنے میں ہے؟

اردو

بِكَمْ الدُّوْلَارِ الْوَاحِدِ؟

عربی

How much for one dollar?

English

Bikamid-dularul-wahid?

Roman

حَوْلِي ثَلَاثَةُ دِينَارٍ

عربی

تقریباً تین دینار

اردو

Hawaalai salaasatu dinaar

Roman

About three dinar.

English

تب تو ایک ہزار ڈالر کے تین ہزار دینار ہوں گے۔

اردو

إِذَنْ، لِأَلْفِ دُولَارٍ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِينَارٍ

عربی

Then, for a thousand dollars, three thousand dinar.

English

Izan,Lilalfi dulaarin salaasatu aalafi dinaar

Roman

نَعَمْ، أَنْتَ عَلَى حَقٍّ

عربی

جی ہاں، آپ نے ٹھیک کہا۔

اردو

Na'am, anta ala haqq

Roman

Yes, you are right.

English

آپ کی مدد کا شکریہ

اردو

شُكْرًا عَلَيَّ مُسَاعَدَتِكَ

عربی

Thank you for your help!

English

Shukran ala musaa'adatik

Roman

النكاح

نکاح

Marriage



میرے بیٹے آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟

اردو

أَنْتَ قَلِقٌ يَا وَلَدِي، مَاذَا هُنَاكَ؟

عربی

آلام

My son you look worried, what happened?

English

anta qaliquin ya waladi, maaza hunaak?

Roman



بلاں

عربی

أُرِيدُ الزَّوْجَ يَا أُمِّي، وَلَا أَحَدُ الْفَتَاةِ الْمُنَاسِبَةِ

اردو

ای میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر مناسب لڑکی نہیں پاتا ہوں۔



Roman

ureeduz-ziwaaj ya ummi, wala ajidul fataatal munaasabah.

English

Mom, I want to get married but I cannot find the right girl.

یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو شادی کے لیے مناسب ہیں۔

اردو

هَذِهِ لَيْسَتْ مُشْكِلَةً - هُنَاكَ فَتَيَاتٌ كَثِيرَاتٌ مُنَاسِبَاتٌ لِلزَّوْجِ

عربی

آلام

this is not difficult there are many suitable girls over there for marriage

English

hazihi laisat mushkilah, hunaaka fatayaatun kaseraatun munaasibaatun lizziwaaj.

Roman



بلاں

عربی

هَلْ تَعْرِفِينَ وَاحِدَةً مُنَاسِبَةً؟

اردو

کیا آپ کسی مناسب (لڑکی) کو جانتے ہیں؟



Roman

hal ta'rifeena wahidatan munaasabatan?

English

do you know any suitable girl?

النكاح

فلاں کی بیٹی، لیکن وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ ایک اور (لڑکی) ہے مگر وہ (بھی) خوبصورت نہیں ہے، ایک اور (لڑکی) ہے مگر وہ (بھی) حسب و نسب (اونچے خاندان) والی نہیں ہے۔

اردو

بِنْتُ فُلَانٍ وَلَكِنَّهَا فَاقِرَةٌ لَأَمَالٍ لَهَا -
وَهُنَاكَ أُخْرَى وَلَكِنَّهَا غَيْرُ جَمِيلَةٍ
وَهُنَاكَ أُخْرَى وَلَكِنَّهَا غَيْرُ ذَاتِ حَسَبٍ وَنَسَبٍ

عربی

Someone's daughter but she is very poor. she doesn't have any money and there is another girl but she is also not beautiful and another girl but she does not belong to a high log and ancestry.

English

bintu fulaan, wa laakinnaha faqeeratun la maala laha. Wa hunaaaka ukhra wala kinnaha ghairu jameelah, Wa hunaaaka ukhra wala kinnaha ghairu zaati hasabin wa nasab.

Roman

میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے اونچے نسب والی، مالدار اور خوبصورت کو تلاش کروں۔

اردو

أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَبْحَثَ لَكَ ذَاتَ نَسَبٍ وَمَالٍ وَجَمَالٍ

عربی

I want to find a girl would belong to a high log and ancestry also who would be rich and beautiful.

English

ana ureedu an abhasa laka zaata nasabin wa maalin wa Jamaal.

Roman

يَا أُمِّي أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَكَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ فِي الزَّوْجِ قَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ فِي الزَّوْجِ وَهُوَ النَّكَاحُ بِذَاتِ الدِّينِ

عربی

امی میں آپ کو رسول اللہ ﷺ کا قول یاد دلانا چاہتا ہوں یہ چیزیں شادی (کے معاملہ میں) کامیابی کے اسباب میں سے نہیں ہیں۔ یقیناً نبی ﷺ نے واضح فرمادیا کہ شادی میں کامیابی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دین دار سے نکاح کیا جائے۔

ya ummi ureedu an uzakkiraka qaula rasoolillahi salallahu alaihi wa sallam: haazihil ashya' laisat min asbaabis-sa'aadah fiz ziwaaj, qad bayyanan nabiyu salallahu alaihi wa sallam min asbaabis sa'aadah fiz ziwaaj wa huwan nikaahu bi zaatid deen.

Roman

English

mom, I would like to remind you the statement of prophet Muhammad ﷺ that these things are not from the points of successful marriage, indeed prophet Muhammad ﷺ was made it clear that one of the reasons behind a successful marriage is that one should marry a religions person.

بہت اچھے میرے بچے، میں یہ جانتی تھی لیکن تمہارا امتحان لینا چاہتی تھی کہ میں اسلامی تربیت دینے میں کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں؟

اردو

أَحْسَنْتَ يَا وَالدِي لَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ هَذَا وَلَكِنْ كُنْتُ
أُحْتَبِرُكَ هَلْ نَجَحْتُ فِي تَرْبِيَّتِكَ تَرْبِيَّةً إِسْلَامِيَّةً أَمْ لَا؟

عربی

very good ! my son I knew that but just wanted to test whether I have succeeded in giving an Islamic knowledge and discipline to you or not?

English

ahsanta ya walad laqad kuntu a'rifu haaza walaakin kuntu akhtabiruka hal najahtu fi tarbiyatika tarbiyatan islamiyyatan am laa?

Roman

الحج والعمرة

وَمَتَى وَصَلْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟

آپ مسجد حرام کب پہنچے؟

when did you reach Masjid-al-Haram.

wa mata wasalta ilal Masjidil Haraam?

English

Roman

الآيات



الآيات

وَصَلْتُ بَعْدَ الْعَصْرِ

عربی

میں عصر کے بعد پہنچا

اردو

Roman wasaltu ba'dal asr.

English I reached after Asr



آپ نے مسجد حرام کو کیسے پایا؟

وَكَيْفَ وَجَدْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؟

How did you find the Masjid-al-Haram.

wa kaifa wajadtal Masjidal Haraam?

English

Roman

الآيات



الآيات

سُرِرْتُ لَمَّا شَفْتُ الْكَعْبَةَ

عربی

میں کعبہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا

اردو

Roman surirtu lamma shuftul ka'bah

English I was very pleased to look at the kaba or I felt very happy looking at the kaba



طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟

كَمْ شَوَّطًا فِي الطَّوَّافِ؟

How many rounds are there in the Tawaaf?

kam shautan fit-tawaaf?

English

Roman

الآيات



الآيات

فِي الطَّوَّافِ سَبْعَةٌ أَشْوَاطٍ ثُمَّ الرَّكَعَاتِ

عربی

طواف میں سات چکر ہیں پھر دو رکعت نماز

اردو

Roman fit-tawaaf sab'atu ashwaat summa ar-rak'ataan

English There are seven rounds in the tawaaf and then two rakaat of salah



آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟

مَاذَا فَعَلْتَ بَعْدَ ذَلِكَ؟

what did you do after that?

maaza fa'alta ba'da zaalik?

English

Roman

الآيات



الآيات

السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَاءِ وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ
الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ بَعْدَ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ خَلَعْتُ الْأَحْرَامَ
وَاعْتَسَلْتُ وَلَبِسْتُ اللَّبَاسَ الْعَادِي

عربی

اردو

صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے سات چکر، پھر حلق یا تقصیر،
عمرہ کے بعد احرام نکال کر عام لباس پہن لیا۔

Roman as-sa'yu bainas-safa wal marwah sab'atu
ashwaat, summal halqu awit-taqseer, ba'da
itmaamil umrah khala'tul ihraam waghtasaltu
wa labistul-libaasal aadi

English Then I walked seven times between safa
and marwa, then shave or trim head. After
completing the umrah I removed my Ihram and
wore the regular clothes



الحج والعمرة

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

آپ نے حج کیسے کیا؟ اردو

كَيْفَ حَجَجْتَ؟ عربی

how did you perform hajj? English

kaifa hajajta? Roman

الآب

عربی

أَلْيَوْمَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجِّ بَقِينَا فِي مَنَى

اردو

آٹھ ذوالحجہ کو منی میں ٹھہرا۔

Roman

alyaumus-saamin min zilhaj baqina fi Mina

English

on the 8th day of zul-hajjah, I stayed in Mina

پھر؟ اردو

ثُمَّ؟ عربی

and then? English

summa? Roman

الآب

عربی

وَقُوفُ عَرَفَةَ

اردو

دقوف عرفہ

Roman

wuqoofu Arafah

English

stopped at Arafah

کیا آپ نے ظہر اور عصر عرفات میں پڑھی؟ اردو

هَلْ صَلَّىتِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ فِي عَرَفَاتِ؟ عربی

Did you offer zuhar and Asr at Arafah? English

hal Sallaita az-zohra wal asr fi arafaat? Roman

الآب

عربی

نَعَمْ ، جَمَعًا وَقَصْرًا وَقَتِ الظُّهْرِ

اردو

ہاں، جمع اور قصر کے ساتھ ظہر کے وقت

Roman

n'am jam'an wa qasran waqtaz-zohr.

English

yes, with jama and qasr along with zuhar

پھر آپ نے کیا کیا؟ اردو

ثُمَّ مَاذَا؟ عربی

then what did you do ? English

summa maaza? Roman

الآب

عربی

بَعْدَ الْمَغْرِبِ ذَهَبْنَا إِلَى الْمُزْدَلِيفَةِ وَنِمْنَا

اردو

مغرب کے بعد ہم مزدلفہ پہنچے اور وہیں رات گزارے۔

Roman

Ba'dal maghrib zahabna ilal muzdalifah wa nimna

English

we reached Muzdlifa after maghrib and spent the night

پھر کیا کیا؟ اردو

ثُمَّ مَاذَا؟ عربی

then, what did you do? English

summa maaza? Roman

الحج والعمرة

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

آلآب

عربی

الْيَوْمَ الْعَاشِرَ صَبَا حَا ذَهَبْنَا إِلَىٰ مِنَىٰ وَرَمَيْنَا ثُمَّ
ذَبَحْنَا الْهَدْيَ، وَحَلَقْنَا رُؤُوسَنَا

اردو

دس تاریخ کی صبح ہم منی گئے، رمی اور قربانی کی
اور پھر اپنے سر منڈوائے۔

Roman

al-yaumul-aashir sabaahan zahabna ila mina
wa ramaina summa zabahnal-hadya wa halaqna
ru'oosana

English

we reached Mina on the morning of 10th and did
rami (pelted stones) then we offered the sacrifice
and shawed our heads

پھر آپ نے کیا کیا ابا جان؟

اردو

ثُمَّ مَاذَا يَا أَبِي؟

عربی

then what did you do dad?

English

summa maaza ya abi?

Roman

آلآب

عربی

ذَهَبْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِنُطَافِ الْإِفَاضَةَ
وَسَعَى الْحَجِّ

اردو

ہم مسجد حرام طواف افاضہ اور حج کی سعی کے
لیے گئے

Roman

Zahabna ilal masjidil-haraam litawaafil ifaazah
wa sa'yil haj.

English

then me went to the masjid-al-haram for
twaf ifadah and Sae.

آپ نے طواف وداع کب کیا؟

اردو

وَمَتَى طُفْتُ طَوَافَ الْوِدَاعِ؟

عربی

When did tawaf-e-widaa is to be perfome?

English

wa mataa tufna tawaafal widaa'?

Roman

آلآب

عربی

بَعْدَ أَنْ رَمَيْنَا الْجَمْرَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ أَوْ
الثَّلَاثِ عَشَرَ قَبْلَ وِدَاعِ مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ طُفْنَا طَوَافَ
الْوِدَاعِ

اردو

بارہ یا تیرہ تاریخ کو رمی جمار کے بعد مکہ چھوڑنے سے پہلے
طواف وداع کیے۔

Roman

ba'da an ramainal jamaraat fil yaumis-
saani ashra awissaalisi ashra qabla
widaae makkatal mukarramah tufna
tawaafal widaa'

English

twaf al wida should be done on the 12th
the 13th, after completing rami and
before leaving makkah.

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

قوت قراءه كى Practice

القصص العربيه
محاولة تدريب القراءة والتعبير

01 الإبتلاء بالدنيا، وكيف يفلح فيها

02 قصة أصحاب الأخدود

03 قصة أبي سفيان مع هرقل

04 قصة بدء الوحي

05 قصة الرجل الذي قتل مائة نفس

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

١. الإبتلاء بالدنيا، وكيف يفلح فيها

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَ أَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ. أَوْ قَالَ الْبَقْرَهُوَشَكَ فِي ذَلِكَ، إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ، وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقْرُ. فَأَعْطِي نَاقَةً عَشْرَاءً. فَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا. وَآتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأَعْطِي شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقْرُ. قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقْرَةً حَامِلًا، وَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا. وَآتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتَجَ هَذَانِ، وَوَلَدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِي الْجِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالِ بَعِيرًا أَتَبَلَّغَ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدِرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ

لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ، وَآتَى
 الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ
 هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ. وَآتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ
 رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ،
 ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاءَ أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ قَدْ كُنْتُ
 أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصْرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ
 الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ
 وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.”

(صحيح البخاري: 3464)

٢. قصة أصحاب الأخدود

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا
 كَبُرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ فَأَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَعْلَمُهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ
 فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ
 مَرًّا بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ
 السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرَ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ
 إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرَ أَفْضَلَ أَمْ الرَّاهِبُ
 أَفْضَلَ فَأَخَذَ حَجْرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ
 هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ

لَهُ الرَّاهِبُ أَى بُنَى أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي . قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنْ ابْتَلَيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ . وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسُ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ . فَأَمَّنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَآتَى الْمَلِكُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ قَالَ رَبِّي . قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَى بُنَى قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى فَدَعَا بِالْمُنْشَارِ فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ . فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْدِفُوهُ . فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَاكْفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ . فَقَالَ لِلْمَلِكِ

إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرُكَ بِهِ . قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ
وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِدْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ
بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ . ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ
وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِدْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ
بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ . ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ
السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ . فَأَتَى الْمَلِكُ
فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَرَ بِالْأَخْذِ فِي
أَفْوَاهِ السِّكِّكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النَّيْرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَن دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا . أَوْ قِيلَ
لَهُ افْتَحِم . فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا
الْغُلَامُ يَا أُمَّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ .

(مسلم: 3005)

٣. قصة أبي سفيان مع هرقل

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ
قُرَيْشٍ . وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ . فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَفَّ فِيهَا
أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ
ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ فَقَالَ
أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا . فَقَالَ أَذْنُوهُ مِنِّي ، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ
ظَهْرِهِ . ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ .

فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فَيَكُمُ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا. قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضِعْفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضِعْفَاؤُهُمْ. قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجَمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فَيَكُمُ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِسِي بِقَوْلِ قَيْلٍ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضِعْفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضِعْفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتَمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيَّرْتَدُّ أَحَدٌ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ

يَدْخُلُ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَأَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دَحِيَّةً إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرْقَلٍ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلٍ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمَ تَسْلَمَ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَإِيَّا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ.

(صحيح البخاري: ٧)

٤. قصة بدء الوحي

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه . قال والتحنث التعبد . الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثليها، حتى فجنه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أنا بقارئ " . قال " فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال اقرأ . قلت ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني . فقال اقرأ . قلت ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال { اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم } . " . الآيات إلى قوله { علم الإنسان ما لم يعلم } فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بواديه حتى دخل على خديجة فقال " زمّلوني زمّلوني " . فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع قال لخديجة " أي خديجة ما لي، لقد خشيت على نفسي " . فأخبرها الخبر . قالت خديجة كلاً أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . قال ورقة يا

ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليأتي فيها جذعاً، ليأتي أكون حياً. ذكر حرفاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أومخرجي هم". قال ورقة نعم لم يأت رجل بما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك حياً أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي، ففتره حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(صحيح البخاري: 4953)

٥. قصة الرجل الذي قتل مائة نفس

قال نبي الله صلى الله عليه وسلم "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فاتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال لا. فقتله فكمّل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط. فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة".

(مسلم: ٢٧٦٦)

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

مختارات الأربعين النووية

(1) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". (صحيح البخارى: 1، وصحيح مسلم: 1907)

امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی، تاکہ وہ اسے پالے یا کسی عورت کے لیے ہوئی کہ وہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

Ameerul Mumineen Abi Hafs Umar bin khattaab raziyallahu anhu se riwayat hai ke Main ne Allah ke Rasool ﷺ ko farmate hue suna ke: beshak a'maal ka daaromadaar niyyato par hai aur har ek ke liye wahi kuch hai jiski usne niyyat ki, jiski hijrat Allah aur uske rasool ki taraf hui pas uski hijrat Allah aur uske rasool ke liye hai aur jiski hijrat dunya ke liye hui taake wo use paale ya kisi aurat ke liye hui ke wo usse nikah kare to uski hijrat usi ke liye hai jiske liye usne hijrat ki.

On the authority of Ameerul Mumineen Abi Hafs Umar bin Al-Khattab raziyallahu anhu, who said : I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wa sallam say : "Actions are but by intention and every man shall have but that which he intended. Thus he whose migration was for Allah and His messenger, his migration was for Allah and His messenger, and he whose migration was to achieve some worldly benefit or to take some woman in marriage, his migration was for that for which he migrated."

(2) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بِيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِسْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ". [صحيح مسلم: 8]

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ہم ایک روز اللہ کے رسول ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کا لباس نہایت ہی سفید اور اس کے بال نہایت ہی سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی ﷺ کے قریب (دوڑانو ہو کر) بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ آپ کے زانوؤں پر رکھ دئے اور کہا: اے محمد (ﷺ) مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے (اس شخص نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔) اس شخص نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ (اس شخص نے) کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ اس شخص نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: (احسان یہ ہے کہ) تو عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو یہ نہ کر سکے تو تیری (عبادت) اس طرح ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ (اس شخص نے) کہا کہ ہمارے بارے میں بتائیے۔ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ (اس شخص نے) کہا: تو مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتادیجئے۔ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: یہ کہ لو ہندی اپنے مالک کو جنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، مفلس چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ (شخص) چلا گیا۔ میں (رسول اللہ ﷺ) کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ پھر (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: وہ جبریل تھے۔ جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔

مختارات الأربعين النووية

Umar bin khattab raziyallahu anhu se riwayat hai: ham ek roz Allah ke rasool ﷺ ke paas baithe hue the ke ek aadmi aaya jiska libaas nihaayat hi safed aur uske baal nihaayat hi siyaah the. Uspar safar ke aasaar dikhai nahi derahe the, na ham me se koi use pahchaanta tha, yahaatak ke wo nabi ﷺ ke qareeb do zaanu hokar baith gaya ke usne apne ghutne aap ke ghutno se mila diye aur apne haath aap kee zaanuo par rakh diye aur kaha: aye Muhammad ﷺ mujhe islam ke baare me batayye. Rasool ﷺ ne farmaya: islam ye hai ke tu gawahi de ke Allah ke siwa koi ma'boode barhaq nahi aur ye ke Muhammad ﷺ Allah ke rasool hain. Aur ye ke tu namaz qaem kare, zakaat ada kare, ramazan ke roze rakhe aur baitullah tak pahunchne ki istita'at ho to baitullah ka haj kare. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Hamein ta'ajjub hua ke khud hi sawaal karta hai aur phir tasdeeq bhi karta hai. Us shakhs ne kaha: mujhe eemaan ke baare me batayye. Rasool ﷺ ne farmaya: eemaan ye hai ke tu eemaan laae Allah par, uske farishto par, uski kitabo par, uske rasoolo par, aakhirat ke din par aur achi aur buri taqdeer par. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Us shakhs ne kaha mujhe ehsaan ke baare me batayye. Rasool ﷺ ne farmaya: ehsaan ye hai ke tu ibadat is tarah se kare goya tu Allah ko dekh raha hai, pas agar tu ye na karsake to teri ibadat is tarah honi chahiye ke Allah tujhe dekh raha hai. Us shakhs ne kaha ke qayamat ke baare me batayye. Rasool ﷺ ne farmaya: jisse sawal kiya gaya hai wo is baare me sawaal karne waale se zyaada nahi jaanta. Us shakhs ne kaha: to mujhe uski nishaniyo ke baare me hi bata dijiye. Rasool ﷺ ne farmaya: ye ke laundi apne maalik ko janegi aur tu dekhega ke nange paaon waale, nange badan waale, muflis charwaahe buland imaaratein ta'meer karne me ek doosre par fakhar karenge. Phir wo shakhs chala gaya. Mai rasool ﷺ ke paas thodi der thaira raha. Phir rasool ﷺ ne farmaya: wo Jibreel the, jo tumhe deen sikhaane ke liye tumhare paas aae the.

On the authority of Omar raziyallahu anhu, who said : One day while we were sitting with the messenger of Allah there appeared before us a man whose clothes were exceedingly white and whose hair was exceedingly black; no signs of journeying were to be seen on him and none of us knew him. He walked up and sat down by the prophet. Resting his knees against his and placing the palms of his hands on his thighs, he said: "O Muhammad, tell me about Islam". The messenger of Allah said: "Islam is to testify that there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat, to fast in Ramadhan, and to make the pilgrimage to the House if you are able to do so." He said: "You have spoken rightly", and we were amazed at him asking him and saying that he had spoken rightly. He said: "Then tell me about Eemaan." He said: "It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the Last Day, and to believe in divine destiny, both the good and the evil thereof." He said: "You have spoken rightly". He said: "Then tell me about Ihsaan." He said: "It is to worship Allah as though you are seeing Him, and while you see Him not yet truly He sees you". He said: "Then tell me about the Hour". He said: "The one questioned about it knows no better than the questioner." He said: "Then tell me about its signs." He said: "That the slave-girl will give birth to her mistress and that you will see the barefooted, naked, destitute herdsman competing in constructing lofty buildings." Then he took himself off and I stayed for a time. Then he said: "O Omar, do you know who the questioner was?" I said: "Allah and His messenger know best". He said: "He was Jibreel (Gabriel), who came to you to teach you your religion."

(3) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

[صحيح البخاري: 81، وصحيح مسلم: 16]

ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما سے روایت ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا: آپ نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

Abu Abdir Rahman Abdullah bin Umar bin khattab raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Islam ki bunyaad panch (5) cheezon par hai. Is baat ki gawahi dena ke Allah ke siwa koi ma'boode barhaq nahi aur yaqeenan Muhammad ﷺ Allah ke Rasool hain, namaz qaem karna, Zakat ada karna, Hajj karna aur Ramazan ke roze rakhna.

مختارات الأربعين النووية

On the authority of Ibn Omar, the son of Omar bin Al-Khattab raziyallahu anhu, may Allah be pleased with both, who said : I heard the messenger of Allah say : “Islam has been built on five [pillars]: testifying that there is no god but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakat, making the pilgrimage to the House, and fasting in Ramadan.”

(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ - : «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَظْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ؛ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». [صحيح البخاري: 3208، وصحيح مسلم: 2643]

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ اور وہ صادق مصدوق ہیں۔ فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر چالیس دن جھے ہوئے خون کے مانند ہوتا ہے۔ پھر اگلے چالیس دن گوشت کی بوتلی کے مانند رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس (فرشتے) کو چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس (شخص) کے رزق لکھنے کا اور اس کی موت کا وقت، اور اس کے عمل کا اور (اس بات کا کہ) وہ بد بخت ہے یا خوش نصیب۔ پس قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کا کوئی شریک نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے اور اہل جہنم کے سے اعمال کرنے لگ جاتا ہے چنانچہ وہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے تو وہ اہل جنت کے سے اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔

Abu Abdur Rahman Abdullah Ibne Masood raziyallahu anhu ne kaha: ham Rasoolullah ﷺ se suna – aur wo Sadiq wa Masdooq hain - farmaya: Tum mein se har ek apni maa ke pet me chalees din tak nutfe ki shakal me rahta hai. Phir chalees din jame hue khoon ke manind hota hai. Phir agle chalees din gosht ki boti ke manind rahta hai. Phir Allah uski taraf ek farishta bhejta hai, wo usme rooh phoonkta hai aur us farishte ko chaar batein likhne ka hukum diya jaata hai. Us shakhs ke rizq likhne ka aur uski maut ka waqt, aur uske amal ka aur is baat ka ke wo badbakht hai ya khushnaseeb. Pas qasam hai us zaat ki jiska koi shareek nahi, tum me se koi ahle jannat ke se a'maal karta rahta hai yaha tak ke uske aur jannat ke darmiyaan ek haath ka faasla rah jaata hai, phir taqdeer ka likha us par sabaqat le jaata hai aur ahle jahannam ke se a'maal karne lag jaata hai chunaanche wo us me daakhil kardiya jaata hai. Aur tum me se koi ahle jahannam ke se a'maal karta rahta hai yaha tak ke uske aur jahannam ke darmiyaan ek haath ka faasla rah jaata hai, phir taqdeer ka likha us par sabaqat lejaata hai to wo ahle jannat ke se a'maal karne lag jaata hai aur wo usme daakhil ho jaata hai.

On the authority of Abu Abdur Rahman Abdullah bin Masud raziyallahu anhu, who said : the messenger of Allah ﷺ, and he is the truthful, the believed narrated to us : “Verily the creation of each one of you is brought together in his mother’s belly for forty days in the form of seed, then he is a clot of blood for a like period, then a morsel of flesh for a like period, then there is sent to him the angel who blows the breath of life into him and who is commanded about four matters: to write down his means of livelihood, his life span, his actions, and whether happy or unhappy. By Allah, other than Whom there is no god, verily one of you behaves like the people of Paradise until there is but an arm’s length between him and it, and that which has been written over takes him and so he behaves like the people of Hell-fire and thus he enters it; and one of you behaves like the people of Hell-fire until there is but an arm’s length between him and it, and that which has been written over takes him and so he behaves like the people of Paradise and thus he enters it.”

مختارات الأربعين النووية

(5) عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ". [صحيح البخاري: 3208، وصحيح مسلم: 1718] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہمارے اس امر (یعنی دین اسلام) میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہ ہو (تو) وہ مردود ہوگئی۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ: جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔

Ummul Mumineen Umme Abdullah Ayesha raziyallahu anha se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: jis ne Hamare is amr (yaani deen-e-islam) me koi nai baat nikaali jo is me na ho to wo mardood (naa-qabil-e-qabool) hai. (Sahih Bukhari, Sahih Muslim) Aur muslim ki riwayat me hai ke: jisne koi aisa amal kiya jis par hamara hukum nahi to wo amal mardood hai.

On the authority of Ummul Mumineen Umme Abdullah Aishah raziyallahu anha, who said : The messenger of Allah ﷺ said: "He who innovates something in this matter of ours that is not of it will have it rejected." narrated by Bukhari and Muslim And in one version by Muslim it reads : "He who does an act which our matter is not [in agreement] with will have it rejected."

(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَجْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ". [صحيح البخاري: 52، وصحيح مسلم: 1599]

ابو عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ آپ نے فرمایا: بے شک حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان شے والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچالیا اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا، وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو اپنے ریوڑ کو چراہگاہ کی باڑ کے ساتھ چراتا ہے، قریب ہے کہ ریوڑ اس میں داخل ہو کر چرنے لگ جائے۔ خبردار بے شک ہر بادشاہ کی ایک حفاظتی حد ہوتی ہے، خبردار اللہ تعالیٰ کی حد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو! وہ ٹکڑا دل ہے۔

Abu Abdullah No'maan bin Basheer raziyallahu anhu se riwayat hai ke Maine Rasoolullah ﷺ se suna, aap ne farmaya: beshak halaal zahir hai aur haraam bhi zahir hai aur un dono ke darmiyaan shubhe waali chizein hain jinhe bohat se log nahi jaante. Pas jo in mushtaba chizo se bach gaya usne apne deen aur aabru ko bacha liya aur jo mushtaba umoor me pad gaya wo haraam me pad gaya. Iski misaal us charwaahe jaisi hai jo apne rewad ko charah-gaah ki baad ke saath charaata hai, qareeb hai ke rewad us me daakhil ho kar charne lag jaae. Khabar-daar beshak har baadshah ki ek hifazati had hoti hai, khabar-daar Allah ki had uski haraam karda ashya hain. Khabar-daar yaqeenan jism me gosht ka ek tukda hai jo agar durust hojaae to saara jism durust hojaata hai aur agar us me fasaad barpa hojaae to saare jism me fasaad barpa hojaata hai. Aagaah raho wo tukda dil hai.

On the authority of Abu Abdullah Al-Numan bin Basheer raziyallahu anhu, who said : I heard the messenger of Allah ﷺ say : "That which is lawful is plain and that which is unlawful is plain and between the two of them are doubtful matters about which not many people know. Thus he who avoids doubtful matters clears himself in regard to his religion and his honor, but he who falls into doubtful matters falls into that which is unlawful, like the shepherd who pastures around a sanctuary, all but grazing therein. Truly every king has a sanctuary, and truly Allah's sanctuary is His prohibitions. Truly in the body there is a morsel of flesh which, if it be whole, all the body is whole and which, if it be diseased, all of it is diseased. Truly it is the heart."

مختارات الأربعين النووية

(7) عَنْ أَبِي زُقَيْفَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الَّذِينَ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلَا بِمَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". [صحيح مُسْلِم: 55]

ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین خیر خواہی (کا نام) ہے۔ کہا گیا: کس کی خیر خواہی؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب کی، اور اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور عام مسلمانوں کی۔

Abu Ruqayya Tamim bin Aus Daari raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Deen khair-khwaahi ka naam hai. Kaha gaya: kis ki khair-khwaahi? farmaaya: Allah ki aur us ki Kitaab ki aur us ke Rasool ki aur Musalmaano ke aamma ki aur aam musalmano ki.

On the authority of Abu Ruqayya Tamim Al-Dari raziyallahu anhu that the prophet said ﷺ: "Religion is sincerity". We said: "To whom?" He said: "To Allah and His Book, and His messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk".

(8) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةَ مَسْأَلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ". [صحيح البُخَارِي: 7288، وَ صحيح مُسْلِم: 1337]

ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس چیز سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، اس سے بچو اور جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے، جہاں تک طاقت ہو اسے بجالاؤ۔ بے شک تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے بہت زیادہ سوال کئے اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کیے۔

Abu Hurairah Abdur Rahman ibne Saqr raziyallahu anhu se riwayat hai: Main Rasoolullah ﷺ ko farmate hue suna: jis cheez se maine tumhe mana kardiya hai usse bacho aur jis cheez ka maine hukum diya hai, jaha tak taaqat ho use baja laao. Beshak tum se pahle log isi waja se halaak hue ke unho ne bohat zyada sawal kiye aur apne ambiya ke baare me ikhtilaaf kiye.

On the authority of Abu Hurairah Abdur Rahman ibne Saqr raziyallahu anhu, who said: I heard the messenger of Allah ﷺ say: "What I have forbidden to you, avoid; what I have ordered you [to do], do as much of it as you can. It was only their excessive questioning and their disagreeing with their prophets that destroyed those who were before you."

(9) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ؟". [صحيح مُسْلِم: 1015]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ وہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "اے میرے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔" اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے لوگوں جو ایمان لائے ہو! ہمارے عطا کردہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔" پھر اس آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر طے کر کے آتا ہے جو گردوغبار سے اٹا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے "اے میرے رب! اے میرے رب! اور اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام میں پالا گیا ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو۔

مختارات الأربعين النووية

Abu Hurairah raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: beshak Allah Ta'ala paak hai aur paak cheez ke alaawa wo kuch qabool nahi karta. Aur Allah ta'ala ne ahle eemaan ko wahi hukum diya jo apne rasoolo ko diya. Allah ta'ala ka farmaan hai: aye mere rasoolo! Pakeeza chizein khaao, ache a'maal karo. Aur Allah ta'ala ne farmaya: aye logo jo eemaan lae ho hamare ata karda pakiza chizo se khaao. Phir us aadmi ka zikr farmaya jo taweel safar tae karke aata hai jo gard-o-ghubaar se ata hua hai aur apne dono haath aasmaan ki taraf utha kar pukaarta hai "aye mere rab! Aye mere rab! Aur uska khaana haraam hai aur uska peena haraam hai, uska libaas haraam hai aur haraam me paala gaya hai, phir uski dua kaise qabool ho?"

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu, who said : the messenger of Allah ﷺ said : "Allah the Almighty is good and accepts only that which is good. Allah has commanded the faithful to do that which he commanded the messengers, and the Almighty has said: "O ye messengers ! Eat of the good things and do right". And Allah the Almighty has said : "O ye who believe! Eat of the good things wherewith We have provided you" Then he mentioned [the case of] a man who, having journeyed far, is dishevelled and dusty and who spreads out his hands to the sky [saying] : "O Lord! O Lord!" - while his food is unlawful, his drink unlawful, his clothing unlawful, and he is nourished unlawfully, so how can he be answered !"

(10) عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِخَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعُ مَا يُرْبِيكَ إِلَى مَا لَا يُرْبِيكَ".

[سنن الترمذی: 2520 ، سنن النسائی: 5711 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ الْإِسْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ: 3378]

نواسہ اور خوشبوئے رسول (ﷺ) ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے (سن کر) حفظ کر لیا: اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔

Nawaasa aur khushbue Rasool Abu Muhammad Hasan Ibne Ali bin Abi Talib raziyallahu anhu se riwayat hai ke: Maine Rasoolullah ﷺ se sun kar hifz kar liye: us cheez ko chod de jo tujhe shak me daalti hai, us cheez ki taraf jo tujhe shak me nahi daalti.

On the authority of Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali raziyallahu anhu, the grandson of the messenger of Allah ﷺ, who said : I memorized from the messenger of Allah ﷺ his saying :Leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt.

مختارات الأربعين النووية

(11) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْينُهُ".

(سنن الترمذي: 2318، سنن ابن ماجه: 3976 - وصححه الالباني في صحيح الجامع: 5911)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کے اسلام کی اچھائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بے فائدہ امور کو چھوڑ دے۔

Abu Hurairah raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Aadmi ke islam ki achayyo me se ye bhi hai ke wo be faida umoor ko chod de.

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu, who said : The messenger of Allah said : “Part of someone’s being a good Muslim is his leaving alone that which does not concern him.”

(12) عَنْ أَبِي حَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ

أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". (صحيح البخاري: 13، صحيح مسلم: 45)

خادم رسول (ﷺ) ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی چیز اپنے (مسلم) بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

Abu Hamza Anas bin Malik raziyallahu anhu se riwayat hai ke rasoolullah ﷺ ne farmaya us waqt tak koi shakhs kaamil momin nahi hosakta jab tak wo wahi cheez apne muslim bhai ke liye bhi pasand na kare jo wo apne liye pasand karta hai.

On the authority of Abu Hamza Anas bin Malik raziyallahu anhu, the servant of the messenger of Allah ﷺ, that the prophet said : “None of you [truely] believes until he wishes for his brother what he wishes for himself.”

(13) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ". (صحيح البخاري: 6018، صحيح

مسلم: 47)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت و تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔

Abu Huraira raziyallahu anhu se riwayat hai ke rasoolullah ﷺ ne farmaya: jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai use chahiye ke achi baat kahe ya khamoosh rahe, aur jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai use chahiye ko wo apne hamsaae ki izzat wa takreem kare, aur jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai use chahiye ko wo mahmaan ki izzat wa takreem kare.

Abu Hurairah raziyallahu anhu narrated that the messenger of Allah ﷺ said : “Let him who believes in Allah and the Last Day either speak good or keep silent, and let him who believes in Allah and the Last Day be generous to his neighbour, and let him who believes in Allah and the Last Day be generous to his guest.”

(14) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مَرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ".

(صحيح البخاري: 6116)

مختارات الأربعين النووية

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا: غصہ نہ کیا کر۔ اس نے یہی سوال کئی بار دہرایا۔ آپ نے (ہر دفعہ) یہی فرمایا: غصہ نہ کیا کر۔

Abu Hurairah raziyallahu anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ ke paas ek aadmi aaya aur usne kaha: aye nabi mujhe kuch nasihat kijiye. Aap ne farmaya: ghussa na kiya karo. Usne yahi sawal kae baar dohraaya, aap ne har dafa yahi farmaya: ghussa na kiya kar.

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu, who said : a man said to the prophet ﷺ :“Counsel me”. He said : “Do not become angry”. The man repeated [his request] several times, and he said: “Do not become angry”.

(15) عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ". (سنن الترمذي: 1987 - وحسنه الالباني في صحيح الجامع: 97)

ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی ہونے پر نیکی کرو وہ برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

Abu Zar Jundub bin Junaada aur Abu Abdur Rahman Mua'az bin Jabal raziyallahu anhuma se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: tum jaha kahee bhi ho Allah se darte raho aur buraee par neki karo wo buraee ko mita degi aur logo ke saath husne akhlaaq ke saath pesh aao.

On the authority of Abu Dhar Jundub bin Junadah, and Abu Abdur Rahman Muadh bin Jabal raziyallahu anhuma that the messenger of Allah ﷺ said : “Fear Allah wherever you are, and follow up a bad deed with a good one and it will wipe it out, and behave well towards people.”

(16) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ: إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ". (سنن الترمذي: 2516 - وصححه الالباني في صحيح الجامع: 7957)

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: "إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أخطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا".

مختارات الأربعين النووية

ابو العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے (خبر پر) بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا: اے لڑکے! میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ (کے دین) کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ (کے دین) کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے اور جب بھی تم سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اور جان لو کہ اگر سب لوگ ملکر تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر سب لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلمیں اٹھالی گئی ہیں اور (لوح محفوظ کے) صفحات خشک ہو چکے ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ (کے دین) کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوش حالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا اور جان لو کہ جو مصیبت تم سے خطا ہو گئی وہ تمہیں پہنچنے والی ہی نہ تھی اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے خطا ہونے والی نہ تھی۔ اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے۔ اور ہر تنگی کے ساتھ کشادگی اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

Abul Abbas Abdullah bin Abbas se riwayat hai ke ek din main Rasoolullah ﷺ ke peeche khacchar par baitha tha ke aap ne farmaya: aye ladke! Main tumhe chand batein sikhatu hoon. Tum Allah ta'ala (ke deen) ki hifazat karo wo tumhari hifazat karega, tum Allah (ke deen) ki hifazat karo tum use apne saamne paoge aur jab bhi tum sawal karo to sirf Allah ta'ala se sawaal karo aur jab madad chaho to sirf Allah ta'ala se madad chaho, aur jaan lo ke agar sab log milkar tujhe koi faeda pahunchane ke liye jama hojaein to koi faeda nahi pahuncha sakte magar itna hi jo Allah ne tumhare liye likh rakha hai, aur agar sab log tumhein nuqsan pahunchane ke liye jama hojaein to tumhein koi nuqsan nahi pahuncha sakenge magar itna hi jo Allah ne tumhare liye likh rakha hai. Qalmein utha li gaein hain aur (lauhe mahfooz ke) safhaat khushk ho chuke hain. Aur ek doosri hadees me hai: Allah ta'ala (ke deen) ki hifazat karo, tum Allah ta'ala ko apne saamne paoge. Khush haali me Allah ko yaad rakho wo tumhe tangi me yaad rakhega aur jaan lo ke jo musibat tum se khata hogae wo tumhe pahunchne waali hi na thi aur jo musibat tumhein pahunchi wo tum se khata hone waali no thi. Aur jaan lo ke madad sabar ke saath milti hai. Aur har tangi ke saath kushaadgi aur har mushkil ke saath aasaani hai.

On the authority of Abul Abbas Abdullah bin Abbas raziyallahu anhu, who said : One day I was behind the prophet ﷺ and he said to me: "Young man, I shall teach you some words [of advice] : Be mindful of Allah, and Allah will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. If you ask, ask of Allah; if you seek help, seek help of Allah. Know that if the Nation were to gather together to benefit you with anything, it would benefit you only with something that Allah had already prescribed for you, and that if they gather together to harm you with anything, they would harm you only with something Allah had already prescribed for you. The pens have been lifted and the pages have dried." In a version other than that of Tirmithi it reads: "...Be mindful of Allah, you will find Him before you. Get to know Allah in prosperity and He will know you in adversity. Know that what has passed you by was not going to befall you; and that what has befallen you was not going to pass you by. And know that victory comes with patience, relief with affliction, and ease with hardship."

مختارات الأربعين النووية

(17) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْجَحْ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ". [صحيح البخاري: 3483]

ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری جو بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک پہلے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو کچھ سمجھا وہ بس یہ تھا کہ جب تم میں حیاء نہ رہی تو جو جی چاہے کرتے پھرو۔

Abu Masood Uqba Bin Amr Ansaari Badri raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya: beshak pahle logo ne ambiya alaihimissalaam ke kalaam se jo kuch samjha wo bas ye tha ke jab tum me haya na rahi to jo ji chahe karte phiro.

Abu Masood Uqbah bin Amre Al-Ansari raziyallahu anhu narrated that the messenger of Allah said : "Among the words people obtained from the First Prophecy are : If you feel no shame, then do as you wish."

(18) عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَيْلٍ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُ". [صحيح مسلم: 38]

ابو عمرو - یا - ابو عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا - مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتادیں جس کے بعد مجھے کسی سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہ ہو - (تو رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر استقامت اختیار کر۔

Abu Amr ya Abu Amrah Sufyaan Bin Abdullah raziyallahu anhu se riwayat hai maine rasoolullah ﷺ se arz kiya: mujhe islam ke baare me ek aisi baat bata dein jiske baad mujhe kisi se mazed poochne ki zarurat na ho. To rasoolullah ﷺ ne farmaya: kah mai Allah par eemaan laaya aur uspar istiqamat ikhtiyaar kar.

On authority of Sufian bin Abdullah raziyallahu anhu said: I said: "O Messenger of Allah ﷺ, tell me something about Islam which I can ask of no one but you». He said: Say: 'I believe in Allah', and thereafter be upright."

(19) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَرِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ". [صحيح مسلم: 15]

ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: جب میں فرض نمازیں ادا کر لوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: ہاں۔

Abu Abdullah Jaber Bin Abdullah raziyallahu anhu se riwayat hai k ek shakhs ne Rasoolullah ﷺ se sawaal kiya: jab main farz namazein ada karloo aur ramazan ke roze rakhoo aur halaal ko halaal aur haraam ko haraam janoo aur isse zyada kuch na karoo to kya main jannat me dakhil hojaonga? Rasoolullah ﷺ ne farmaya: haa.

Abu Abdullah Jaber bin Abdullah Al-Ansari raziyallahu anhu narrated that : A man asked the Messenger of Allah ﷺ : "Do you think that if I perform the obligatory prayers, fast in Ramadan, treat as lawful that which is lawful and treat as forbidden that which is forbidden, and do nothing further, I shall enter Paradise ?" He said: "Yes."

مختارات الأربعين النووية

(20) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الظَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ -أَوْ: تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا". [صحيح مسلم: 223]

ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے اور الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا ترازو کے پلڑے کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں بھر دیتا ہے، اور نماز نور ہے اور صدقہ برہان ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن کریم تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر شخص صبح ہوتے ہی اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ اب یا تو وہ (اچھے عمل سے) اس کو آزاد کروالے گا یا (برے عمل سے) اس کو تباہ کر لے گا۔

Abu Maalik Haaris bin Aasim Ashaari raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya : pakizgi eemaan ka ek hissa hai aur Alhamdulillah kahna mizaan ko bhar deta hai aur SubhanAllah aur Alhamdulillah kahna tarazu ke palde ko jo aasmaano aur zameen ke darmiyaan hain bhar deta hai, aur namaz noor hai aur sadqa burhaan hai aur sabar roshni hai aur Qur'an tumhare haq me ya tumhare khilaaf hujjat hai. Har shakhs subah hote hi apni jaan ka sauda karta hai. Ab ya to wo ache amal se usko azaad karwaalega ya bure amal se usko tabaah karlega.

On the authority of Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ashari raziyallahu anhu said that the Messenger of Allah ﷺ said: "Purity is half of faith. alhamdu-lillah [Praise be to Allah] fills the scales, and subhana-Allah [How far is Allah from every imperfection] and alhamdu-lillah [Praise be to Allah] fill that which is between heaven and earth. Prayer is light; charity is a proof; patience is illumination; and the Quran is an argument for or against you. Everyone starts his day and is a vendor of his soul, either freeing it or bringing about its ruin."

Arshad Basheer Madani Notes

(21) عَنْ أَبِي دَرِّ الْعِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَزُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالُمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَابِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُحْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَجْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَجْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُضُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ بِهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ". [صحيح مسلم: 2577].

مختارات الأربعين النووية

ابو ذر عفراری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے بندو! بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر وہ جس کو میں ہدایت عطا کر دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کپڑے پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم رات دن غلطیاں کرنے والے ہو اور میں تمہارے سب گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ پس مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو! تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن تم میں سے پرہیزگار ترین شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو وہ میری مملکت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک فاسق و فاجر ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو وہ میری مملکت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے موافق عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی مگر جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس (سمندر) کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ صرف تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن لیتا ہوں پھر تم کو ان پر پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو کوئی بھلائی پائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو کوئی اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔

Abu Zar ghiffaari raziyallahu anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne Allah ta'ala se riwat karte hue farmaaya: aye mere bando! Beshak maine apne nafs par zulm ko haraam kardiya hai aur use tumhare darmiyaan bhi haraam qaraar dediya hai. Pas ek doosre par zulm na karo. Aye mere bando! Tum me se har ek gumraah hai magar wo jisko mai hidayat ata kardoo, pas tum mujh se hidayat talab karo, mai tumhe hidayat doonga. Aye mere bando! Tum me se har ek nanga hai magar jisko mai kapde pahnaadoo. Tum mujh se libaas talab karo mai tum ko kapde pahnaonga. Aye mere bando! Tum raat din ghaltiye karne waale ho aur mai tumhare sab gunaah maaf karne waala hoo. Pas mujh se bakhshish talab karo, mai tum ko maaf kardoonga. aye mre bando! Tum me itni taaqat nahi ke tum mujhe nuqsaan pahuncha sako aur na tum me itni taaqat hai ke mujhe nafa pahuncha sako. Aye mere bando! Agar tumhare agle aur pichle tamaam insaan aur jin, tum me se parhezgaar tareen shakhs ke dil jaise ho jaein to wo meri mamlakat me kuch bhi izaafa nahi karsakte. Aye mere bando! Agar tumhare agle pichle tamaam insaan aur jin ek faasiq wa faajir tareen shakhs ke dil ki tarah hojaein to wo meri mamlakat me koi kami nahi karsakte. Aye mere bando! Agar tumhare agle aur pichle tamaam insaan aur jin ek maidaan me jama hojaein aur mujh se sawaal karein aur mai har ek ko uske sawaal ke muwafiq ata kardoo to mere khazaano me kisi qisam ki kami nahi hogi magar jis tarah soe ko samandar me dubone se is samandar ke paani me kami aati hai. Aye mere bando! Ye sirf tumhare a'maal hi hain jinhe mai tumhare liye gin leta hoo phir tum ko unpar poora poora badla doonga to jo koi bhalaee paae wo Allah ka shukr ada kare aur jo koi uske bar'aks paae to wo apne nafs ke alaawa kisi ko malaamat na kare.

On the authority of messenger of Allah ﷺ, Allah said : O My servants, you will not attain harming Me so as to harm Me, and you will not attain benefiting Me so as to benefit Me. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you to become as pious as the most pious heart of any one man of you, that would not increase My kingdom in anything. O My servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that would not decrease My kingdom in anything. O My servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you to rise up in one place and make a request of Me, and were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have, any more than a needle decreases the sea if put into it.

مختارات الأربعين النووية

(22) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا، "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ". [صحيح مسلم: 1006]

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اصحاب رسول ﷺ نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اہل ثروت ہم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس طرح کے صدقہ کے مواقع فراہم نہیں کئے۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور ہر بار الحمد للہ کہنا صدقہ ہے۔ ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تم میں سے ایک شخص کے لیے اپنی بیوی سے جماع کرنے میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرے تو اس پر (گناہ کا) بوجھ ہو گا یا نہیں؟ تو اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر ہے۔

Abu Zar raziyallahu anhu se hi riwayat hai ke ba'z ashaabe rasool ne Aap ﷺ se arz kiya ke aye Allah ke rasool! Ahle sarwat ham se ajr wa sawaab me aage badh gae. Wo isi tarah namaz padhte hain jis tarah ham padhte hain, wo isi tarah roze rahte hain jis tarah ham roze rakhte hain aur wo apne zaed amwaal me se sadqa karte hain. Farmaya: kya Allah ne tumhare liye is tarah ke sadq ke mawaqe' faraaham nahi kiye? Tumhare liye har dafa subhaanAllah kahna sadqa hai aur har dafa Allahu Akbar kahna sadqa hai aur har baar Alhamdulillah kahna sadqa hai. Har baar Laa ilaah illallaah kahna sadqa hai aur buraae se rokna sadqa hai aur tum me se ek shakhs ke liye apni biwi se jimaa karne me sadqa hai. Sahaba ne arz kiya: aye Allah ke rasool, ham me se koi apni shahwat poori karta hai to kya us par bhi use ajar milta hai? Rasoolullah ﷺ ne farmaya: kya tum dekhte nahi ke agar wo apni shahwat haraam tareeqe se poori kare to us par gunaah ka bojh hoga ya nahi? To isi tarah agar wo halaal tareeqe se shahwat poori karta hai to us me us ke liye ajar hai.

On the authority of Abu Dharr raziyallahu anhu: Some of the companions of the Messenger of Allah ﷺ said: "O Messenger of Allah, the affluent have made of with the rewards, they pray as we pray they fast as we fast, and they give away in charity the superfluity of their wealth." He said: "Has not Allah made things for you to give away in charity? every tasbihah is a charity, every takbirah is a charity, every tahmidah is a charity, and every tahlilah is a charity, to enjoin a good action is a charity, to forbid an evil action is a charity, and in the sexual act of each of you there is a charity." They said: "O Messenger of Allah, when one of us fulfils his sexual desire will he have some reward for that?" He said: "Do you not think that were he to act upon it unlawfully he would be sinning? Likewise, if he has acted upon it lawfully he will have a reward."

(23) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ". (صحيح البخاري: 2989، صحيح مسلم: 1009)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ آپ دو فریقوں کے درمیان عدل کریں تو یہ صدقہ ہے۔ اور آپ کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دیں یا اس کا سامان سواری پر رکھو ادیں تو یہ صدقہ ہے اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور نماز کے لیے ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں یہ صدقہ ہے اور آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ شے ہٹادیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔

مختارات الأربعين النووية

Abu Huraira raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne irshad farmaya: har din jisme suraj nikalta hai insan ke jism ke har har jod par sadqa wajib hota hai. Aap do fareeqo ke darmiyaan adl karein to ye sadqa hai. Aur aap kisi aadmi ko sawaar hone me madad dein ya iska samaan sawaari par rakhwadein to ye sadqa hai aur achi baat kahna sadqa hai aur namaz ke liye har qadam jo aap uthate hain ye sadqa hai aur raaste se koi takleef-dah shae hata dein to ye bhi sadqa hai.

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu, who said: The messenger of Allah ﷺ said : “Each person’s every joint must perform a charity every day the sun comes up : to act justly between two people is a charity; to help a man with his mount, lifting him onto it or hoisting up his belongings onto it is a charity: a good word is a charity, every step you take to prayers is a charity and removing a harmful thing from the road is a charity.”

(24) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهَتْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" {زَوَاهُ مُسْلِمٌ} وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، أَلْبِرُّ مَا اظْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ". {صحيح مسلم: 2553 - مسند احمد: 4/227، الدارمي: 2/246}

نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات میں کراہت محسوس کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے) اور وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: کیا تو میرے پاس نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اپنے دل سے فتویٰ پوچھ۔ نیکی وہ ہے جس سے تیرا نفس اور دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے سینے میں تردد پیدا کرے، چاہے لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ ہی کیوں نہ دیتے رہیں۔

Nawas bin sam' aan raziyallahu anhu se riwat karte hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: neki husne akhlaaq ka nam hai aur gunah wo hai jo tumhare dil me khatke aur tum is baat me karaahat mahsoos karo ke log is par muttale' hon. Aur waabisah bin ma'bad se riwayat hai: mai rasoolullah ﷺ ke paas aaya to aap ne farmaya: Kya tu mere paas neki ke baare me sawaal karne ke liye aaya hai? Maine arz kiya: haa. Aap ﷺ ne farmaya: apne dil se fatwa pooch. Neki wo hai jis se tera nafs aur dil mutma'in rahe aur gunah wo hai jo tere dil me khatke aur tere seene me taraddud paida kare, chaahе log tujhe iske jawaaz ka fatwa hi kyu na dete rahein.

On the authority of Al-Nawwas bin Samaan raziyallahu anhu, that the prophet said: “Righteousness is good morality, and wrongdoing is that which wavers in your soul and which you dislike people finding out about.” And on the authority of Wabisa bin Mabad, may Allah be pleased with him, who said: I came to the messenger of Allah and he said: “You have come to ask about righteousness ? ” . I said: “ Yes.” He said: “Consult your heart. Righteousness is that about which the soul feels tranquil and the heart feels tranquil, and wrongdoing is that which wavers in the soul and moves to and from in the breast even though people again and again have given you their legal opinion [in its favor].”

(25) عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ". (سنن أبي داود: 4607، سنن الترمذي: 266 - وصححه الالباني في صحيح الجامع: 2549)

مختارات الأربعين النووية

ابو نوح العرْباض بن ساريه رضى الله عنه سے روایت ہے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل دہل گئے اور آنکھیں بھگی گئیں۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (ﷺ) آپ کی نصیحت کسی الوداع ہونے والے شخص کی نصیحت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا: میں تم کو اللہ عزوجل کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سماع و طاعت کی (وصیت کرتا ہوں) اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی امیر بن جائے۔ تم میں سے جو لمبی عمر پائے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ لہذا تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس (سنت) کو اپنے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ خبردار! دین میں نئے کاموں (بدعات) سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

Abu Najeeh Irbaaz bin saariyah raziyallahu anhu se riwayat hai kaha: Rasoolullah ﷺ ne ek roz hamein nasihat farmae jisse hamare dil dahel gae aur aankhein bheeg gaein. Ham ne arz kiya: aye Allah ke rasool aap ki nasihat kisi alwidaa' hone waale shakhs ki nasihat ma'loom hoti hai. Lehaaza hamein wasiyat kijiye. Aap ne farmaya: mai tum ko Allah ka taqwa ikhtiyaar karne ki wasiyat karta hoon aur sama' wa ta'at ki wasiyat karta hoo agarche tumhare oopar koi ghulaam hi ameer ban jaae. Tum me se jo lambi umar paega wo bohat se ikhtilafaat dekhega. Lehaaza tum par meri sunnat aur hidayat yaafta khulafa rashideen ki sunnat par amal karna wajib hai. Is sunnat ko apne daadho se pakde rahna. Khabardaar deen me nae kaamo (bid'aat) se bach kar rahna, is liye ke har bid'at gumraahi hai.

On the authority of Abu Najih Al-Erbadh bin Sariah raziyallahu anhu, who said :The messenger of Allah ﷺ gave us a sermon by which our hearts were filled with fear and tears came to our eyes. We said: "O Messenger of Allah, it is as though this is a farewell sermon, so counsel us." He said: «I counsel you to fear Allah and to give absolute obedience even if a slave becomes your leader. Verily he among you who lives [long] will see great controversy, so you must keep to my sunnah and to the sunnah of the rightly-guided Khalifahs - cling to them stubbornly. Beware of newly invented matters, for every invented matter is an innovation and every innovation is a going astray.»

26) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: «إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَإِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ». (سنن ابن ماجه: 4102 - وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة: 944)

ابو عباس سہل بن سعد الساعدي رضى الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے، جسے کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تو دنیا سے بے پروا ہو جا اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور اس چیز سے بے نیاز ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔

Abul Abbas Sahal Bin Sa'ad Saa'idi raziyallahu anhu se riwayat hai, farmaate hain: ek aadmi Nabi ﷺ ki khidmat me haazir hua aur arz kiya: Aye Allah ke Rasool ﷺ Mujhe aise amal ki khabar dijiye, jise karne se Allah bhi mujh se muhabbat kare aur log bhi mujh se muhabbat karein. Nabi ﷺ ne farmaya: tu dunya se be-parwaah hoja Allah tujh se muhabbat karega aur us cheez se be-niyaaaz hoja jo logo ke paas hai log tujh se muhabbat karne lagenge.

On the authority of Abul Abbas Sahl bin Saad Al-Saedi, who said : A man came to the prophet and said: "O Messenger of Allah ﷺ, direct me to an act which, if I do it, [will cause] Allah to love me and people to love me." He said: "Renounce the world and Allah will love you, and renounce what people possess and people will love you."

الأربعون النووية

(27) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " .
(سنن ابن ماجه: 2341، الدار قطنی: 4/228، المؤطا: 2/746 - وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة: 250)

حدیث حسن، زوآہ ابن ماجہ راجع والدآرقطنی وغیرہما مسندآ. وزوآہ مالک فی "الموطأ" عن عمرو بن یحیی عن أبیه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

ابوسعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو پہنچاؤ۔ ابوسعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو پہنچاؤ۔

Abu Sayeed Sa'd bin sinaan khudri raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Na nuqsan uthao aur na kisi ko pahunchao.

On the authority of Abu Sayeed Saad bin Malik Al-Khudari raziyallahu anhu, that the messenger of Allah ﷺ said :
"There should be neither harming nor reciprocating harm." a fine hadith related by Ibn Majah, Al-Daraqutni and others

(28) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ أَلْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ " . (البيهقي: 10/252، وَبَعْضُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (صحيح البخاري: 4552،

صحيح مسلم: 1711))

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق دینا شروع کر دیا جائے تو لوگوں کے دوسروں کے خلاف (نا جائز طور پر) مال اور خون کے داوے دائر کر دیں گے لیکن (عدل یہ ہے کہ) مدعی دلیل پیش کرے اور مدعی علیہ اگر (دعویٰ کی صداقت سے) انکار کرے تو قسم اٹھائے۔

Ibne Abbas raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Agar logo ko unke da'wo ke mutaabiq dena shuru kar diya jae to log doosro ke khilaaf naajaez taur par maal aur khoon ke daawe daaer kardenge laikin adl ye hai ke mudda'ee daleel pesh kare aur mudda'a alaih agar da'we ki sadaqat se inkaar kare to qasam uthae.

On the authority of Ibn Abbas raziyallahu anhu that the Messenger of Allah ﷺ said: "Were people to be given in accordance with their claim, men would claim the fortunes and lives of [other] people, but the onus of proof is on the claimant, and the taking of an oath is incumbent upon him who denies."

(29) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزِّزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " . [صحيح مسلم: 49]

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے جو شخص برائی ہوتے دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر (ہاتھ سے روکنے کی) سکت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے (اس کو برا جانے) اور یہ کمزور ترین ایمان (کی علامت) ہے۔

الأربعون النووية

Abu Saeed Khudri raziyallahu anhu se riwayat hai kaha: Maine Rasoolullah ko farmate hue suna : Tum me se jo shakhs buraee hote dekhe, use chahiye ke wo use apne haath se roke, agar haath se rokne ki sakat na ho to zubaan se roke, agar uski bhi taaqat na ho to dil se usko bura jaane aur ye kamzor tareen eemaan ki alamat hai.

On the authority of Abu Saeed Al-Khurdari raziyallahu anhu, who said: I heard the messenger of Allah say: "Whosoever of you sees an evil action, let him change it with his hand; and if he is not able to do so, then with his tongue; and if he is not able to do so, then with his heart; and that is the weakest of faith."

(30) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضًا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ." [صحيح مسلم: 2564]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، (دوسرے مسلمان کو پھنسانے کی غرض سے) اشیاء کے دام نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ نہ کرے۔ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ تقویٰ اس جگہ ہے (یہ کہتے ہوئے) آپ نے تین بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے براہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔

Abu Huraira raziyallahu anhu se riwayat hai kaha: Rasoolullah ﷺ ne farmaya: ek doosre se hasad na karo, (doosre musalmaan ko phansaane ki gharz se) ashyaa ke daam na badhao, ek doosre se boghz na rakho, ek doosre ki peeth piche buraee na karo, tum me se koi apne bhai ki bae par bae na kare. Allah ke bando! Aapas me bhai bhai ban jaao. Ek musalman doosre musalman ka bhai hai. Wo na zulm karta hai, na usko tanha chodta hai, na usse jhoot bolta hai aur na usko haqeer jaanta hai. Taqwa is jaga hai (ye kahte hue) aapne teen baar apne seene ki taraf ishaara farmaya. Aadmi ke bura hone ke liye itni baat kaafi hai ke wo apne musalman bhai ko apne se kamtar jaane. Har musalman par doosre musalman ka khoon, uska maal aur uski izzat wa aabru haraam hai.

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu, who said : the messenger of Allah ﷺ said : "Do not envy one another; do not inflate prices one to another; do not hate one another; do not turn away from one another; and do not undercut one another, but be you, O servants of Allah, brothers. A muslim is the brother of a muslim: he neither oppresses him nor does he fail him, he neither lies to him nor does he hold him in contempt. Piety is right here-and he pointed to his breast three times. It is evil enough for a man to hold his brother muslim in contempt. The whole of a muslim for another muslim is inviolable: his blood, his property, and his honor."

الأربعون النووية

(31) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". [صحيح مُسْلِم بهذا اللفظ: 2699]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مؤمن کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس پر روز قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف کم کر دے گا اور جس نے کسی کے لیے مشکل میں آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔

Abu Huraira raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya: Jis ne kisi mummin ki dunyawī takaleef me se koi takleef door ki Allah ta'ala us par roze qayamat ki takaleef me se ek takleef kam kardega aur jisne kisi ke liye mushkil me aasaani paida ki Allah ta'ala uske liye dunya aur aakhirat me aasaani paida karega. Aur jisne kisi musalman ki parda-poshi ki Allah ta'ala uske liye dunya aur aakhirat me uski parda-poshi karega. Jab koi banda apne bhai ki madad me rahta hai tab Allah ta'ala us bande ki madad me rahta hai aur jo shakhs ilm haasil karne ke liye kisi raah par chala Allah ta'ala uske liye jannat ka raasta aasaan kardeta hai. Aur jab koi qaum Allah ke kisi ghar me ekattha hoti hai Allah ki kitab ki tilawat karti hai aur use aapas me padhti jaati hai to un par sakeenat ka nuzool hota hai aur unko rahmat dhaanp leti hai aur farishte unhe gher lete hain aur Allah apne paas maujood farishto me unka zikr karta hai. Jis ka amal use peeche karde us ka nasab use aage nahi le jaa sakta.

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu that the Prophet ﷺ said: "Whosoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove from him one of the griefs of the Day of Judgment. Whosoever alleviates [the lot of] a needy person, Allah will alleviate [his lot] in this world and the next. Whosoever shields a Muslim, Allah will shield him in this world and the next. Allah will aid a servant [of His] so long as the servant aids his brother. Whosoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him a path to Paradise. No people gather together in one of the houses of Allah, reciting the Book of Allah and studying it among themselves, without tranquility descending upon them, mercy enveloping them, the angels surrounding them, and Allah making mention of them amongst those who are with Him. Whosoever is slowed down by his actions will not be hastened forward by his lineage."

الأربعون النووية

(32) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُرْوَاهُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً". (صحيح البخاري: 6491، صحيح مسلم: 131)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی: جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر اس نے ارادہ کیا پھر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس سے سات سو تک بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کئی گنا تک نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی برائی لکھتا ہے۔

Ibne Abbas raziyallahu anhu se riwayat hai: Rasoolullah ﷺ ne Apne Rab tabaark wa ta'ala se riwayat kiya hai: Beshak Allah ne nekiya aur buraeyya likhi hain. Phir uski wazahat is tarah farmaae: jis kisi ne neki ka irada kiya laikin us par amal nahi kiya to Allah ta'ala us ko apne haa ek mukammal neki likh leta hai aur agar usne irada kiya phir amal bhi kar liye to Allah ta'ala usko das se saat sau tak balke usse bhi badh kar kae gun tak nekiyaa likh deta hai. aur agar wo buraee ka irada karta hai aur uske mutabiq amal nahi karta to Allah ta'ala usko ek mukammal neki likh deta hai. Aur agar wo buraee ka irada karne ke baad us par amal bhi kar leta hai to Allah ta'ala usko ek hi buraee likhta hai.

On the authority of Ibn Abbas raziyallahu anhu that the messenger of Allah ﷺ, among the sayings he relates from his Lord is: "Allah has written down the good deeds and the bad ones." Then he explained it [by saying that]: "He who has intended a good deed and has not done it, Allah writes it down with Himself as a full good deed, but if he has intended it and has done it, Allah writes it down with Himself as from ten good deeds to seven hundred times, or many times over. But if he has intended a bad deed and has not done it, Allah writes it down with Himself as a full good deed, but if he has intended it and has done it, Allah writes it down as one bad deed."

(33) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ". [صحيح البخاري: 6508]

الأربعون النووية

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، ان میں میرے علد کردہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے محبوب نہیں۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو ضرور اس کو عطاء کروں گا۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔

Abu Hurairah raziyallahu anhu se riwayat hai kaha: Rasoolullah ﷺ ne farmaya: beshak Allah Ta'ala ka farmata hai: jisne mere kisi dost se dushmani ki mai uske khilaaf e'laane jang karta hoo aur mera banda jin cheezo ke zarye mera taqarrub haasil karta hai, un me mere aaid karda faraez se badh kar koi cheez mujhe mahboob nahi. Aur mera banda nawafil ke zarye mera taqarrub haasil karta rahta hai yahaa tak ke mai us se muhabbat karne lagta hoo. Phir jab mai usse muhabbat karta hoo to uska kaan hojaata hoo jisse wo sunta hai aur uski aankh hojaata hoon jisse wo dekhta hai aur uska haath ban jaata hoo jisse wo pakadta hai, aur uski taang ban jaata hoo jisse wo chalta hai. Ab agar wo mujh se sawaal karega to zaroor us ko ata karoonga. Aur agar wo mujh se panaah chaahe to mai zaroor usko panaah doonga.

On the authority of Abu Hurairah raziyallahu anhu, who said: the messenger of Allah ﷺ said: Allah the Almighty has said: "Who soever shows enmity to a friend of Mine, I shall be at war with him. My servant does not draw near to Me with anything more loved by Me than the religious duties I have imposed upon him, and My servant continues to draw near to Me with supererogatory works so that I shall love him. When I love him I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask [something] of Me, I would surely give it to him and were he to ask Me for refuge, I would surely grant him it."

(34) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِيَّ عَنْ أُمَّيِّبِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ". (سنن ابن ماجه: 2045، البيهقي: 7 - وصححه الالباني في صحيح الجامع: 1836)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے خطا، بھول چوک اور مجبوری کی حالت میں کیے گئے کاموں سے درگزر فرمائی ہے۔

Ibne Abbas raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: beshak Allah Ta'ala ne meri khaatir meri ummat se khata, bhoool chook aur majboori ki haalat me kiye gae kaamo se dar-guzar farmaee hai.

On the authority of Ibn Abbas raziyallahu anhu that the messenger of Allah ﷺ said: "Allah has pardoned for me my people for [their] mistakes and [their] forgetfulness and for what they have done under duress."

(35) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. [صحيح البخاري: 6416]

الأربعون النووية

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر اور بیماری سے پہلے صحت کو نعمت جان اور موت سے پہلے زندگی کو۔

Ibne Umar raziyallahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne mera haath pakda aur farmaaya: dunya me is tarah hoja jaise tu pardesi ya raah chalta musafir. Aur ibne umar raziyallahu anhu farmate hain jab tu shaam karle to subah ka intizaar na kar aur jab subah karle to shaam ka intizaar na kar aur bimaari se pahle sahet ko ghanimat jaan aur maut se pahle zindagi ko.

On the authority of Abdullah bin Omar, who said: The messenger of Allah ﷺ took me by the shoulder and said: "Be in the world as though you were a stranger or a wayfarer." The son of Omar used to say: "At evening do not expect [to live till] morning, and at morning do not expect [to live till] evening. Take from your health for your illness and from your life for your death."

(36) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً". (سنن الترمذي: 3540 - وصححه الالباني في صحيح الجامع: 4338)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تب تک میں تیرے تمام گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم! اگر تو میرے پاس زمین کی وسعت کے برابر خطائیں لے کر اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔

Anas bin Malik raziyallahu anhu se riwayat hai ke Main ne Rasoolullah ﷺ ko farmate hue suna: Allah Ta'ala farmata hai: aye ibne aadam! Jab tak tu mujhe pukaarta rahega aur mujhse umeed rakhega tab tak mai tere gunaah maaf karta rahoonga aur mujhe iski koi parwaah nahi. Aye ibne Aadam! Agar tere gunaah aasmaan ki bulandi tak pahunch jaein phir tu mujh se maghfirat talab kare to mai tujhe maaf kardoonga. Aye ibne aadam! Agar tu mere paas zameen ki wus'at ke baraabar khataein le kar is haal me aae ke tu ne mere saath kuch bhi shareek na kiya ho to mai itni hi maghfirat le kar tere paas aaonga.

On the authority of Anas raziyallahu anhu, who said: I heard the messenger of Allah ﷺ say: Allah the Almighty has said: "O son of Adam, so long as you call upon Me and ask of Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I would forgive you. O son of Adam, were you to come to Me with sins nearly as great as the earth and were you then to face Me, ascribing no partner to Me, I would bring you forgiveness nearly as great as its."

Part - 3

- حروفِ الهجاء • Arabic Alphabet
- الحروف العربية مع الأمثلة • Arabic Alphabet with Examples
- الحيوانات • Animals
- الخضروات • Vegetables
- الفواكه • Fruits
- العصير والسلطة • Al-Aseer was-Saltah
- الأعداد • The Numerals
- ألوان • Colors
- المواد الغذائية • Food
- كلمات حول الفطور • Words Regarding the Breakfast
- الموسم • Season
- بيت • House
- أسماء حسنى • Beautiful Names of Allah
- أنواع العلماء للعلوم العصرية • Types of Scientist
- أجزاء من الجسم • Parts of the Body
- المهن والوظائف • Professions and Jobs
- أنواع الاطباء والاختصاصيين • Types of Doctors
- الأضداد • Opposites



Learning Through



VOLUME
1

GOOD

NEWS

For Nursery, LKG & UKG Students

EASY
TECHNIQUES OF **Memorising**
ARABIC VOCABULARY

Total
313
Words

➤ Prepared and Recited by ◀◀

SHAIKH ARSHAD BASHEER UMERI MADANI

MBA, Pursuing Ph.D from Switzerland
Founder & Director - AskIslamPedia.com

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes
Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS



حروف الهجاء


Arabic Alphabet




AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes




AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes



الحروف العربية مع الأمثلة
Arabic Alphabet
With **Examples**



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



إِبِلٌ



أَرْزَبٌ

ا

الف



بَقَرَةٌ



بَاطِرٌ

ب

باء

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



تَيْنٌ



تَمْرٌ

تَاء

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



تَيَّابٌ



تَمْرَاتٌ

تَاء

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



جِسْمٌ

ج



جَمَلٌ

جِمْ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



حُوتٌ

ح



حَمَامَةٌ

حَاء

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



خَيْلٌ

خ



خَوْخٌ

خَاء



دِرْهَمٌ

د



دَارٌ

دال



ذَيْبٌ



ذ



ذُرَّةٌ

ذال



رَجُلٌ

راء



رِيْشَةٌ

راء



زَيْتُونٌ

ز



زَهْرَةٌ

زَاء



سُنْبُلٌ

س



سَمَكَةٌ

سِين





شَجَرَةٌ

ش



شَمْعَةٌ

شَيْن



صَوْمٌ

ص



صَبَاحٌ

صَاد



ضَوْءٌ

ض



ضَفْدَعٌ

ضاد



طَيْرٌ

ط



طَرِيقٌ

طاء



ظَلُّ

ظ



ظَرَفُ

ظاء



عِنْبُ

ع



عَيْنُ

عين



مُغْرَابٌ



غَزَالٌ

غ

غين



فَيْلٌ



فَأْرَةٌ

ف

فاء



قَمَرٌ

ق



قَلَمٌ

قاف



كِتَابٌ

ك



كَلْبٌ

كاف

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



لَبَنٌ

ل



لَيْلٌ

لام

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



مَسْجِدٌ

ح



مَكْتَبٌ

حيم

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



نَبِيٌّ



نَمْرٌ

نُون



هِلَالٌ



هِدِيَّةٌ

هَاء

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



وَزْنٌ

و



وَرْدَةٌ

واو

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



يَوْمٌ

ي



يَدٌ

ياء





AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

 Dog کتا	الْكَلْبُ KALB	 Cat بلی	الْقِطُّ QIT
 Cow گائے	الْبَقَرَةُ BAQARAH	 Mouse چوہا	الْفَأْرُ FA'R

 Alligator مگرچھ	الْتِّمْسَاحُ TIMSAAH	 Horse گھوڑا	الْفَرَسُ FARAS
 Bird چڑیا	الطَّائِرُ TAA'ER	 Rabbit خرگوش	الْأَرْنَبُ ARNAB

 Falcon باز / شاهین / شکره	الصَّقْرُ SAQR	 Bear رینچھ	الدُّبُّ DUBB
 Giraffe ثراف	الزَّرَافَةُ ZARAFAH	 Elephant ہاتھی	الفِیْلُ FEEL

 Monkey بندر	الْقِرْدُ QIRD	أَلْبَبْرُ AL-BABRU
الْأَسَدُ ASAD	 Snake سانپ	الْحَيَّةُ HAYYAH

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

الْخَضِرَاتُ

Vegetables



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

		 <small>ASKISLAMEDIA ARSHAD BASHEER MADANI FOUNDATION Free Online Islamic Education</small>
Bataatis البَطَاطِيسُ	Tamatim الطَّمَاتِيمُ	Sabaanikh السَّبَانِيخُ
POTATO	TOMATO	SPINACH
آلو	ٹماٹر	پالک

		 <small>ASKISLAMEDIA ARSHAD BASHEER MADANI FOUNDATION Free Online Islamic Education</small>
Khiyaar الْخِيَارُ	Jazar الْجَزْرُ	Kurumbun الْكُرْمُبُنُ
CUCUMBER	CARROT	CABBAGE
کھیرا	گاجر	گو بھی

 Soomun الثُّومُ	 Basal البَصَلُ	 Khas الخَسُّ
GARLIC	ONIONS	LETTUCE
لهسن	پیاز	کاہو کے پتے

 Fool الفُولُ	 Baazinjaan البَاذِنْجَانُ	 Baazillaa البَاذِلَاءُ
BEANS	BRINJAL	PEAS
لوبیا	بیگن	مٹر

 Fulful الفُلْفُلُ	 Fuji الفُجْلُ	 Banjar البَنْجَرُ
PEPPER	RADISHES	BEETROOT
کالی مرچ	موی	چقندر

 Lift اللِّفْتُ	 Zurah الذُّرَّةُ	 Baamiyah البَامِيَّةُ
TURNIP	CORN	LADY FINGER
شلغم	مکئی	بھنڈی

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes

الْفَوَاكِهُ

Fruits



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Orange سنتره BURTUQAAL	 Mango آم MAANJU
 Apple سيب TUFAAHAH	 Date كجور TAMR

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Fig انخير TEEN	 Muskmelon خربوزه SHAMMAAM
 Banana موز MAUZ	 Watermelon تربوز BITTEEKH

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Mishmish المِشْمِشُ	 Burqooq البُرْقُوقُ	 Inab العِنَبُ
APRICOT	PLUM	GRAPE
خوبانی	آلو بخارا	انگور

 Kummasra الكُمَّسْرَى	 Farawilah الفَرَاوِلَةُ	 At-toot اَلتُّوتُ
PEAR	STRAWBERRIES	BLACKBERRY
ناشپاتی	اسٹرابیری	کامونیا

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes

العصير والسلطة

Al-Aseer Was-Saltah



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



عَصِيرُ لَيْمُونٍ



Lemon Juice

لیموں کا شربت

**ASEERU
LAIMOON**



عَصِيرُ بَطِيخٍ



**Watermelon
Juice**

تربوز کا شربت

**ASEERU
BITTEEKH**



Mango Juice

آم کا شربت

عَصِيرُ مَانْجُو

ASEERU
MAANJU



Apple Juice

سیب کا شربت

عَصِيرُ تَفَّاحَةٍ

ASEERU
TUFFAAHAH



عَصِيرُ أَنَانَايس



Pineapple Juice

اناناس کا شربت

**ASEERU
ANANAAS**



سَلْطَةُ خِيَارٍ



Cucumber Salad

کھیرا سلاد

**SALTATU
KHIYAAR**

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



سَلْطَةُ كُرُنْبٍ



Cabbage Salad

گوبھی سلاد

**SALTATU
KURUNB**

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes

الْأَعْدَادُ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

The Numerals



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

 Two دو	اِثْنَانِ ISNAAN	 One ايك	وَاحِدٌ WAAHID
 Four چار	أَرْبَعَةٌ ARBA'AH	 Three تين	ثَلَاثَةٌ SALAASAH

 Six چھ	سِتَّةٌ SITTAH	 Five پانچ	خَمْسَةٌ KHAMSAH
 Eight آٹھ	ثَمَانِيَةٌ SAMAANIYAH	 Seven سات	سَبْعَةٌ SAB'AH

 Ten دس	عَشْرَةَ ASHARAH	 Nine نو	تِسْعَةَ TIS'AH
--	-----------------------------------	--	----------------------------------


ASK ISLAM PEDIA
KATAHATI SUNI ISLAMIC INDONESIAN
Free Online Islamic Encyclopedia



AskIslamPedia
Arshad Bashir Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS



ألوان

AskIslamPedia
Arshad Bashir Madani Notes

Colors



AskIslamPedia
Arshad Bashir Madani Notes

 Black کالا	أَسْوَدُ ASWAD	 Red لال	أَحْمَرُ AHMAR
 Gray سرمئی	رَمَادِي RAMADEE	 White سفید	أَبْيَضُ ABYAZ

 Green ہرا	أَخْضَرُ AKHZAR	 Blue نیلا	أَزْرَقُ AZRAQ
 Purple جامنی	بَنَفْسَاجِي BANAFSAJEE	 Brown بھورا	أَسْمَرُ ASMAR

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Orange نارنگی	 بُرْتُقَالِي BURTUQALEE	 Pink گلابی	 وَرْدِي WARDI
 Turquoise فیروزہ	 فَيْرُوزِي FAEROZI	 Yellow پیلا	 أَصْفَرُ ASFAR

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes



البيوات الغذائية **FOOD**







AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Breakfast ناشتہ	فُطُورُ FUTOOR	 Food غذاء	غِذَاءُ GHIZAA
 Dinner عشاء	عِشَاءُ ASHAA	 Lunch ظہرانہ	غِذَاءُ GHADAA

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Fish مچھلی	سَمَكُ SAMAK	 Chicken چکن	دَجَاجُ DAJAJ
 Salad سلاد	سَلْطَةٌ SALTAH	 Meat گوشت	لَحْمُ LAHM

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Chapatti روٹی	 خُبْزُ KHUBZ	 Sandwich سینڈویچ	 شَطِيرَةٌ SHATEERAH
 Onion پیاز	 بَصَلُ BASAL	 Cheese مکھن	 جُبْنُ JUBNUN

 Vegetables ترکاریاں	 خَضْرَاوَاتُ KHAZRAWAAT	 Fruits میوے	 فَاكِهَةٌ FAAKIHAAH
 Carrot گاجر	 جَزْرُ JAZAR	 Candy حلوا	 حَلْوَى HALWA

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes

كلمات حول الفطور

WORDS REGARDING THE

Breakfast

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



اَلْقَهْوَةُ



Coffee کافی **AL-QAHWAH**



اَلشَّايُ



Tea چائے **ASH-SHAAY**



اللَّبَنِ



Milk دودھ

AL-LABAN



الزُّبْدَةُ



Butter پنیر

AZ-ZUBDATU



الْمُرَبَّبِي



Jam جام

AL-MURABBA



الْبَيْضُ



Egg انڈا

AL-BAIZ

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes

الربيع

Season

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Cloudy ابر آلود	غَائِمٌ GHAAEM	 Rain بارش	مُمْطِرٌ MUMTIRUN
 Weather موسم	الْأَحْوَالُ الْجَوِّيَّةُ AL-AHWAL AL-JAWWIYYAH	 Windy آندھی	عَاصِفٌ AASIF

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Sunny دھوپ	مُشْمِسٌ MUSHMIS	 Hot گرم	حَارٌّ HAAR
 Cold سردی	بَارِدٌ BAARID	 Snowing برفباری	مُثَلِجٌ MUSLIJ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Spring موسم بهار	الرَّبِيعُ AR-RABEE	 Summer موسم گرما	الصَّيْفُ AS-SAEF
 Autumn موسم خزاں	الخَرِيفُ AL-KHAREEF	 Winter موسم سرما	الْشِّتَاءُ ASH-SHITAA

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes



بیت

House



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Room کمرہ	غُرْفَةٌ GHURFA	 House گھر	بَيْتٍ BAIT
 Window کھڑکی	نَافِذَةٌ NAAFIZAH	 Bathroom حمام	حَمَّامٌ HAMMAAM

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Wall دیوار	حَائِطٌ HAAET	 Toilet بیت الخلاء	مِرْحَاضٌ MIRHAAS
 Bedroom سونے کا کمرہ	غُرْفَةُ نَوْمٍ GHURFATU NAUM	 Kitchen باورچی خانہ	مَطْبَخٌ MATBAKH

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 Roof چھت	سَطْحُ SATH	 Ceiling چھت	سَقْفُ SAQF
 Restaurant ریسٹوران	مَطْعَمُ MAT'AM	 Floor فرش	طَابِقُ TAABAQ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Good News for
NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS

Arshad Basheer Madani Notes

الله

اسماء حسنیٰ
99 Beautiful Names of

Arshad Basheer Madani Notes

Allaah



ASK ISLAM PEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 <p>ASK ISLAM PEDIA Author: ARSHAD BASHEER MADANI Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>2 الرَّحِيمُ</p> <p>AR-RAHEEMU THE ESPECIALLY MERCIFUL</p> <p>نہایت رحم کرنے والا</p>	<p>1 الرَّحْمَنُ</p> <p>AR-RAHMAANU THE ENTIRELY MERCIFUL</p> <p>بڑا مہربان</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA Author: ARSHAD BASHEER MADANI Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>5 السَّلَامُ</p> <p>AS-SALAAMU THE ONE FREE FROM ALL DEFECTS/ THE GIVER OF PEACE</p> <p>سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں</p>	<p>4 الْقُدُّوسُ</p> <p>AL-QUDDOOSU THE SACRED / THE ABSOLUTELY PURE</p> <p>نہایت پاک</p>	<p>3 الْمَلِكُ</p> <p>AL-MALIKU THE KING</p> <p>پادشاہ</p>	

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 <p>ASK ISLAM PEDIA Author: ARSHAD BASHEER MADANI Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>7 الْمُهَيَّمِنُ</p> <p>AL-MUHAIMINU THE WATCHER OVER HIS CREATION/ THE GUARDIAN OF FAITH</p> <p>نگہبان / نگاہ</p>	<p>6 الْمُؤْمِنُ</p> <p>AL-MU'MINU THE GIVER OF SECURITY / THE GUARDIAN</p> <p>امن دینے والا</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA Author: ARSHAD BASHEER MADANI Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>10 الْمُتَكَبِّرُ</p> <p>AL-MUTAKABBIRU THE SUPREME / THE PROUD</p> <p>بڑائی والا</p>	<p>9 الْجَبَّارُ</p> <p>AL-JABBAARU THE COMPELLER</p> <p>زور آور اور ہر دست</p>	<p>8 الْعَزِيزُ</p> <p>AL-AZEEZU THE ALL-MIGHTY</p> <p>قاب</p>	

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 <p>12</p> <p>الْبَارِئُ</p> <p>AL-BAARI'AU</p> <p>THE EVOLVER / THE INVENTOR OF ALL THE THINGS / THE MAKER</p> <p>جود بخشنے والا</p>	 <p>11</p> <p>الْخَالِقُ</p> <p>AL-KHALIQU</p> <p>THE CREATOR</p> <p>پیدا کرنے والا</p>	
<p>15</p> <p>الْآخِرُ</p> <p>AL-AAKHIRU</p> <p>THE LAST</p> <p>آخر</p>	<p>14</p> <p>الْأَوَّلُ</p> <p>AL-AWWALU</p> <p>THE FIRST</p> <p>اول</p>	<p>13</p> <p>الْمُصَوِّرُ</p> <p>AL-MUSAWWIRU</p> <p>THE FASHIONER / THE BESTOWER OF FORMS</p> <p>صورت بنانے والا</p>

 <p>17</p> <p>الْبَاطِنُ</p> <p>AL-BAATINU</p> <p>THE MOST NEAR / THE HIDDEN (THE ONE WHO KNOWS ALL HIDDEN THINGS)</p> <p>باطن</p>	 <p>16</p> <p>الظَّاهِرُ</p> <p>AZ-ZAAHIRU</p> <p>THE EVIDENT / THE MOST HIGH (NOTHING IS ABOVE HIM)</p> <p>سب سے اونچا جس پر کوئی نہیں</p>	
<p>20</p> <p>الْمَوْلَى</p> <p>AL-MAULA</p> <p>THE PROTECTOR</p> <p>مالک اور مددگار</p>	<p>19</p> <p>الْبَصِيرُ</p> <p>AL-BASEERU</p> <p>THE ALL-SEER</p> <p>دیکھنے والا</p>	<p>18</p> <p>السَّمِيعُ</p> <p>AS-SAMEE'AU</p> <p>THE ALL-HEARER</p> <p>سننے والا</p>

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 <p>ASK ISLAM PEDIA LATEST AND BEST ISLAMIC INFORMATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>22 الْعَفْوُ AL-AFUWU EVER OFT-PARDONING بہت مہربان کرنے والا</p>	<p>21 النَّصِيرُ AN-NASEERU THE EXCELLENT HELPER بہت مدد کرنے والا</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA LATEST AND BEST ISLAMIC INFORMATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>25 الْخَبِيرُ AL-KHABEERU THE WELL-ACQUAINTED بہت باخبر</p>	<p>24 الْلَطِيفُ AL-LATEEFU THE MOST KIND AND COURTEOUS باریک بین اظہاف واکرم والا</p>	<p>23 الْقَدِيرُ AL-QADEERU THE POTENT / THE POWERFUL / THE CAPABLE قدرت والا</p>	

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 <p>ASK ISLAM PEDIA LATEST AND BEST ISLAMIC INFORMATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>27 الْجَمِيلُ AL-JAMEELU THE GRACEFUL / THE MOST BEAUTIFUL حسن والا</p>	<p>26 الْوِتْرُ AL-WITRU ALLAH IS AL-WITR (ONE) اکیلا</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA LATEST AND BEST ISLAMIC INFORMATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>30 الْكَبِيرُ AL-KABEERU THE MOST GREAT کبریائی والا</p>	<p>29 السِّتِيرُ AS-SITTEERU THE ONE CHARACTERISED BY CONCEALMENT پردہ ڈالنے والا</p>	<p>28 الْحَيِيُّ AL-HAYIYU THE ONE CHARACTERIZED BY MODESTY پاکیا</p>	

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

 <p>32</p> <p>الْوَّاحِدُ</p> <p>AL-WAAHIDU</p> <p>THE ONE</p> <p>ایک</p>	 <p>31</p> <p>الْمُتَعَالُ</p> <p>AL-MUTA'AALU</p> <p>THE TRANSCENDENT / THE MOST HIGH</p> <p>بلند</p>	
<p>35</p> <p>الْمُبِينُ</p> <p>AL-MUBEENU</p> <p>THE MANIFEST TRUTH</p> <p>واضح کرنے والا</p>	<p>34</p> <p>الْحَقُّ</p> <p>AL-HAQQU</p> <p>THE TRUTH</p> <p>حق</p>	<p>33</p> <p>الْقَهَّارُ</p> <p>AL-QAHHAARU</p> <p>THE SUBDUER</p> <p>ظاہر کرنے والا</p>

 <p>37</p> <p>الْمَتِينُ</p> <p>AL-MATEENU</p> <p>THE DURRANT / THE MOST STRONG / THE FIRM</p> <p>زور آور</p>	 <p>36</p> <p>الْقَوِيُّ</p> <p>AL-QAWIYYU</p> <p>THE ALL POWERFUL</p> <p>قادر</p>	
<p>40</p> <p>الْعَلِيُّ</p> <p>AL-ALIYYU</p> <p>THE MOST HIGH / THE SUBLIME</p> <p>بلند</p>	<p>39</p> <p>الْقَيُّومُ</p> <p>AL-QAYYOOMU</p> <p>THE DOMINATING / THE SUSTAINER</p> <p>یہ خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے</p>	<p>38</p> <p>الْحَيُّ</p> <p>AL-HAYYU</p> <p>THE EVER LIVING ONE</p> <p>زندہ</p>

 <p>42 الشَّكُورُ ASH-SHAKOORU THE MOST APPRECIATIVE قدوران</p>	 <p>41 الْعَظِيمُ AL-AZEEMU THE MOST GREAT / THE MIGHTY عظمت والا</p>	
<p>45 الْعَلِيمُ AL-ALEEMU THE ALL-KNOWER باجر</p>	<p>44 الْوَاسِعُ AL-WAASI'AU THE ALL-SUFFICIENT / THE VAST مشاور</p>	<p>43 الْحَلِيمُ AL-HALEEMU THE MOST FORBEARING بردار</p>

 <p>47 الْحَكِيمُ AL-HAKEEMU THE ALL-WISE نهایت حکمت والا</p>	 <p>46 التَّوَّابُ AT-TAWWAABU THE ONE WHO ACCEPTS REPENTANCE بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا</p>	
<p>50 الْأَحَدُ AL-AHADU THE ONE یک</p>	<p>49 الْكَرِيمُ AL-KAREEMU THE BOUNTIFUL / THE MOST GENEROUS کرم کرنے والا</p>	<p>48 الْغَنِيُّ AL-GHANIYYU THE RICH ONE (FREE OF ALL WANTS) THE SELF SUFFICIENT پے پڑے</p>

	<p>52 الْقَرِيبُ AL-QAREEBU THE CLOSE / THE ONE NEAR TO ALL BY HIS KNOWLEDGE قريب</p>	<p>51 الصَّمَدُ AS-SAMADU THE SELF-SUFFICIENT / THE ABSOLUTE / EVERYONE IS DEPENDENT UPON HIM BUT HE DOES NOT DEPEND ON ANYONE. بے نیاز</p>	
<p>55 الْوَدُودُ AL-WADOODU THE AFFECTIONATE مہبت کرنے والا</p>	<p>54 الْغَفُورُ AL-GHAFOORU THE OBT-FORGIVING / THE REMITTER / THE PROTECTOR مغفرت کرنے والا</p>	<p>53 الْمُجِيبُ AL-MUJEEBU THE RESPONDER / THE ANSWERER قبول کرنے والا جواب دینے والا</p>	

	<p>57 الْحَمِيدُ AL-HAMEEDU THE ONE WORTHY OF ALL PRAISE تقریبوں والا</p>	<p>56 الْوَلِيُّ AL-WALIYYU THE HELPER / THE SUPPORTER / THE LORD قريب مددگار</p>	
<p>60 الْفَتَّاحُ AL-FATTAHU THE REVEALER / THE JUDGE / THE OPENER بند کھولنے والا کھولنے والا</p>	<p>59 الْمَجِيدُ AL-MAJEEDU THE GLORIOUS بڑی شان والا</p>	<p>58 الْحَفِیْظُ AL-HAFEEZU THE MAINTAINER / THE GUARDIAN / THE PROTECTOR حفاظت کرنے والا</p>	

 <p>ASK ISLAM PEDIA www.askislampedia.com Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>62 الْمُقَدِّمُ AL-MUQADDIMU THE BRINGER-FORWARD / THE EXPEDITER آگے کرنے والا</p>	<p>61 الشَّهِيدُ ASH-SHAHEEDU THE WITNESS گواہ</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA www.askislampedia.com Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>65 الْمُقْتَدِرُ AL-MUQTADIRU THE OMNIPOTENT اقتدار والا</p>	<p>64 الْمَلِكُ AL-MALEEKU THE KING بادشاہ</p>	<p>63 الْمُؤَخِّرُ AL-MU'AKH'KHIRU THE DELAYER تھمے کرنے والا</p>	

 <p>ASK ISLAM PEDIA www.askislampedia.com Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>67 الْقَابِضُ AL-QAABI'DHU THE ONE WHO WITH HOLDS / THE TAKER OF SOULS & PROVISION / THE RETAINER تنگی سے رزق دینے والا</p>	<p>66 الْمُسَعِّرُ AL-MUSA'IRU THE ONE WHO RAISES, INCREASES & DECREASES THROUGH HIS WILL قیمتوں کو طے کرنے والا</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA www.askislampedia.com Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>70 الْقَاهِرُ AL-QAAHIRU THE IRRESISTIBLE قابِ ایزدیت</p>	<p>69 الرَّازِقُ AR-RAAZIQU THE SUSTAINER / THE BEST OF SUSTAINERS رزق دینے والا</p>	<p>68 الْبَاسِطُ AL-BAASITU THE ONE WHO GIVES LAVISHLY / THE MUNIFICENT کشادگی عطا کرنے والا</p>	

 <p>ASK ISLAM PEDIA LITIGATION, TALK, TEACHING, TUTORIALS FROM Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>72 الشَّاكِرُ ASH-SHAAKIRU THE RECOGNIZER AND REWARDER OF GOOD قدر دان</p>	<p>71 الدَّيَّانُ AD-DAYYAANU THE ONE WHO JUDGES PEOPLE FOR THEIR DEEDS AFTER CALLING THEM TO ACCOUNT پرہیز دینے والا</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA LITIGATION, TALK, TEACHING, TUTORIALS FROM Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>75 اَلْخَلَّاقُ AL-KHALLAAQU THE SUPREME CREATOR پیدا کرنے والا</p>	<p>74 اَلْقَادِرُ AL-QAADIRU THE POTENT / THE POWERFUL قدرت رکھنے والا</p>	<p>73 اَلْمَنَّانُ AL-MANNAANU THE BESTOWER OF FAVOURS بہنوہ لہانے والا</p>	

 <p>ASK ISLAM PEDIA LITIGATION, TALK, TEACHING, TUTORIALS FROM Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>77 اَلرَّزَّاقُ AR-RAZZAAQU THE ALL-PROVIDER / THE SUSTAINER رزق دینے والا / داتا</p>	<p>76 اَلْمَالِكُ AL-MAALIKU THE MASTER AND OWNER OF THE DOMINION مالک</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA LITIGATION, TALK, TEACHING, TUTORIALS FROM Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>80 اَلْمُحْسِنُ AL-MUHSINU BENEFICIENT احسان کرنے والا</p>	<p>79 اَلرَّقِيبُ AR-RAQEEBU THE ALL-WATCHER / THE VIGILANT نگہبان</p>	<p>78 اَلْوَكِيلُ AL-WAKEELU THE BEST DISPOSER OF AFFAIRS کارساز</p>	

 <p>ASK ISLAM PEDIA LAWRENCE FOR ISLAMIC EDUCATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>82 الشَّافِي ASH-SHAAFIYU THE HEALER شفا دہنے والا</p>	<p>81 الْحَسِيبُ AL-HASEEBU THE CAREFUL ACCOUNT TAKER OF ALL THINGS/ THE SUFFICER گنجان اور حساب لینے والا / کافی</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA LAWRENCE FOR ISLAMIC EDUCATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>85 الْمُقِيتُ AL-MUQEETU THE MOST ABLE/ THE POWERFUL THE SUSTAINER سب کو غذا دینے والا</p>	<p>84 الْمُعْطِي AL-MU'TIYU THE GIVER عطا کرنے والا / داتا</p>	<p>83 الرَّفِيقُ AR-RAFEEQU THE ALL-KIND قربی کہنے والا</p>	

 <p>ASK ISLAM PEDIA LAWRENCE FOR ISLAMIC EDUCATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>	<p>87 الطَّيِّبُ AT-TAYYIBU THE PURE پاک</p>	<p>86 السَّيِّدُ AS-SAYYIDU THE MASTER مردار</p>	 <p>ASK ISLAM PEDIA LAWRENCE FOR ISLAMIC EDUCATION Free Online Islamic Encyclopedia</p>
<p>90 الْبَرُّ AL-BARRU THE MOST SUBTLE, KIND, COURTEOUS AND GENEROUS خوب رقوم و کرم والا / بردا مومن</p>	<p>89 الْأَكْرَمُ AL-AKRAMU THE MOST GENEROUS خوب عطا کرنے والا / معزز</p>	<p>88 الْحَكَمُ AL-HAKAMU THE JUDGE فیصلہ کرنے والا</p>	

<p>92 الرَّءُوفُ</p> <p>AR-RAOOFU</p> <p>THE ONE WHO IS FULL OF KINDNESS</p> <p>شفقت و رحم کرنے والا</p>	<p>91 الْغَفَّارُ</p> <p>AL-GHAFFAARU</p> <p>THE OFT-FORGIVING</p> <p>بڑا بخشنے والا</p>
<p>94 الْجَوَادُ</p> <p>AL-JAWAADU</p> <p>THE BESTOWER OF GOOD</p> <p>خوب عطا کرنے والا</p>	<p>93 الْوَهَّابُ</p> <p>AL-WAHHAABU</p> <p>THE BESTOWER</p> <p>بڑا عطا کرنے والا</p>

<p>96 الْوَارِثُ</p> <p>AL-WAARISU</p> <p>THE INHERITOR</p> <p>جنتی مالک</p>	<p>95 السُّبُّوحُ</p> <p>AS-SUBBOOHU</p> <p>THE PERFECT</p> <p>بے عیب</p>	
<p>99 الْإِلَٰهُ</p> <p>AL-ILAAHU</p> <p>THE GOD</p> <p>حقیقی معبود</p>	<p>98 الْأَعْلَى</p> <p>AL-A'LAA</p> <p>THE MOST HIGH / THE HIGHEST</p> <p>اوپر</p>	<p>97 الرَّبُّ</p> <p>AR-RABBU</p> <p>THE LORD</p> <p>پالنے والا اور پروردگار</p>

أنواعُ العُلَمَاءِ لِلْعُلُومِ العَصْرِيَّةِ

TYPES OF SCIENTIST



المُهَنْدِسُ الزَّرَاعِي

The Agronomist

1

2

الفَلَكِي

The Astronomer





Arshad Basheer Madani Notes

عَالِمُ النَّبَاتِ

The Botanist

3

4

عَالِمُ الْخَلَايَا

The Cytologist



AskIslamPedia



عَالِمُ الْأُوبِيَّةِ

The Epidemiologist

5

6

عَالِمُ الْوَرَاثَةِ

The Geneticist



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



الجِئُولُوجِي

The Geologist

7

الجُغْرَافِي

The Geographer

8



AskIslamPedia

البَحْرِي

The Marine

9



عَالِمُ الأَرْضَادِ

The Meteorologist

10



Arshad Basheer Madani Notes



عَالِمُ الْأَحْيَاءِ الْمِجْهَرِيَّةِ

11

The Microbiologist

12

عَالِمُ الْحَفْرِيَّاتِ

The Paleontologist



AskIslamPedia



عَالِمُ الزَّلَازِلِ

13

The Seismologist

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

أجزاء من الجسم PARTS OF THE BODY

شَعْرٌ HAIR	2	1	رَأْسٌ HEAD
عَيْنٌ EYE	4	3	وَجْهٌ FACE

ASK ISLAM PEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

اَفْمُر

MOUTH

6

اَنْف

NOSE

5

اَذُن

EAR

8

سِن

TOOTH

7



لِسَان

TONGUE

10

شَفَاة

LIP

9

ذِفْن

CHIN

12

خَدَاة

CHEEK

11



لِحْيَةٌ

14

BEARD

13

شَارِبٌ

MUSTACHE

حَاجِبٌ

16

EYEBROW

15

جَبْهَةٌ

FOREHEAD



ذِرَاعٌ

18

ARM

17

كَفٌّ

PALM

يَدٌ

20

HAND

19

مِرْفَقٌ

ELBOW



PART - 2

سُرَّةُ
NAVEL

صَدْرُ
CHEST

يُسْرَى
LEFT

يُمْنَى
RIGHT

1

2

3

4

ASKISLAMEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

قَلْبٌ

HEART

6

مِعْدَةٌ

STOMACH

5

دَمٌ

BLOOD

8

مِخْ

BRAIN

7



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

فَخِذٌ

THIGH

10

رُكْبَةٌ

KNEE

9

عَقِبٌ

HEEL

12

اَنْكَبٌ

ANKLE

11



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

الْمِهَنُ وَالْوِزَائِفُ PROFESSIONS & JOBS

2	مِيكَانِيكِي MECHANIC	1	مُزَارِعٌ (فَلَّاحٌ) FARMER
4	بِنَاءٌ (بَانِيٌّ) BUILDER	3	أَسْتَاذٌ (مُعَلِّمٌ) TEACHER

6

نَجَّارٌ

CARPENTER

5

جَزَّارٌ

BUTCHER

8

طَاهٍ

CHEF

7

أَمِينُ الصُّنْدُوقِ

CASHIER

10

دُكْتُورُ الْأَسْنَانِ

DENTIST

9

مُنْظِفٌ

CLEANER

12

عَامِلُ الْكَهْرِبَاءِ

ELECTRICIAN

11

طَبِيبٌ

DOCTOR

14

رَجُلُ الْإِطْفَاءِ

FIREMAN

13

مُهَنْدِسٌ

ENGINEER

16

حَلَّاقٌ
(مُصَفِّ الشَّعْرِ)

HAIRDRESSER/BARBER

15

مُضِيْفَةٌ طَيْرَان

FLIGHT ATTENDANT

18

كَهْرَبَائِيٌّ

ELECTRICIAN

17

طَبَّاحٌ

COOK

20

عَامِلُ الْمَصْنَعِ

FACTORY WORKER

19

مُؤَلِّفٌ

AUTHOR

22

مُغَنِّي

SINGER

21

كَاتِبٌ

CLERK

24

رَجُلٌ أَعْمَالٍ

BUSINESS MAN

23

رَبَّةُ الْبَيْتِ

HOME. MAKER

26

قَاضِيٌ

JUDGE

25

صَحَافِيٌ

JOURNALIST

28



عَازِفٌ

MUSICIAN

27

مُحَامِيٌ

LAWYER



38

سِكْرَتِير (مُسَاعِدٌ)

SECRETARY

37

عَالِمُ الطَّبِّ

SCIENTIST

40

فَتَى

TECHNICIAN

39

خَيَّاطٌ

TAILOR

42

لَحَّامٌ

WELDER

41

نَادِلٌ

WAITER



ASK ISLAM PEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia



AskIslamPedia

Arshad Bashoor Madani Notes



طَبِيبُ الْأَطْفَالِ The Pediatrician

3

4

طَبِيبُ الْأَعْصَابِ The Neurologist



AskIslamPedia

Arshad Bashoor Madani Notes



طَبِيبُ الْأَسْنَانِ The Dentist

5

6

أَخْصَائِي الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْحَنْجَرَةِ The ENT Specialist





أَحْصَايِ السَّمْعِيَّاتِ

7

The Audiologist

8

طَبِيبُ الْحَسَّاسِيَّةِ

The Allergist



طَبِيبُ التَّخْدِيرِ

9

The Anesthesiologist

10

طَبِيبُ الْجُلْدِيَّةِ

The Dermatologist



Arshad Basheer Madani Notes
طَبِيبُ النِّسَاءِ وَالْوِلَادَةِ

11

The Gynecologist

عَالِمُ الْمَنَاعَةِ

12

The Immunologist

عَالِمُ الْأَحْيَاءِ الدَّقِيقَةِ

13

The Microbiologist

جَرَّاحُ الْأَعْصَابِ

14

Neurosurgeon



طَبِيبُ الأَوْرَامِ
The Oncologist

15

16

جَرَّاحُ العِظَامِ
The Orthopedic Surgeon



الفِسيُولُوجِي
The Physiologist

17

18

جَرَّاحُ التَّجْمِيلِ
The Plastic Surgeon





الطَّيِّبُ النَّفْسِيّ
The Psychiatrist

19

20

أَخْصَائِي الْأَشْعَّةِ
The Radiologist



طَبِيبُ الرُّومَاتِيْزِمِ
The Rheumatologist

21

22

طَبِيبُ الْمَسَالِكِ الْبَوْلِيَّةِ
The Urologist





AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
Near « قَرِيبٌ »

3

Far « بَعِيدٌ »

4

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Tall « طَوِيْلٌ »

5

Short « قَصِيْرٌ »

6

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
Obove « فَوْقَ

7

Below « تَحْتَ

8

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

First « أَوَّلُ

9

Last « آخِرُ

10

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

New « جَدِيدٌ

11

12

Old « قَدِيمٌ

Little/Few « قَلِيلٌ

13

14

And More/
Many « كَثِيرٌ

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
Infrafront « **أَمَامَ**

15

16 Behind « **وَرَاءَ**

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Open « **مَفْتُوحٌ**

17

18 Close « **مُغْلَقٌ**

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
In « دَاخِلٌ »

19

20

Out « خَارِجٌ »

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Slow « بَطِيءٌ »

21

22

Fast « سَرِيْعٌ »

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

White « أَيْضُ

23

Black « أَسْوَدُ

24

Fat « سَمِينُ

25

Slim « هَزِيْلُ

26

Surah's Names & Numbers/سورتوں کے نام اور نمبر

ENGLISH TRANSLATION	اُردو ترجمہ	ROMAN ENG.	سورة	شمار
The Opener	آغاز	Al Faatihah	سورة الفاتحة	1
The Cow	گائے	Al Baqarah	سورة البقرة	2
The Family of Imran	عمران کی اولاد	Al Imran	سورة آل عمران	3
The Women	خواتین	An Nisaa	سورة النساء	4
The Table Spread	دستر خوان	Al Maaidah	سورة المائدة	5
The Cattle	مویشی	Al An'aam	سورة الأنعام	6
The Heights	بلندی	Al Araaf	سورة الأعراف	7
The Spoils of War	مال غنیمت	Al Anfaal	سورة الأنفال	8
The Repentance	توبہ	At Tawbah	سورة التوبة	9
Jonah	یونس علیہ السلام	Yunus	سورة یونس	10
Hood	ھود علیہ السلام	Hood	سورة ھود	11
Joseph	یوسف علیہ السلام	Yusuf	سورة یوسف	12
The Thunder	بجلی	Ar Ra'd	سورة الرعد	13
Ibrahim	ابراہیم علیہ السلام	Ibrahim	سورة ابراهیم	14
The Rocky Tract	پتھر	Al Hijr	سورة الحجر	15
The Bee	شہد کی مکھی	An Nahl	سورة النحل	16
The Night Journey/ Bani Israeel	رات کا سفر / بنی اسرائیل	Al Isra / Bani Israeel	سورة الإسراء / بنی اسرائیل	17
The Cave	غار	Al Kahf	سورة الكهف	18
Mary	مریم علیہا السلام	Maryam	سورة مریم	19
Ta Ha	طہ	Ta Ha	سورة طہ	20
The Prophets	انبیاء علیہم السلام	Al Anbiyaa	سورة الأنبياء	21
The Pilgrimage	حج	Al Hajj	سورة الحج	22
The Believers	مومن بندے	Al Mu'minoon	سورة المؤمنون	23
The Light	نور	An Noor	سورة النور	24
The Criterion	فرق کرنے والی	Al Furqaan	سورة الفرقان	25
The Poets	شاعر (جمع)	Ash Shu'araa	سورة الشعراء	26
The Ant	چیونٹی	An Naml	سورة النمل	27
The Stories	قصے	Al Qasas	سورة القصص	28
The Spider	مکڑی	Al Ankaboot	سورة العنكبوت	29
The Romans	ملک روم	Ar Room	سورة الروم	30
Luqman	لقمان	Luqman	سورة لقمان	31
The Prostration	سجدہ	As Sajdah	سورة السجدة	32
The Combined Forces	لشکر	Al Ahzaab	سورة الأحزاب	33
Saba	سبأ	Saba	سورة سبأ	34
The Originator	پیدا کرنے والا	Fatir	سورة فاطر	35
Ya Seen	یس	Yaa Seen	سورة یس	36
Those who set the Ranks	صف باندھنے والے	As Saaffaat	سورة الصافات	37
The letter Saad	ص	Saad	سورة ص	38

Surah's Names & Numbers/سورتوں کے نام اور نمبر

ENGLISH TRANSLATION	اُردو ترجمہ	ROMAN ENG.	سورة	شمار
The Troops	گروہ گروہ	Az Zumar	سورة الزمر	39
The Forgiver /Believer	بخشنے والا / مومن	Ghafir / Al Mu'min	سورة غافر / المؤمن	40
Explained in Detail	تفصیل کرنے والی	Fussilat / Haa meem As-Sajdah	سورة فضلت / حم السجدة	41
The Consultation	مشورہ	Ash-Shura	سورة الشورى	42
The Ornaments of Gold	سونے کے بالا خانے	Az Zukhruf	سورة الزخرف	43
The Smoke	دھواں	Ad Dukhan	سورة الدخان	44
The Crouching	گھٹنوں پر گرنے والی	Al Jaasiyah	سورة الجاثية	45
Sand Hills	ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ	Al Ahqaaf	سورة الأحقاف	46
Muhammad	محمد ﷺ	Muhammad	سورة محمد	47
The Victory	کامیابی	Al Fath	سورة الفتح	48
The Rooms	کمرے	Al Hujuraat	سورة الحجرات	49
The Letter Qaf	ق	Qaaf	سورة ق	50
The Winnowing Wind	کھیرنے والی ہوائیں	Az-Zaariyaat	سورة الذاریات	51
The Mount	طور (پہاڑ کا نام)	At Toor	سورة الطور	52
The Star	ستارے	An Najm	سورة النجم	53
The Moon	چاند	Al Qamar	سورة القمر	54
The Beneficent	بڑا مہربان	Ar Rahman	سورة الرحمن	55
The Inevitable	واقع ہونے والی	Al Waaqi'ah	سورة الواقعة	56
The Iron	لوہا	Al Hadid	سورة الحديد	57
The Pleading Woman	جھگڑا کرنے والی عورت	Al Mujadalah	سورة المجادلة	58
The Exile	جمع ہونے کا دن	Al Hashr	سورة الحشر	59
That Which Examines	امتحان لینے والی	Al Mumtahinah	سورة الممتحنة	60
The Ranks	صف	As Saff	سورة الصف	61
Friday	جمعہ	Al Jumu'ah	سورة الجمعة	62
The Hypocrites	منافق (جمع)	Al Munafiqoon	سورة المنافقون	63
The Mutual Disillusion	نقصان اٹھانا	At Taghabun	سورة التغابن	64
The Divorce	طلاق	At Talaaq	سورة الطلاق	65
The Prohibition	حرام	At Tahreem	سورة التحريم	66
The Sovereignty	بادشاہت	Al Mulk	سورة الملك	67
The Pen	قلم	Al Qalam	سورة القلم	68
The Reality	سچ مچ ہونے والی	Al Haaqqah	سورة الحاقة	69
The Ascending Stairways	درجات، سیڑھیاں	Al Ma'aarij	سورة المعارج	70
Noah	نوح علیہ السلام	Nooh	سورة نوح	71
The Jinn	جن	Al Jinn	سورة الجن	72
The Enshrouded One	کپڑے میں لپٹنے والا	Al Muzzammil	سورة المزمل	73
The Cloaked One	کپڑا اوڑھنے والا	Al Muddassir	سورة المدثر	74
The Resurrection	قیامت	Al Qiyaamah	سورة القيامة	75
The Man or the Time	انسان / وقت	Al Insan / Ad Dahar	سورة الإنسان / الدهر	76

سورتوں کے نام اور نمبر / Surah's Names & Numbers

ENGLISH TRANSLATION	اُردو ترجمہ	ROMAN ENG.	سورة	شمار
The Emissaries	چلنے والیاں	Al Mursalaat	سورة المرسلات	77
The Great News	خبر	An Nabaa	سورة النبأ	78
Those who Drag Forth	سختی سے کھینچنے والے	An Nazi'aat	سورة النازعات	79
He Frowned	ترش رو ہوا	Abasa	سورة عبس	80
The Wrapping	پیٹ لینا	At Takweer	سورة التكویر	81
The Cleaving	پھٹ جانا	Al Infitaar	سورة الانفطار	82
The Defrauding	ناپ تول میں کمی کرنے والے	Al Mutaffifeen	سورة المطففين	83
The Sundering	پھٹ پڑنا	Al Inshiqaaq	سورة الانشقاق	84
The Mansions of the Stars	ستاروں کی منزلیں	Al Burooj	سورة البروج	85
The Night comer	اندھیرے میں روشن ہونے والا	At Taariq	سورة الطارق	86
The Most High	بلند	Al Aa'la	سورة الأعلى	87
The Overwhelming	چھپالینے والی	Al Ghashiyah	سورة الغاشية	88
The Dawn	فجر	Al Fajr	سورة الفجر	89
The City	شہر	Al Balad	سورة البلد	90
The Sun	سورج	Ash-Shams	سورة الشمس	91
The Night	رات	Al Layl	سورة الليل	92
The Morning Hours	چاشت کا وقت	Az Zuha	سورة الضحی	93
The Opening up	کھولنا	Ash Sharh / Al Inshiraah / Alam Nashrah	سورة الشرح / الانشراح / المنشرح	94
The Fig	انجیر	At Teen	سورة التين	95
The Clot	خون کا لوتھڑا	Al Alaq	سورة العلق	96
The Decree	قدر	Al Qadr	سورة القدر	97
The Clear Evidence	ظاہر دلیل	Al Bayyinah	سورة البينة	98
The Earthquake	زلزلہ	Az-Zalzalah / Az zilzaal	سورة الزلزلة / الزلزال	99
The Courser	تیز رو گھوڑے	Al 'Aadiyat	سورة العاديات	100
The Calamity	کھڑکھڑا دینے والی	Al Qari'ah	سورة القارعة	101
The Rivalry in World Increase	زیادتی	At Takaasur	سورة التكاثر	102
The Time	وقت	Al Asr	سورة العصر	103
The Traducer	عیب ٹٹولنے والا	Al Humazah	سورة الهمة	104
The Elephant	ہاتھی	Al Feel	سورة الفيل	105
Quraysh	قریش	Quraysh	سورة قريش	106
The Small Kindness	عام چیزیں	Al Ma'oon	سورة الماعون	107
A Name of the Pond	کوثر (ایک حوض کا نام)	Al Kawsar	سورة الكوثر	108
The Disbelievers	کافر (جمع)	Al Kafiroon	سورة الكافرون	109
The Divine Support	مدد	An Nasr	سورة النصر	110
The Palm Rope/ Flame	مضبوط بیٹی ہوئی رسی / شعلے	Al Masad / Al Lahab	سورة المسد / اللهب	111
The Sincerity	اخلاص	Al Ikhlas	سورة الإخلاص	112
The Daybreak	صبح	Al Falaq	سورة الفلق	113
The Mankind	لوگ	An Nas	سورة الناس	114



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



Introduction of

Arshad Basheer Madani

Founder & Director-AskIslamPedia.com
Founder Ocean The ABM School
Abmcourses.com

+91-92906 21633



www.Askmadani.com



Askmadani@gmail.com



Date of Publishing: 17-10-2018

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

- ▶ Masha'Allaah age 40 years, born and brought up in Hyderabad, India
- ▶ Hafiz, Memorized entire Holy Qur'an
- ▶ Languages Known – Arabic, English, Urdu, Hindi and Persian
- ▶ Alim from University of Dar-us-Salaam, Umerabad, Tamil Nadu, India Graduated in the field of Hadees-e-Shareef (Taqaassus-Fil-Hadees) from the Islamic University in Madinah Tayyibah, Kingdom of Saudi Araiba
- ▶ Master in Business Administration – MBA from ICBM College HYD
- ▶ First Indian Alim of the Islamic University of Madinah to receive a Master's Degree in contemporary Education in English Language i.e. MBA .
- ▶ Masha'Allaah pursuing Ph.D (Doctorate in Business Administration) from the University of Switzerland in Europe
- ▶ Has Ejaza for Qur'an and Kutube Sitta (Six Books of Sunnah)
- ▶ Director of the following Indian companies - ABM Corporate Enterprises, ABM Publishers, ABM Print Time, ABM Academics & Logistics, ABM Faabee Tech, ABM Auctus, Ocean The ABM School, Abmcourses.com
- ▶ International Speaker on Islamic topics with Comparative Religion and Q&A sessions



DAWAH EXPERIENCE IN MEDIA

- ▶▶ Handled Shariah related Live Q&A on ETV Urdu and Zee Salam
- ▶▶ Alhamdulillah, answered over 6000 questions on Live programs
- ▶▶ Interview on BBC World Services "Solutions for Imbalanced Economic System and Credit Crisis"
- ▶▶ Qatar Radio, Sharjah TV UAE, Radio Kuwait, NTV Nepal, ABC Nepal
- ▶▶ Iqratv UK Europe ,DM digital UK Europe, Ahadtv New York USA, DD, Munsif TV, HMTV, TV9, ETV Urdu, Zee Salam, Zee Punjabi, City Cable Channels
- ▶▶ Completed 400 episodes on Zee Salam, the Urdu TV Channel of Zee Telefilms
- ▶▶ Interviewed on South African Radio by IPCI, Dawah Center of Shaik Ahmed Deedat(R)
- ▶▶ And many more Channels

DAWAH MILESTONES

- ▶▶ Program on the topic "Concept of peace In Islam" followed by Q/A for Officers of Anti Terrorism Squad (ATS) in Mumbai Police Department under the supervision of the then ATS Chief Late Mr. Hemant Karkare, IPS
- ▶▶ Designed curriculum in Islamic Jurisprudence for Scholars of Indian Madaris
- ▶▶ Trained about Five Hundred Ulema from India on the rules of Islamic Jurisprudence
- ▶▶ Study on Indian Share Market and its alternate for Muslims preventing Muslims from indulging in trade with companies dealing in interest.
- ▶▶ Fundamentals of Islamic Business with comparative study of contemporary Economic systems
- ▶▶ Delivered International Public talks in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, UAE, Malaysia, Singapore, UK, USA, France, Maldives, Canada, Sri Lanka & Nepal
- ▶▶ Delivered Public talks in almost all major Cities & Towns in the Indian States of Delhi Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Goa, Rajasthan, West Bengal, Orrisa, Bihar, Uttar Pradesh, Uttara Khand, Guwahati Assam, Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir etc.
- ▶▶ In close contact with Top Islamic Universities & Top Ulema Kiram of the World
- ▶▶ Has a wide Network of young upcoming Ulema & Dayees across the World
- ▶▶ Over 200 Video CDs Answering Allegations of Non-Muslims against Islam



COURSES BY ARSHAD BASHEER MADANI

- 7 Days – Residential Arabic Quranic Grammar
- 1 Day – Enjoy your Life with Islamic Thinking
- 1 Day – Uloomul Qur'an & Uloomul Aqeedah
- 1 Day – Islamic History (Lessons), Islamic Healing
- 1 Day – Islamic Management Skills in the light of Seerah
- 1 Day – Islamic & Contemporary Economics (Islamic Banking)
- 1 Day – Qawaid-E-Fiquiyyah specially for Scholars of Indian Madaris
- 1 Day – Qur'anic Miracle Reasoning with answering allegations on Qur'an
- 1 Day – Islamic Rulings for Professionals like Doctors, Advocates, Businessmen Etc.
- 3, 5 & 15 Days – Dawah Training Program in English, Urdu & Arabic languages
- 7 & 15 Days – Islamic Kids Camp for Children in Urdu & English
- 21 Days – Authentic & Unauthentic Ahadees Segregation for Scholars of Madaris
- 3 Hours – Various Islamic Modules strengthening the basic Islamic Knowledge
- And many other Short term training programs and Crash Courses aimed at building a strong Islamic foundation among the participants

CURRENT PROJECTS

- Advisor of 8 Islamic International Islamic Schools
- Advisor of Online Islamic University
- Cyber Madani Production House
- HD Quality Islamic Digital Library

CURRENT PROJECTS

- Islamic Facebook, Islamic SMS Services
- 24 hours Online Islamic Call Centre
- Qur'anPedia, HadeesPedia, AudioPedia, VideoPedia
- E-Books & Audio Books



SYLLABUS DEVELOPED

- ▶▶ Arabic Language for School Children from Nursery to Grade 9
- ▶▶ Islamic Studies for School Children from Nursery to Grade 9
- ▶▶ Islamic Studies Series for Age Group from 5 to 9 Years
- ▶▶ Arabic Rhymes & Poems for Children
- ▶▶ Arabic Grammar for Adults
- ▶▶ Course Material for Conducting Workshops on Uloomul Aqeedah
- ▶▶ Uloomul Quran, Uloomul Hadees, Uloomul Fiqh, Uloomul Usra, Uloomul Dawah, Uloomul Buyoo

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes





+91-92906 21633



www.Askmadani.com



Askmadani@gmail.com



Date of Publishing: 17-10-2018

نبذة تعريفية عن

الشيخ أرشد بشير المدني

مؤسس ومدير الموقع آسك اسلام بيديا
ومؤسس أوشن مدرسة Abmcourses.com

الاسم: هو الشيخ حافظ أرشد بشير بن بشير أحمد -حفظه الله- ولد سنة 1978 هـ في مدينة حيدرآباد ونشأ فيها، بولاية تلنغانه الهند.

الدراسة: حفظ القرآن ونال الشهادة الثانوية الحكومية في حيدرآباد و اتجه إلى طلب العلم الشرعي في جامعة دار السلام بعمرآباد بولاية تامل نادو وتخرج منها عام 1996 ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة لينهل من مناهلها الصافي وتخرج من كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية سنة 2002.

- وقد أخذ ماجستير في إدارة الأعمال من كلية آي سي بي ايم بحيدرآباد. وكان أول طالب هندي الذي حصل على درجة الماجستير في العلوم المعاصرة باللغة الإنجليزية
- حاليا يأخذ الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة سويسرا في أوروبا.
- عنده إجازة من أشهر العلماء في القرآن والكتب الستة.
- قد أسس شركة استشارية عالمية في الإمارات العربية المتحدة وكان مديرا لها لسبع سنوات. وكذلك هو مدير لأكثر من الشركات في الهند.

● وهو داعية وخطيب عالمي ألقى أكثر من مئات الخطب والمحاضرات في موضوعات شتى كلها في بيان عقيدة صحيحة وما يصادها ونشر رسالة الإسلام الخالدة ومحاربة الشرك والبدعة والأفكار الهدامة وترسيخ منهج أهل السنة والجماعة في الأفراد والمجتمع.

● وأسس موقع "آسك اسلام بيديا" بهدف نشر الإسلام الصحيح ومكافحة الإرهاب بجميع مظاهره في أشهر لغات الهند والعالم.

● وله خطب مشهورة في مقارنة الأديان وبيان فضل الإسلام مع إقامة العديد من جلسات الأسئلة والأجوبة.

● وقد تنوعت جهود الشيخ -حفظه الله- في بيان رسالة الإسلام من محاضرات وإلقاء دروس وكلمات وتأليف الكتب والمقالات وإقامة دورات علمية وشرعية وإجابة الأسئلة ومشاركات في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية ومقابلات في وسائل الإعلام على قنوات عالمية ومحلية. Arshad Basheer M.

● اللغات التي يجيدها الشيخ: الأردية والعربية والإنجليزية والهندية.

● واللغات التي يعرفها الشيخ: الفارسية، التلغوية، التاميلية، والإسبانية.

● وله شركات ومؤسسات مثل

◆ اي بي ام برنت تائم (ABM Print Time) مكتب للطباعة والنشر.

◆ أوشن مدرسة أي بي ام (Ocean The ABM School) المدرسة للعلوم العصرية.

◆ شركة أي بي ام للتقنيات (ABM Corporate).

◆ موقع أي بي ام للدورات العلمية (Abmcourses.com) المدرسة علي الانترنت.

◆ موقع آسك اسلام بيديا (Askislampedia.com) الموقع والبورتل على غرار.

غوغل وويكي مصدر في أكثر من خمسين لغة.

الدعوة في الوسائل الإعلام المعروفة

- كان يجيب عن الأسئلة الشرعية على قناة إي تي وي وقناة ذي سلام. وقد أجاب أكثر من ستة آلاف أسئلة في البرامج المباشرة.
- وكذلك على قناة تي تي وي أردو له أكثر من خمسين مجلسا بثا مباشرا أجاب فيه على نحو ستمائة سؤال و تحت رئاسة نائب الرئيس لتلنغانة آنذاك.
- له مقابلة صحفية في بي بي سي العالمية حول موضوع "ما هو الحل للنظام الاقتصادي غير المتوازن" وأزمات الائتمان.
- وله مشاركات عديدة مفيدة في القنوات الفضائية العالمية الإذاعات الإسلامية مثل: إذاعة قطر، وقناة الشارقة، وإذاعة كويت، قناة اين وكذلك قناة اي بي سي نيبال، قناة إقرا المملكة المتحدة - أوروبا، دي ايم ديجيتل المملكة المتحدة - أوروبا، قناة أحد نيويورك - الولايات المتحدة، قناة دي دي، قناة منصف، قناة ايج ايم، قناة 9، قناة أي تي وي أردو، قناة ذي سلام، قناة ذي بنجابي وقنوات ستي كيبل.
- إلى الآن بحمد الله أكمل 400 حلقات على قناة ذي سلام التي هي قناة أردية لذي تيليفيلم.
- وله مقابلة مشهورة على إذاعة جنوب أفريقيا من أي بي سي ايل الذي هو مركز الدعوة للشيخ أحمد ديدات -رحمه الله-

ذكر بعض إنجازات الشيخ في الدعوة

- (1) محاضرة بعنوان "مفهوم السلام في الإسلام" لفرقة مكافحة الإرهاب العسكرية مع تلقي الأسئلة وإجابتها في قسم شرطة مومباي تحت إشراف رئيس فرقة مكافحة الإرهاب المتوفى مستر هيمنت كركري.
- (2) وضع وانشاء المناهج الدراسية في الفقه الإسلامي لأساتذة ومدرسي المدارس الهندية.
- (3) إقامة دورات تدريبية في القواعد الفقهية للمتخرجين في الهند.
- (4) دراسة عن سوق الأسهم الهندية وبديلها لإرشاد المسلمين وتحذيرهم من الانضمام والالتحاق مع الشركات التجارية التي تتعامل بالربا.
- (5) دراسة أسس التجارة الإسلامية مع دراسة مقارنة في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وتطبيقاتها.
- (6) إلقاء محاضرات عامة دولية في السعودية، كويت، قطر، عمان، بحرين، الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا، سنغافورة، المملكة المتحدة لبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، جزر المالديف، سيريلانكا، نيبال وكندا.

7) إلقاء محاضرات عامة في جميع ولايات الهند تقريبا مثل دلهي، ولاية اندرا براديش، تاميل نادو، ولاية كارناتاكا، كرا، ماهاراشترا، غوا، راجستان، ولاية البنغال الغربية، أوريسا، بيهار، اوتار براديش، أوتار كهند، بنجاب، هاريانا، جامو وكشمير وولاية آسام-

8) له أكثر من 200 فيديوها في الرد على ادعاءات واتهامات أعداء الإسلام ضد الإسلام

الدورات التدريبية التي يقيمها الشيخ أرشد بشير المدني

- 7 أيام - دورة في قواعد اللغة العربية القرآنية (توفير السكن للطلاب المشاركين في الدورة)
- 1 يوم - استمتع بحياتك في ضوء الأفكار الإسلامية
- 1 يوم - في علوم القرآن وعلوم العقيدة
- 1 يوم - دروس في التاريخ الإسلامي، الدورة لتعليم الرقية الشرعية
- 1 يوم - دورة لتعليم الرقية الشرعية
- 1 يوم - في مهارات الإدارة الإسلامية في ضوء السيرة النبوية
- 1 يوم - في الاقتصاد الإسلامي والمعاصرة (مصرفية إسلامية)
- 1 يوم - القواعد الفقهية لمدرسي المدارس الهندية
- 1 يوم - معجزات القرآن والرد على الاعتراضات والتحديات عليه
- 1 يوم - التعليمات الإسلامية للأطباء والمحامين والتجار وغيرهم من رجال الحرفة
- 3, 5 و 15 أيام - دورات تدريبية دعوية باللغة الإنجليزية والأردية والعربية
- 7 و 15 أيام - مخيمات صيفية للأطفال بالأردية والانجليزية
- 21 أيام - دورة في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف والسقيم لطلاب الجامعات
- 3 ساعات - وحدات مختلفة لتقوية المعرفة الإسلامية الأساسية
- وله عدة دورات وبرامج لتعزيز القيم الإسلامية الأساسية في الطلاب

المشاريع الحالية للشيخ

- مستشار في ثمان مدارس إسلامية دولية
- مستشار في الجامعة الإسلامية عبر الانترنت
- المدني دار الإنتاج الإلكترونية
- المكتبة الإلكترونية مع الجودة العالية
- خدمات الرسائل القصيرة الإسلامية وفيسبوك إسلامي

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

- مركز اتصال اسلامية عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة
- الموسوعة في القرآن والحديث، آديو بيديا وفيديو بيديا
- الكتب الإلكترونية والصوتية

إعداد المناهج الدراسية

- اللغة العربية للمدارس العصرية من مستوى الحضانة إلى الصف التاسع
- الدراسات الإسلامية للطلاب المدارس العصرية من مستوى الحضانة إلى الصف التاسع
- سلسلة الدراسات الإسلامية للأولاد من سن 5 إلى 9
- أناشيد عربية للأطفال
- قواعد اللغة العربية للكبار
- المواد الدراسية للدورات في علوم العقيدة
- علوم القرآن، علوم الحديث، علوم الفقه، علوم الأسرة، علوم الدعوة وعلوم البيوع

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes



Type here for Unstructured Content

AIP Search

For Structured and Organized Content, Select below language

English

العربية (Arabic)

اردو (Urdu)

हिंदी (Hindi)

తెలుగు (Telugu)

मराठी (Marathi)

ગુજરાતી (Gujarati)

中国的 (Chinese)

español (Spanish)

français (French)

ಕನ್ನಡ (Kannada)

Deutsch (German)

বাংলা (Bengali)

தமிழ்(Tamil)

മലയാളം (Malayalam)

italiano (Italian)

português (Portugal)

русский (Russian)

čNederlands (Dutch)

Bahasa Melayu (Malaysian)

অসমীয়া (Assamese)

svenska (Swedish)

Show more languages

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes















ASK ISLAM PEDIA

GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

ANDROID APPLICATIONS



 <p>AskIslamPedia AskIslamPedia</p> <p>★★★★★</p>	 <p>عمرة گائیڈ AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	 <p>Ask Madani AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	 <p>Islamic Dictionary AskIslamPedia</p> <p>★★★★★</p>	 <p>Pillars of Islam & E AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>
 <p>ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಮಾರ್ನ ಮೂಲ AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	 <p>حج و عمرہ کی دعائیں AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	 <p>ಅಸ್ತ-ಒ 99 ನ್ನ AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	 <p>Supplications of Hajj AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	 <p>99 Names of Allah AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>
 <p>Asma Ul Husna AskIslamPedia</p> <p>★★★★★</p>	 <p>حج گائیڈ AskIslamPedia</p> <p>★★★★★ FREE</p>	<p>in-sha-Allah many more are under development</p> <p>FREE DOWNLOAD Available on the Android App Store</p>		

in-sha-Allah you can download these apps on  too soon

Feedback

Get ready to learn the Arabic language and Arabic grammar in a short time.

All praises are due to Allaah subhanahu watala alone.

I have received feedback from various students that after reading this book (Quranic Arabic Grammar by Arshad Basheer Madani) and attending the course conducted by him , it has become easier to read other major books and take admission in bigger courses, such as(duroosulluga al Arabiyyah Books of Dr. V Abdurraheem , Syllabus of I.O.U. (Islamic online university) Islamic Studies program ,Madinah University Mahad Course and courses of Indian religious schools like Umarabad etc .

This book can be a powerful start, after which it will be easier for you to take bigger courses and go to the next level of your Arabic career In sha Allaah.

.....

تاثرات

مختصر وقت میں عربی زبان کی معلومات اور عربی گرامر کا فہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
الحمد للہ مختلف طلبہ سے مجھے یہ تاثرات ملے کہ اس کتاب (قرآنک عربک گرامر از ارشد بشیر مدنی) کے پڑھنے کے بعد دیگر بڑی کتابیں پڑھنا اور مزید مراحل طے کرنا آسان ہو گیا، جیسے دکتور ف. عبد الرحیم کی کتابیں دروس اللغة العربیہ ، مدینہ یونیورسٹی کا معہد، آئی. او. یو. (Islamic Online University – Dr. Bilal Philips) کا اسلامک اسٹڈیز پروگرام اور دینی مدارس جیسے عمر آباد میں پڑھنا آسان ہو گیا۔
یہ کتاب ایک بہترین شروعات (Powerful Start) کا سبب بن سکتی ہے، اس کے بعد بڑے کورس کرنا اور بڑے مراحل طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ۔

جمع و ترتیب تاثرات

ارشد بشیر مدنی سلمہ اللہ

Arshad Basheer Madani

+91-9290621633 (whatsapp message only)

www.Facebook.com/ArshadBasheerMadani

To Organize Programs and Courses of Shaikh Arshad Basheer Madani

Contact: Br. Mansoor, Global Network Head AskIslamPedia.com

0091 - 93909 93901 - mansoor@askislampedia.com

For Islamic Queries mail your questions to askmadani@gmail.com

AND FOR OTHER DETAILS LOG ON TO

www.AskIslamPedia.com | www.AskMadani.com

Publisher and Printer

ABM Print Time

abm.printtime@gmail.com | 0091- 93909 93901, 99890 22928

Arshad Basheer Madani Notes